

سو (100) سال قبل یعنی 1319ھ میں حروفِ تہجی کے لحاظ سے ترتیب دی گئی

آسان لغاتِ قرآن

قرآن مجید کے دس ہزار سے زائد الفاظ کا

عام فہم اور آسان اردو زبان میں ترجمہ

قدیم ترقیب اور جدید اختراع کے ساتھ

مولانا سید شہید علی الدین پٹنہوی

نظر ثانی

مولانا عطاء الرحمن ثاقب
ام ساجد کیلانی

اصافہ خات

محمد قبال کیلانی



2- شبیر محل روڈ - لاہور
فون : 7232808

حالت پبلیکیشنز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تکذیب

زیر نظر کتاب ”عمدہ لغات قرآن“ آج سے سو سال قبل کی تحریر شدہ اور شائع شدہ کتاب ہے اس کے فاضل مصنف شہید الدین احمد (بنارس) ہیں جو غیر معروف ہیں۔ مصنف نے اسے 1319ھ میں مرتب اور شائع کیا۔ اس وقت سے اب تک غالباً یہ دوبارہ شائع نہیں ہوئی۔

حسن اتفاق سے یہ کتاب جناب محمد اقبال کیلانی حفظہ اللہ (الریاض) بانی سلسلہ ”تفہیم السنۃ“ کو ان کے والد مرحوم مولانا حافظ محمد ادریس کیلانی رحمہ اللہ کے کتب خانے سے ملی، انہوں نے اسے دیکھ کر محسوس کیا کہ عوام کے لئے اس کی اشاعت مفید ہوگی، چنانچہ وہ اسے دوبارہ منظر عام پر لا کر اسے حیات نوعطا کر رہے ہیں۔ وفقہ اللہ تعالیٰ

عربی لغت میں کسی لفظ کا تلاش کرنا، عام لوگوں کے لئے تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ اصل مادوں کے علم کے بغیر لغت میں لفظ کو تلاش کرنا نہایت مشکل ہے حتیٰ کہ بعض دفعہ اہل علم بھی اصل مادے اور مشتق منہ تک پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں۔ فاضل مصنف رحمہ اللہ نے اس لغت کو، عام عربی لغت کے برعکس حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا ہے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی بھی، جسے عربی زبان سے آشنائی نہ ہو، وہ الفاظ قرآنی اس لغت میں آسانی سے تلاش کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے عوام اور فہم قرآن کے طالب اور شائقین کے لئے یہ لغت نہایت مفید ہے اور اس کی اشاعت قرآن کریم کی ایک عظیم خدمت ہے۔

علاوہ ازیں ہمارے فاضل دوست اور ”تفہیم السنۃ“ سلسلے کی مقبول تالیفات کے مولف جناب محمد اقبال کیلانی حفظہ اللہ (استاد جلد۱ الملک السعود، الریاض، سعودی عرب) نے اس کی قدیم زبان کی اصلاح کر کے اور صرفی و نحوی چیزوں کا اضافہ کر کے اس کی افادیت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ جزاہ اللہ عن الاسلام والمسلمین احسن الجزاء

امید ہے کہ قرآن نگہی کے لئے یہ لغت، جس کا ذوق الحمد للہ روز افزوں ہے، نہایت مفید اور کارآمد ثابت ہوگی اور اس اعتبار سے اس کی اشاعت تو بھی یقیناً ایک دینی، علمی اور قرآنی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اسے مصنف و ناشر اور دیگر معاونین و کارکنان ”تفہیم السنۃ“ سب کے لئے صدقہ جاریہ بنائے۔ مع

ایں دعاء از من و از جملہ جہاں آمین باد

(فضیلۃ الشیخ) حافظ صلاح الدین یوسف (حفظہ اللہ تعالیٰ)

رکن اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان
خطیب جامع اہل حدیث مدنی روڈ، مصطفیٰ آباد، لاہور
جمادی الثانی 1423ھ

تقریب

میں نے اس لغت کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی منفرد لغت ہے۔ آسان اور نہایت مختصر، اگرچہ اس طرز پر اس سے قبل لغات القرآن کے نام سے ایک لغت موجود ہے، مگر وہ اس کی نسبت بہت ضخیم ہے۔ زیر نظر لغات کی خوبی یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی لفظ تلاش کرنے کے لئے ”مادہ“ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عربی گرائمر کی ابتدائی معلومات رکھنے والے قرآن مجید کے طالب علم کے لئے اس لغت سے استفادہ بہت مفید رہے گا۔

بعض مقامات پر اردو الفاظ کے انتخاب میں قدرے سقم نظر آتا ہے۔ تاہم وہ مفہوم کے ادراک میں مانع نہیں۔ ہر فعل، صیغہ، ذکر کر دیا گیا ہے۔ تاکہ اس کی گرائمر معلوم ہو سکے۔ مصدر، ظرف کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ مونث کے صیغوں میں کہیں کہیں ”وہ عورت“ لکھا گیا ہے، جو لفظی ترجمے کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ لغت سے استفادہ کرتے ہوئے خود ہی اس کی تصحیح کر لی جائے۔

مجموعی طور پر یہ لغت مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فائدہ مند ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک قرآن مجید کے لفظی ترجمے سے آگاہی نہیں ہوتی، با محاورہ مفہوم بھی صحیح سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ کتاب اس ضرورت کو کافی حد تک پورا کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین!

(مولانا) **عطاء الرحمن ثاقب** (حفظہ اللہ تعالیٰ)

پرنسپل، فہم القرآن انسٹیٹیوٹ، لاہور
رکن اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان

فہرست

آسان لغات قرآن

صفحہ نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحہ نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحہ نمبر	الفاظ	نمبر شمار
53	ا-ث	26	45	آ	7	15	بسم اللہ الرحمن الرحیم	1
53	ا-ج	27	45	آ-ب	8	24	عربی زبان کی بعض	2
55	ا-ح	28	45	آ-ت	9		ضروری اصطلاحات	
57	ا-خ	29	45	آ-ث	10	33	عربی گرامر کے	3
60	ا-د	30	45	آ-خ	11		بعض اہم قواعد	
61	ا-ذ	31	46	آ-د	12	35	رموز اوقاف	4
62	ا-ر	32	46	آ-ذ	13		بعض اہم گردائیں	5
65	ا-ز	33	46	آ-ز	14	37	◎ ماضی معروف	6
66	ا-س	34	46	آ-س	15	38	◎ ماضی مجہول	
73	ا-ش	35	47	آ-ص	16	39	◎ مضارع معروف	
74	ا-ص	36	47	آ-ف	17	40	◎ مضارع مجہول	
76	ا-ض	37	47	آ-ک	18	41	◎ اسم فاعل	
77	ا-ط	38	47	آ-ل	19	41	◎ اسم مفعول	
79	ا-ظ	39	47	آ-م	20	42	◎ امر حاضر	
79	ا-ع	40	48	آ-ن	21	42	◎ امر غائب	
82	ا-غ	41	48	آ-و	22	43	◎ نہی حاضر	
83	ا-ف	42	48	آ-ی	23	43	◎ نہی غائب	
84	ا-ق	43	48	ا-ب	24			
86	ا-ک	44	51	ا-ت	25		۱	

صفحہ نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحہ نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحہ نمبر	الفاظ	نمبر شمار
138	ت-غ	89	109	ب-ن	67	88	ا-ل	45
139	ت-ف	90	110	ب-و	68	90	ا-م	46
141	ت-ق	91	110	ب-ہ	69	93	ا-ن	47
143	ت-ک	92	110	ب-ی	70	98	ا-و	48
144	ت-ل	93		ت		100	ا-ہ	49
146	ت-م	94				101	ا-ی	50
147	ت-ن	95	111	ت-ا	71		ب	
150	ت-و	96	113	ت-ب	72			
153	ت-ہ	97	114	ت-ت	73	102	ب-ا	51
153	ت-ی	98	117	ت-ث	74	104	ب-ث	52
	ث		117	ت-ج	75	104	ب-ح	53
			118	ت-ح	76	104	ب-خ	54
153	ث-ا	99	120	ت-خ	77	104	ب-د	55
154	ث-ب	100	122	ت-د	78	105	ب-ر	56
154	ث-ج	101	123	ت-ذ	79	106	ب-س	57
154	ث-ر	102	124	ت-ر	80	106	ب-ش	58
154	ث-ع	103	127	ت-ز	81	106	ب-ص	59
154	ث-ق	104	128	ت-س	82	107	ب-ض	60
154	ث-ل	105	131	ت-ش	83	107	ب-ط	61
155	ث-م	106	132	ت-ص	84	107	ب-ع	62
155	ث-و	107	133	ت-ض	85	108	ب-غ	63
155	ث-ی	108	134	ت-ط	86	108	ب-ق	64
	ج		135	ت-ظ	87	108	ب-ک	65
			135	ت-ع	88	109	ب-ل	66

صفحة رقم	الفاظ	نمبر شمار	صفحة رقم	الفاظ	نمبر شمار	صفحة رقم	الفاظ	نمبر شمار	
173	خ-ذ	153	163	ح-د	131	155	ج-ا	109	
173	خ-ر	154	164	ح-ذ	132	157	ج-ب	110	
174	خ-ز	155	164	ح-ر	133	157	ج-ت	111	
174	خ-س	156	165	ح-ز	134	157	ج-ح	112	
174	خ-ش	157	165	ح-س	135	157	ج-د	113	
175	خ-ص	158	166	ح-ش	136	157	ج-ذ	114	
175	خ-ض	159	166	ح-ص	137	158	ج-ر	115	
175	خ-ط	160	167	ح-ض	138	158	ج-ز	116	
175	خ-ف	161	167	ح-ط	139	158	ج-س	117	
176	خ-ل	162	167	ح-ظ	140	158	ج-ع	118	
177	خ-م	163	167	ح-ف	141	159	ج-ي	119	
177	خ-ن	164	167	ح-ق	142	159	ج-ل	120	
177	خ-و	165	168	ح-ك	143	159	ج-م	121	
177	خ-ي	166	168	ح-ل	144	159	ج-ن	122	
	د		169	ح-م	145	160	ج-و	123	
			169	ح-ن	146	160	ج-ه	124	
178		د-ا	167	170	ح-و	147	161	ج-ي	125
179	د-ب	168	170	ح-ي	148		ح		
179	د-ح	169		خ		161		ح-ا	126
179	د-خ	170			149	162		ح-ب	127
179	د-ر	171	171		خ-ا			ح-ت	128
180	د-س	172	172	خ-ب	150	163	ح-ث	129	
180	د-ع	173	173	خ-ت	151	163	ح-ج	130	
180	د-ف	174	173	خ-د	152	163			

صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار
195	ز-د	217	188	ر-ت	195	180	د-ك	175
195	ز-ر	218	188	ر-ج	196	181	د-ل	176
195	ز-ع	219	189	ر-ح	197	181	د-م	177
195	ز-ف	220	189	ر-خ	198	181	د-ن	178
195	ز-ك	221	189	ر-د	199	181	د-و	179
195	ز-ق	222	190	ر-ز	200	181	د-ه	180
196	ز-ل	223	190	ر-س	201	182	د-ي	181
196	ز-م	224	190	ر-ش	202		ذ	
196	ز-ن	225	190	ر-ص	203			
196	ز-و	226	190	ر-ض	204	182		ذ-ا
197	ز-ه	227	191	ر-غ	205	183	ذ-ب	183
197	ز-ي	228	191	ر-ف	206	183	ذ-ر	184
	س		191	ر-ق	207	183	ذ-ق	185
			192	ر-ك	208	183	ذ-ك	186
197		س-ا	229	192	ر-م	209	184	ذ-ل
200	س-ب	230	192	ر-ر	210	184	ذ-م	188
200	س-ت	231	193	ر-ه	211	184	ذ-ن	189
201	س-ج	232	193	ر-ي	212	185	ذ-و	190
201	س-ح	233		ز		185	ذ-ه	191
201	س-خ	234				185	ذ-ي	192
202	س-د	235	194		ز-ا	213		ر
202	س-ر	236	194	ز-ب	214			
203	س-ط	237	194	ز-ج	215	186	ر-ا	
203	س-ع	238	195	ز-ح	216	187	ر-ب	194

صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار
220	ض-ا	281	212	ش-م	261	203	س-ف	239
221	ض-ب	282	212	ش-ن	262	204	س-ق	240
221	ض-ح	283	212	ش-و	263	204	س-ك	241
221	ض-د	284	212	ش-ه	264	205	س-ل	242
221	ض-ر	285	213	ش-ي	265	205	س-م	243
221	ض-ع	286				206	س-ن	244
222	ض-غ	287		ص		207	س-و	245
222	ض-ف	288	214	ص-ا	266	207	س-ه	246
222	ض-ل	289	215	ص-ب	267	207	س-ي	247
222	ض-ن	290	216	ص-ح	268			
	ض-ي	291	216	ص-خ	269		ش	
	ط		216	ص-د	270	208	ش-ا	248
			217	ص-ر	271	209	ش-ب	249
223	ط-ا	292	218	ص-ع	272	209	ش-ت	250
224	ط-ب	293	218	ص-غ	273	209	ش-ج	251
224	ط-ح	294	218	ص-ف	274	209	ش-ح	252
224	ط-ر	295	218	ص-ل	275	209	ش-د	253
224	ط-س	296	219	ص-م	276	210	ش-ر	254
224	ط-ع	297	219	ص-ن	277	210	ش-ط	255
225	ط-غ	298	219	ص-و	278	211	ش-ع	256
225	ط-ف	299	220	ص-ه	279	211	ش-غ	257
225	ط-ل	300	220	ص-ي	280	211	ش-ف	258
225	ط-م	301				211	ش-ق	259
225	ط-و	302		ض		212	ش-ك	260

صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار
243	غ-ط	345	235	ع-ص	323	226	ط-ه	303
243	غ-ف	346	236	ع-ض	324	226	ط-ى	304
243	غ-ل	347	236	ع-ط	325		ظ	
244	غ-م	348	236	ع-ظ	326			
244	غ-ن	349	236	ع-ف	327	226	ط-ا	305
245	غ-و	350	237	ع-ق	328	227	ظ-ع	306
245	غ-ى	351	237	ع-ل	329	227	ظ-ف	307
	ف		238	ع-م	330	227	ظ-ل	308
			240	ع-ن	331	228	ظ-م	309
245	ف-ا	352	240	ع-و	332	228	ظ-ن	310
247	ف-ت	353	240	ع-ه	333	228	ظ-ه	311
247	ف-ج	354	240	ع-ى	334		ع	
248	ف-ح	355				229		
248	ف-خ	356		غ			ع-ا	312
248	ف-د	357	241		غ-ا	335	231	ع-ب
248	ف-ر	358	242	غ-ب	336	231	ع-ت	314
250	ف-ز	359	242	غ-ث	337	232	ع-ث	315
250	ف-س	360	242	غ-د	338	232	ع-ج	316
250	ف-ش	361	242	غ-ر	339	232	ع-د	317
250	ف-ص	362	243	غ-ز	340	233	ع-ذ	318
251	ف-ض	363	243	غ-س	341	233	ع-ر	319
251	ف-ط	364	243	غ-ش	342	234	ع-ز	320
251	ف-ظ	365	243	غ-ص	343	235	ع-س	321
251	ف-ع	366	243	غ-ض	344	235	ع-ش	322

صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار
	ل		261	ق-و	389	251	ف-ق	367
271	ل-ا	410	262	ق-ه	390	252	ف-ك	368
272	ل-ب	411	262	ق-ى	391	252	ف-ل	369
272	ل-ج	412		ك		252	ف-و	370
272	ل-ح	413				252	ف-ه	371
273	ل-د	414	262	ك-ا	392	252	ف-ى	372
273	ل-ذ	415	264	ك-ب	393		ق	
273	ل-ز	416	265	ك-ت	394			
273	ل-س	417	265	ك-ث	395	253	ق-ا	373
273	ل-ط	418	265	ك-د	396	254	ق-ب	374
273	ل-ظ	419	265	ك-ذ	397	255	ق-ت	375
273	ل-ع	420	266	ك-ر	398	256	ق-ث	376
274	ل-غ	421	267	ك-س	399	256	ق-د	377
274	ل-ف	422	267	ك-ش	400	257	ق-ذ	378
274	ل-ق	423	267	ك-ظ	401	257	ق-ر	379
274	ل-ك	424	267	ك-ع	402	258	ق-س	380
274	ل-م	425	268	ك-ف	403	258	ق-ص	381
275	ل-ن	426	269	ك-ل	404	259	ق-ض	382
275	ل-ر	427	269	ك-م	405	259	ق-ط	383
275	ل-ه	428	269	ك-ن	406	260	ق-ع	384
276	ل-ى	429	270	ك-و	407	260	ق-ف	385
	م		270	ك-ه	408	260	ق-ل	386
			271	ك-ى	409	261	ق-م	387
276	م-ا	430		©©		261	ق-ن	388

صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحة نمبر	الفاظ	نمبر شمار
326	ن-ف	477	307	م-و	455	278	م-ب	431
327	ن-ق	478	309	م-ه	456	279	م-ت	432
328	ن-ك	479	310	م-ى	457	281	م-ث	433
329	ن-ل	480				282	م-ج	434
330	ن-م	481		ن		283	م-ح	435
330	ن-ن	482	311	ن-ا	458	284	م-خ	436
331	ن-ر	483	313	ن-ب	459	285	م-د	437
332	ن-ه	484	315	ن-ت	460	286	م-ذ	438
332	ن-ى	485	315	ن-ث	461	287	م-ر	439
	و		315	ن-ج	462	289	م-ز	440
			316	ن-ح	463	289	م-س	441
333	و-ا	486	317	ن-خ	464	292	م-ش	442
334	و-ب	487	318	ن-د	465	293	م-ص	443
334	و-ت	488	318	ن-ذ	466	294	م-ض	444
334	و-ج	489	319	ن-ر	467	295	م-ط	445
335	و-ح	490	319	ن-ز	468	296	م-ظ	446
335	و-د	491	320	ن-س	469	296	م-ع	447
335	و-ر	492	322	ن-ش	470	298	م-غ	448
336	و-ز	493	322	ن-ص	471	299	م-ف	449
336	و-س	494	323	ن-ض	472	299	م-ق	450
337	و-ص	495	323	ن-ط	473	301	م-ك	451
337	و-ض	496	324	ن-ظ	474	302	م-ل	452
337	و-ط	497	324	ن-ع	475	303	م-م	453
337	و-ع	498	325	ن-غ	476	304	م-ن	454

صفحہ نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحہ نمبر	الفاظ	نمبر شمار	صفحہ نمبر	الفاظ	نمبر شمار
368	ی-س	529	342	ہ-م	514	338	و-ف	499
374	ی-ش	530	342	ہ-ن	515	338	و-ل	500
376	ی-ص	531	342	ہ-ر	516	338	و-و	501
378	ی-ض	532	343	ہ-ی	517	339	و-ہ	502
379	ی-ط	533				339	و-ی	503
351	ی-ظ	534		ی			ہ	
351	ی-ع	535	343	ی-ا	518			
385	ی-غ	536	345	ی-ب	519	339	ہ-ا	504
386	ی-ف	537	348	ی-ت	520	340	ہ-ب	505
388	ی-ق	538	353	ی-ث	521	340	ہ-ج	506
391	ی-ک	539	353	ی-ج	522	340	ہ-د	507
393	ی-ل	540	355	ی-ح	523	340	ہ-ذ	508
395	ی-م	541	359	ی-خ	524	340	ہ-ر	509
397	ی-ن	542	362	ی-د	525	340	ہ-ز	510
401	ی-ر	543	363	ی-ذ	526	340	ہ-ش	511
405	ی-ہ	544	364	ی-ر	527	342	ہ-ض	512
407	ی-ی	545	367	ی-ز	528	342	ہ-ل	513

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْاَمِیْنِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ ،

اَمَّا بَعْدُ !

اجرو ثواب اور خیر و برکت کے اعتبار سے قرآن مجید کے فضائل لامحدود ہیں لیکن اس کے نزول کی حقیقی غرض و غایت لوگوں کی ہدایت اور راہنمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿وَ اِنَّهُ لَهْدٰی وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ﴾

”بے شک یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لئے۔“ (سورہ نمل، آیت 77)

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بَیِّنٰتًا لِّكُلِّ شَیْءٍ وَ هُدٰی وَ رَحْمَةً وَ بُشْرٰی لِّلْمُؤْمِنِیْنَ﴾

”اور ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے جس میں (نیکی اور برائی سے متعلق) ہر چیز کے بارے میں وضاحت موجود ہے اور یہ کتاب مسلمانوں کے لئے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔“ (سورہ نمل، آیت نمبر 89)

سورہ یونس میں ارشاد مبارک ہے:

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْوْمٌ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ شِفَاۗءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ وَ هُدٰی وَ

رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ﴾

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت اور سینوں کی بیماریوں کے لئے شفا

آجکل ہے جو اہل ایمان کے لئے ہدایت اور رحمت ہے۔ (سورہ یونس، آیت نمبر 57)

نزول قرآن کے وقت کتنے ہی نفوسِ قدسیہ ایسے تھے، جو اس قرآن مجید کی حکمت سے لبریز آیات کو سن کر ایمان لائے۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

① حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ایک روز میں رسول اکرم ﷺ کو ستانے کے لئے گھر سے نکلا، آپ ﷺ مجھ سے پہلے حرم میں داخل ہو چکے تھے، میں جب حرم پہنچا تو آپ ﷺ نماز میں سورہ الحاقہ تلاوت فرما رہے تھے میں آپ ﷺ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن پاک کے پُراثر کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ یکا یک میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے۔ تب فوراً ہی آپ ﷺ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمَنُونَ﴾ یہ رسول کریم کا قول ہے کسی شاعر کا قول نہیں لیکن تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ (آیات 40-41) میں نے اپنے دل میں سوچا اگر یہ شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے۔ اسی وقت آپ ﷺ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے ﴿وَلَا يَقُولِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے مگر تم لوگ کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ یہ کلام تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ (آیت 42-43) رسول اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے ادا کی گئی قرآن مجید کی یہ آیات میرے دل پر اسلام کا نقشِ اولین ثابت ہوئیں۔

اس کے بعد وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم ﷺ کے قتل کے ارادے سے تنگی تلوار لے کر نکلے، راستے میں اپنی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو اُلٹے پاؤں بہن کے گھر پہنچے جہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد پر حضرت خباب رضی اللہ عنہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے قرآن مجید کے اوراق چھپائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہن اور بہنوئی دونوں کو بیٹنا شروع کر دیا۔ بہن کے سر سے خون نکلتا دیکھ کر عداوت محسوس ہوئی، تو کہا اچھا لاؤ دکھاؤ وہ صحیفہ، جو تم پڑھ رہے تھے، بہن نے وضاحت کی کہ تم شرک کی وجہ سے نجس ہو، پہلے غسل کرو، حضرت عمر رضی

اللہ عنہ نے غسل کیا، صحیفہ سورہ طہ کی آیات پر مشتمل تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا، تو کہنے لگے ”کیا عمدہ اور بلند پایہ کلام ہے“ حضرت خباب رضی اللہ عنہ یہ تبصرہ سن کر باہر نکل آئے اور کہا ”عمر! مجھے امید ہے اللہ نے تمہیں رسول اکرم ﷺ کی دعا کے نتیجے میں چن لیا ہے۔ پس اے عمر! آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دار ارقم میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

② حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ یمن کے قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ شاعر بھی تھے کسی کام سے مکہ گئے تو قریش مکہ نے رسول اکرم ﷺ کے خلاف کان بھرنے شروع کر دیئے جس سے وہ آپ ﷺ کے بارے میں سخت بدگمان ہو گئے۔ ایک روز طفیل بن عمرو نے آپ ﷺ کو حرم میں نماز پڑھتے دیکھا، قرآن مجید کے چند جملے سنے تو محسوس کیا یہ تو بڑا اچھا کلام ہے۔ اپنی بدگمانی پر کچھ ناوم سے ہوئے۔ جب رسول اکرم ﷺ نماز سے فارغ ہو کر گھر چلے تو طفیل بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوئے، گھر پہنچ کر عرض کیا ”میں فلاں فلاں قبیلے سے ہوں قریش کے سرداروں کے کہنے پر آپ کے بارے میں سخت بدگمان تھا حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی حرم میں آپ کی زبان مبارک سے چند کلمات سنے ہیں جو مجھے اچھے لگے ہیں آپ مجھے تفصیل سے بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟“ جواب میں نبی اکرم ﷺ نے سورہ اخلاص اور سورہ فلق کی تلاوت فرمائی۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اسی وقت بیعت کے لئے ہاتھ آگے بڑھا دیئے اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

③ حضرت ضمازدی رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں رسول اکرم ﷺ کے دوست تھے مکہ آئے، تو لوگوں نے بتایا کہ محمد ﷺ تو دیوانے ہو گئے ہیں۔ حضرت ضمازدی رضی اللہ عنہ جھاڑ پھونک کے ماہر تھے۔ اس ارادے سے رسول اکرم ﷺ کے پاس گئے کہ ان کا علاج کروں گا تا کہ وہ صحت مند ہو جائیں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر مدعا پیش کیا۔ رسول اکرم ﷺ نے پہلے کلمہ شہادت ادا فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور اس کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ ضمازدی رضی اللہ عنہ کو یہ کلام پاک اتنا پسند آیا کہ دوبارہ پڑھنے کی درخواست کی۔ رسول اکرم ﷺ نے تین مرتبہ اعادہ فرمایا۔ ضمازدی رضی اللہ عنہ سننے کے بعد کہنے لگے ”میں نے ایسا کلام پہلے کبھی نہیں سنا، میں نے کانوں کا کلام سنا ہے، شاعروں اور ساحروں

کا کلام بھی سنا ہے مگر یہ کلام تو سمندر کی تہ تک پہنچنے والا کلام ہے۔“ حضرت حماد از دی رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ پوری قوم کی طرف سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

④ مدینہ منورہ میں دین اسلام کے اولین خوش نصیب مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنے میزبان حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر قبیلہ بنو عبد الاشہل کے باغ میں کچھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ بنو عبد الاشہل کے سردار اسید بن خنیز آئے اور درشت لہجے میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر کہا ”تم ہمارے آدمیوں کو بے وقوف بنا رہے ہو خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے نکل جاؤ اور آئندہ کبھی اس طرف کارخ نہ کرنا۔“ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بڑے تحمل اور نرمی سے فرمایا ”میرے بھائی! آپ تشریف رکھیں اور ایک دفعہ میری بات سن لیں، پسند آئے تو مانیں، نہ آئے تو رد کر دیں۔“ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی یہ گفتگو سن کر اسید بن خنیز کا سارا غصہ جاتا رہا، بیٹھ گئے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کے چند احکام بتانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کی ادھر تلاوت ختم ہوئی ادھر اسید بے اختیار بول اٹھے۔ ”کیسا اچھا دین اور کیسا اعلیٰ کلام ہے، اس دین میں داخل ہونے کے لئے تم کیا کرتے ہو؟“ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا ”غسل کر کے حق کی شہادت دیں اور نماز پڑھیں۔“ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

⑤ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی، قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنے محلہ میں دین اسلام کی دعوت دیتے دیکھ کر سعد بن معاذ غضب ناک ہو گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے بڑے صبر و تحمل سے کام لیا۔ ان کے سامنے محاسن اسلام پیش کئے اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا سینہ نور ایمان سے جگمگا اٹھا اور ان کی زبان سے بھی بے اختیار وہی بات نکلی جو حضرت اسید رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلی تھی کہ اس دین میں داخل ہونے کے لئے تم کیا کرتے ہو؟ انہیں بتایا گیا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، ایمان کی شہادت دی، دو رکعت نماز ادا کر کے

اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔

قرآن مجید جس طرح پہلے لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت تھا اسی طرح آج بھی ہدایت اور رحمت ہے۔ بشرطیکہ اسے سوچ سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلہ میں ہم یہاں حضرت احف بن قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش کرتے ہیں، جو یقیناً قارئین کے لئے سبق آموز ہوگا۔

حضرت احف بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے قبیلہ کے سردار اور ذہین و فطین انسان تھے ایک روز قرآن مجید کی تلاوت سن رہے تھے۔ قاری نے سورہ انبیاء کی جب یہ آیت تلاوت کی ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لو گے؟ (سورہ انبیاء، آیت نمبر 10)، تو سن کر چونک اٹھے، کہنے لگے ذرا قرآن مجید تو لاؤ، دیکھوں میرا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہاں کیا ہے؟

قرآن مجید کا غور سے مطالعہ شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے کچھ لوگوں کا تذکرہ ان الفاظ میں ملا ”وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، آخر شب استغفار کرتے ہیں ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔“ (سورہ ذاریات، آیت 17-19) پھر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر خیر آیا جن کے بارے میں ارشاد مبارک ہے ”ان کے پہلو خواب گاہوں سے الگ رہتے ہیں وہ لوگ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔“ (سورہ سجدہ، آیت 16) پڑھتے پڑھتے کچھ لوگوں کا تذکرہ آیا جن کی شان یہ بیان کی گئی تھی ”وہ لوگ خوش حالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، غصہ کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ ایسے ہی نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔“ (سورہ آل عمران، آیت 134) حضرت احف رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو پہچانتے تھے، کہنے لگے میرے اللہ میں تو ان لوگوں میں کہیں نظر نہیں آتا۔ چنانچہ مزید مطالعہ کیا تو کچھ اور لوگوں کا ذکر ان الفاظ میں ملا ”جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو وہ تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم ایک دیوانے اور شاعر آدمی کے لئے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟“ (سورہ صافات، آیت 35-36) ایسے بدنصیب لوگوں کا مزید ذکر ان الفاظ میں پایا ”جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔“ (سورہ زمر، آیت 45) قرآن مجید کا مطالعہ کرتے

کرتے حضرت احنف رضی اللہ عنہ کو کچھ ایسے بد قسمت لوگ بھی ملے جن سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا ”تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی؟“ وہ جواب دیں گے ”ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے (اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں) شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں کیا کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔“ (سورہ مدثر، آیت 42-46)

حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ اگرچہ اپنے بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے لیکن انہیں یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان رکھتے ہیں اللہ کے باغیوں اور منکروں میں ان کا شمار نہیں، کہنے لگے ”میرے اللہ! ایسے لوگوں سے میری پناہ میں ان لوگوں سے بیزار ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ پھر اپنی تلاش شروع کر دی بالآخر اپنا تذکرہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں ڈھونڈ نکالا ”کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا انہوں نے مل جلے عمل کئے کچھ اچھے اور کچھ برے، اللہ سے امید ہے کہ ان کے حال پر نظر کرم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑی مغفرت والا اور رحم فرمانے والا ہے۔“ (سورہ توبہ، آیت 102) ساتھ ہی کچھ دوسرے لوگوں کا کردار ان الفاظ میں بیان کیا گیا تھا ”اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں، جو گمراہ ہیں۔“ (سورہ الحجر، آیت 56) حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے یہ آیتیں پڑھیں تو کہنے لگے بس! بس! میں نے اپنے آپ کو پالیا، مجھے قرآن میں اپنا ذکر بھی مل گیا۔ حمد اور تعریف اس ذات کے لئے ہے جس نے مجھ جیسے گنہگاروں کو فراموش نہیں فرمایا۔

قارئین کرام! اس کتاب ہدایت میں ہم بھی اپنے آپ کو تلاش کر سکتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، بچے بھی اور بوڑھے بھی، اولاد بھی، والدین بھی، یتیم بھی اور بیوہ بھی، مسکین بھی اور محتاج بھی، صرف افرادی نہیں بلکہ تو میں بھی اپنے آپ کو تلاش کر سکتی ہیں بشرطیکہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کی طرح ہم بھی جانتے ہوں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیا۔

قرآن مجید کو سمجھنے کے لئے عربی زبان جاننا اور سمجھنا ضروری ہے اسی غرض کے لئے آسان لغات قرآن کی اشاعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔

کچھ آسان لغات قرآن کے بارے میں:

اشاعت حدیث کا پروگرام ”تفہیم السنہ“ آج سے پندرہ سال قبل 1985ء میں شروع ہوا تھا۔ 1992ء میں کتاب التوحید زیر طبع تھی، محترم والد حافظ محمد ادریس کیلانی رحمہ اللہ کتاب کی نظر ثانی فرما چکے تھے کہ داعی اجل کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ زندگی کے آخری سانس تک مرحوم اشاعت حدیث کے لئے ہمہ تن مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمت قبول فرما کر انہیں جنت الفردوس میں بلند درجات سے نوازے۔ آمین۔

اشاعت حدیث کے ساتھ ساتھ محترم والد صاحب کی یہ زبردست خواہش تھی کہ کسی نہ کسی صورت میں خدمت قرآن کے کار خیر میں بھی حصہ ڈالنا چاہئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے علامہ نواب وحید الزمان رحمہ اللہ کا ترجمہ اور تفسیر شائع کرنے کا مشورہ بھی دیا لیکن وقت اور وسائل کی کمیابی اس خواہش کی تکمیل میں آڑے آئی، مرحوم والد صاحب کی رحلت کے بعد یہ خیال مسلسل ذہن میں موجود رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مرحوم والد صاحب کی خواہش کی تکمیل کا کوئی موقع عطا فرمایا تو اسے پورا کرنے کی ضرورت کو شش کروں گا۔ قریباً چار پانچ سال قبل مرحوم والد صاحب کی لائبریری سے بعض کتب دیکھ رہا تھا کہ اچانک ”عمدہ لغات قرآن“ پر نظر پڑی، جسے مولانا شہید الدین بنارس رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے۔ لغات کے آغاز میں مولانا موصوف تحریر فرماتے ہیں ”اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنی رحمت کاملہ سے کترین شہید الدین احمد غفر اللہ ذنوبہ، متوطن بنارس کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ بغرض آسانی شائقین ترجمہ قرآن مجید تمام لغات قرآن کو ترتیب حروف حتمی مع معانی اردو 1319ھ میں جمع کر کے عمدہ لغات قرآن نام رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو مقبول فرما کر میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین“، گویا یہ لغات آج سے سو سال پہلے مرتب کی گئی تھی اس لغات کی سب سے اہم خوبی جو مجھے نظر آئی وہ اس کی ترتیب بلحاظ حروف حتمی تھی، یہی ترتیب ہمارے ہاں تمام اردو اور انگریزی ڈکشنریوں کی ہے، جسے ہر پڑھا لکھا آدمی بڑی آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔

قرآن مجید کی قریباً تمام کتب لغات عموماً الفاظ کے مادوں کے اعتبار سے مرتب کی گئی ہیں جسے عام

آدمی تو کجا بعض اوقات پڑھے لکھے حضرات بھی استعمال کرنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اولاً ہر آدمی الفاظ کے مادوں سے واقف نہیں ہوتا۔ ثانیاً بعض الفاظ ایسے ہیں جن کے مادے معلوم کرنا پڑھے لکھے لوگوں کے لئے بھی مشکل ہوتا ہے۔ مثلاً مَاءٌ (کامادہ موہ)، تَقْوَى (کامادہ وقی)، فُوَاد (کامادہ فاد)، مَوْلَاً (کامادہ وال)، سَنَةً (کامادہ وسن)، اَذْغَا (کامادہ ذیع)، مَوءَ دَةً (کامادہ واد) وغیرہ ایسے مادے ہیں جنہیں وہی لوگ جانتے ہیں، جو عربی زبان پر اچھا عبور رکھتے ہیں۔ چنانچہ ”عمدہ لغات قرآن“ کی آسان اور سادہ ترتیب کی وجہ سے میں نے اسے طبع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس مقصد کے لئے جب اس کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا تو سب سے پہلے اس کی قدیم اردو زبان کے الفاظ کو جدید اور آسان الفاظ میں بدلنے کی ضرورت محسوس ہوئی جنہیں جدید مروجہ الفاظ میں بدل دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید سہولت کے لئے لغات میں دیئے گئے تمام اسماء کے آگے واحد اور جمع کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ (واحد کا جمع اور جمع کا واحد) افعال اور صیغوں کی وضاحت بھی پہلے نہیں تھی وہ بھی شامل کر دی گئی ہے۔ یاد رہے ماضی معروف یا مضارع معروف کو صرف ماضی اور مضارع لکھا گیا ہے جبکہ مجہول افعال کے ساتھ ”مجہول“ کا اضافہ کیا گیا ہے۔

عربی زبان سیکھنے والے شائقین کے لئے عربی زبان کی ضروری اصطلاحات نیز گرامر کے بعض اہم بنیادی قواعد اور ضروری گردانیں بھی شامل کر دی گئیں ہیں جنہیں سمجھنے اور یاد کرنے کے بعد قرآن مجید کو سمجھنا ان شاء اللہ بہت آسان ہو جائے گا۔

لغات کی نظر ثانی اور دیگر اضافہ جات کی تکمیل میں عزیزہ ہمشیرہ ام ساجد کیلانی، سابق پرنسپل جامعہ عائشہ صدیقہ، کھیالی، گوجرانوالہ کا تعاون میرے لئے بہت حوصلہ افزا ثابت ہوا۔ محترم مولانا عطاء اللہ نقاب رحمہ اللہ، پرنسپل فہم قرآن انسٹیٹیوٹ و رکن اسلامی نظریاتی کونسل نے شدید مصروفیات کے باوجود محض خدمت قرآن کے جذبہ سے بڑی دلچسپی اور عرق ریزی سے اس کی نظر ثانی مکمل فرمائی جس کے لئے میں ان کا تیرہ دل سے شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور جنت الفردوس میں ان کے لئے بلند درجات کا باعث بنائے، آمین۔ برادر عزیز ہارون الرشید کیلانی نے لغات



کی کمپوزنگ اور ترمیم کے لئے قابل قدر محنت کی، برادر عزیز خالد محمود کیلانی، مدیر حدیث پہلی کمیشنز کی ذاتی دلچسپی اور محنت شاقہ کی بدولت لغات کی بروقت طباعت ممکن ہوئی۔ میں تمام حضرات کا فرداً فرداً شکر گزار ہوں کہ ان سب کے پر خلوص تعاون کی وجہ سے ہی مجھے ”تفہیم السنہ“ کی تالیف کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے لغات قرآن پر کام کرنے کا حوصلہ اور موقع ملا تاہم قرآن مجید کی اس حقیر خدمت کا پہلا سبب مولانا شہید الدین بناری رحمہ اللہ کی انتہائی محنت اور عرق ریزی سے مرتب کی گئی لغات ہے اور دوسرا سبب مرحوم والد صاحب کی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دست بستہ درخواست ہے کہ وہ اس لغات کو مرحومین کے لئے تاقیامت صدقہ جاریہ بنائے اور دونوں بزرگوں کی مغفرت اور بلندی درجات کا باعث بنائے۔ آمین۔

میں اپنے رب رحیم و کریم کے حضور سجدہ شکر بجالاتا ہوں کہ اس نے میری تمام تر علمی اور عملی بے بضاعتی کے باوجود مجھ ایسے ناکارہ اور نالائق کو یہ توفیق بخشی کہ وہ کسی نہ کسی طرح خدمت قرآن کی سعادت میں حصہ لے سکے۔ اب اسی رب رحیم و کریم کے حضور یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے بے پایاں فضل و کرم اور احسان سے قرآن مجید کی اس انتہائی حقیری خدمت کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ تَب عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

محمد اقبال کیلانی عن اللہ عنہ

الریاض، سعودی عرب

16 صفر، 1421ھ

برطانیق 20 مئی 2000ء

عربی زبان کی بعض ضروری اصطلاحات

حرکت	زیر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں
وضاحت	عربی میں زیر کو ”جر“ یا ”کسرہ“، زیر کو ”فتح“ یا ”نصب“ اور پیش کو ”رفع“ یا ”ضمہ“ بھی کہتے ہیں
متحرک	حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں
مجرور	وہ حرف جس کے نیچے زیر (یا جر) ہو اسے مجرور کہتے ہیں۔ مثلاً ضَرْبَ میں ”ر“ مجرور ہے۔ ایسے حرف کو کسور بھی کہتے ہیں
مفتوح	وہ حرف جس کے اوپر زیر (یا فتح) ہو اسے مفتوح کہتے ہیں مثلاً ضَرْبَ میں ”ب“ مفتوح ہے۔ ایسے حرف کو منصوب بھی کہتے ہیں
مضموم	وہ حرف جس کے اوپر پیش (یا ضمہ) ہو اسے مضموم کہتے ہیں مثلاً ضَرْبَ میں ”ض“ مضموم ہے۔ ایسے حرف کو مرفوع بھی کہتے ہیں
ساکن	وہ حرف جس پر سکون کی علامت ہو اسے ساکن کہتے ہیں مثلاً ”وَزْدَ“ میں ”ر“ پر سکون ہے لہذا اسے ساکن کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سکون کو جزم بھی کہتے ہیں اور جس حرف پر سکون یا جزم ہو اسے مجزوم کہتے ہیں۔
مشدود	وہ حرف جس پر شدہ و مشدود کہلاتا ہے۔ مثلاً مُحَمَّدٌ میں ”م“ مشدود ہے۔



توین	اکٹھی دوزیر یا دوزیر یا دو پیش کو توین کہتے ہیں۔ مثلاً مُحَمَّدٌ میں ”د“ کے اوپر توین ہے۔
نون توین	دوزیر، دوزیر یا دو پیش کے تلفظ میں جو ”نون“ کی آواز پیدا ہوتی ہے، اسے نون توین کہتے ہیں۔ مثلاً اَ (اَنْ) ، اِ (اِن) ، اُ (اُن)
مذکر	نر کو مذکر کہتے ہیں۔ مثلاً مرد۔
مونث	مادہ کو مونث کہتے ہیں۔ مثلاً عورت۔
حاضر	جو شخص موجود ہوا سے حاضر کہتے ہیں۔ مثلاً تم۔
غائب	جو شخص موجود نہ ہوا سے غائب کہتے ہیں۔ مثلاً وہ۔
متکلم	کلام کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں۔ مثلاً میں یا ہم۔
واحد	ایک چیز کو واحد یا مفرد کہتے ہیں۔ مثلاً رَجُلٌ (ایک مرد)
ثنیہ	دو چیزوں کو ثنیہ کہتے ہیں۔ مثلاً رَجُلَانِ (دو مرد)
جمع	دو سے زائد چیزوں کو جمع کہتے ہیں۔ مثلاً رَجَالٌ (بہت سے مرد)
اسم جمع	وہ لفظ جو بظاہر واحد ہو لیکن اس میں جمع کا مفہوم پایا جائے۔ مثلاً قَوْمٌ (ایک قوم)
کلمہ	وہ لفظ جو با معنی ہو جس سے کوئی معنی سمجھ میں آ جائے، نحو کی اصطلاح میں اسے ”کلمہ“ کہا جاتا ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔

① اسم

② فعل

③ حرف

اسم کسی چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

① اسم نکرہ ② اسم معرفہ

اسم نکرہ عام اشیاء کے نام کو نکرہ کہتے ہیں۔ مثلاً كِتَابٌ ، كُرْسِيٌّ ، رَجُلٌ ، وغیرہ

اسم معرفہ خاص اشاء کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں مثلاً زَيْدٌ (ایک خاص مرد کا نام ہے) مَكَّةُ (ایک خاص شہر کا نام ہے)

اسم تفضیل وہ اسم ہے جس کے مفہوم میں دوسرے کے مقابلہ میں زیادتی پائی جائے۔ مثلاً وَاللَّهُ أَعْلَمُ (اللہ خوب جانتا ہے) اس میں ”أَعْلَمُ“ اسم تفضیل ہے۔

اسم زمان و مکان جو اسم کسی کام کرنے کی جگہ بتائے اسے اسم مکان کہتے ہیں مثلاً مسجد اسم مکان ہے جو اسم کام کرنے کا زمانہ بتائے اسے اسم زمان کہتے ہیں مثلاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ (جمعہ کا دن) اسم زمان ہے۔

اسم موصول وہ اسم ہے جس کا مفہوم بعد میں آنے والے جملے سے مکمل ہو۔ مثلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا) اس مثال میں ”الَّذِي“ اسم موصول ہے۔ چند اسماء موصولہ درج ذیل ہیں:

- ① الَّذِي (واحد مذکر کے لئے) ② الَّذِي (واحد مؤنث کے لئے)
③ مَنْ (عاقِل کے لئے) ④ مَا (غیر عاقل کے لئے)

وضاحت: الَّذِي واحد مذکر کے لئے، الَّذَانِثنیہ مذکر کیلئے اور الَّذِینَ جمع مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ الَّذِیٰ واحد مؤنث کے لئے، اللَّتَانِثنیہ مؤنث کے لئے اور اللَّاتِیٰ جمع مؤنث کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

اسم اشارہ جس لفظ کے ذریعہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اسم اشارہ کی دو قسمیں ہیں:

- ① اسم اشارہ قریب ② اسم اشارہ بعید
● اسم اشارہ قریب مثلاً هَذَا قَلَمٌ (یہ قلم ہے) هَذَا اسم اشارہ قریب کہلاتا ہے۔

اس کے باقی صیغے درج ذیل ہیں:

جمع	ثنیہ	واحد	
هَؤُلَاءِ	هَٰذَانِ	هَٰذَا	مذکر
هَؤُلَاءِ	هَٰتَانِ	هَٰذِهِ	مونث

② اسم اشارہ بعید مثلاً ذَلِکَ کِتَابٌ (وہ ایک کتاب ہے) ذَلِکَ اسم اشارہ بعید کہلاتا ہے۔ اس کے باقی صیغے درج ذیل ہیں:

جمع	ثنیہ	واحد	
أُولَٰئِكَ	ذَٰئِكَ	ذَٰلِکَ	مذکر
أُولَٰئِكَ	تَٰئِکَ	تَٰلِکَ	مونث

فعل کام کو کہتے ہیں۔ اس کی چار قسمیں ہیں:

① ماضی ② مضارع ③ امر ④ نہی

فعل ماضی وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں واقع ہوا ہو، ماضی کہلاتا ہے۔ مثلاً ضَرَبَ (اس نے مارا)

فعل مضارع وہ فعل جو زمانہ حال میں واقع ہوا ہو یا مستقبل میں واقع ہونے والا ہو، مضارع کہلاتا ہے۔ مثلاً یَضْرِبُ (وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا)

فعل امر وہ فعل جس میں کسی بات کا حکم دیا جائے۔ فعل امر کہلاتا ہے۔ مثلاً اِضْرِبْ (تو مار)

فعل نہی وہ فعل ہے جس میں کسی بات سے حکماً منع کیا جائے۔ فعل نہی کہلاتا ہے۔ مثلاً لَا تَضْرِبْ (تو نہ مار)

معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو معروف کہلاتا ہے۔ مثلاً ضَرَبَ (اس نے مارا) اس مثال میں

- مارنے والا مرد یعنی فاعل معلوم ہے لہذا یہ فعل معروف ہے۔
- مجبول وہ فعل جس کا فاعل نامعلوم ہو مجبول کہلاتا ہے۔ مثلاً ضَرَبَ (وہ ایک مرد مارا گیا) اس میں فاعل نامعلوم ہے لہذا یہ فعل مجبول ہے۔
- فاعل کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ مثلاً ضَرَبَ خَالِدٌ (خالد نے مارا) اس فقرے میں خالد فاعل ہے۔
- مفعول جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں۔ مثلاً ضَرَبَ خَالِدٌ حَامِدًا (خالد نے حامد کو مارا) اس فقرے میں حامد مفعول ہے۔
- حرف وہ کلمہ ہے جس کے الگ کوئی معنی نہ ہوں اور وہ معنی بتانے میں اسم یا فعل کا محتاج ہو۔ مثلاً بِ (ساتھ) مِّن (سے) اِلَى (طرف) وغیرہ
- ضمیر جو لفظ کسی نام کی جگہ بولا جائے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ مثلاً هُوَ (وہ) اَنَا (میں) وغیرہ۔
- وضاحت ضمائر کی دو قسمیں ہیں: ① ضمیر متصل ② ضمیر منفصل
- دونوں ضمیروں کی تفصیل درج ذیل ہے:

① ضمیر متصل:

جمع	ثنیہ	واحد	
هُم	هُمَا	هُ	مذکر غائب
هُنَّ	هُمَا	هَا	مونث غائب
هُمْ	كُما	كَ	مذکر حاضر
هُنَّ	كُما	كِ	مونث حاضر
نَا		ي	متكلم (مذکر/مونث)

② ضمیر منفصل:

جمع	ثنیہ	واحد	
هُم	هُمَا	هُوَ	مذکر غائب
هُنَّ	هُمَا	هِيَ	مونث غائب
انْتُمْ	انْتُمَا	انْتَ	مذکر حاضر
انْتُنَّ	انْتُمَا	انْتِ	مونث حاضر
نَحْنُ		اَنَا	متکلم (مذکر/مونث)

علم صرف وہ علم ہے جس میں الفاظ کی تبدیلی کا طریقہ بیان کیا جائے۔ مثلاً ضَرَبَ سے ضَرَبَا، ضَرَبُوا، ضَرَبَتْ وغیرہ۔

علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل، اور حرف کو باہم ترتیب دینے کا طریقہ بیان کیا جائے۔ مثلاً هَذِهِ الْبِنْتُ صَالِحَةٌ (یہ لڑکی نیک ہے)

حروف تہجی الف سے لے کر ی تک انتیس (29) حروف ہیں، انہی حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔

حروف شمسی وہ حروف ہیں جن کے شروع میں "ا-ل" لگانے سے لام پڑھانہ جاسکے۔ مثلاً السُّرُّجُ

میں "ر" اور "اَلشُّمْسُ" میں "ش" حروف شمسی ہیں۔ یہ درج ذیل چودہ (14)

حروف ہیں: ت، ث، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن۔

حروف قمری مذکورہ چودہ حروف کے علاوہ باقی چودہ حروف قمری کہلاتے ہیں۔ ان پر "ا-ل" لگانے سے

ال پڑھا جاتا ہے۔ مثلاً الْقَلَمُ میں "ق" اور الْبَدْرُ میں "ب" قمری حروف ہیں۔

حرف اصلی یا مادہ وہ حروف ہیں جو کسی لفظ کی تمام مختلف حالتوں میں موجود رہتے ہیں۔ مثلاً حَامِدٌ،

مَحْمُودٌ، مُحَمَّدٌ میں "ح، م، د" اصلی حروف یا مادہ کہلاتے ہیں، جو تینوں لفظوں میں

موجود ہیں۔

حروف زائد کسی لفظ میں اصلی حروف سے زائد حروف کو زائد کہا جاتا ہے۔ مثلاً حَامِدٌ میں ”ا“،

مَحْمُودٌ میں پہلا ”میم“ اور ”واو“، مُحَمَّدٌ میں پہلا ”میم“ حرف زائد ہے۔

وضاحت: یاد رہے کہ حروف اصلی کو حروف زائد سے الگ کرنے کے لئے ف، ع، ل کو میزان یا معیار قرار دیا گیا ہے جو حرف ف کے مقابلہ میں ہوگا اسے لاکھ کہا جائے گا جو عین کے مقابلہ میں ہوگا اسے عین کلمہ کہا جائے گا اور جو ل کے مقابلہ میں ہوگا اسے لاکھ کلمہ کہا جائے گا۔ مذکورہ مثال میں ”ح“ فا کلمہ ہے، ”م“ عین کلمہ ہے اور ”د“ لام کلمہ ہے۔

وزن جب کسی لفظ کے اصل حروف کاف، ع، ل سے مقابلہ کیا جائے اور باقی حروف یعنی

(زائد) کو برقرار رکھا جائے تو ف، ع، ل پر مشتمل حروف کو وزن کہا جائے گا۔ مثلاً كَبُرَ کا

وزن فَعْلٌ ہے۔ كَبِيرٌ کا وزن فَعِيلٌ ہے۔ اَكْبَرُ کا وزن اَفْعَلٌ ہے۔ تَكْبِيرٌ کا وزن تَفْعِيلٌ ہے۔

حروف جر وہ حروف جو اسم پر داخل ہو کر جر (یا زیر) دیتے ہیں حروف جر کہلاتے ہیں۔ مثلاً بِالسَّنِيفِ

میں ”ب“ حرف جر ہے۔ جس کی وجہ سے ”ف“ کے نیچے زیر آئی ہے۔ حروف جر کی

تعداد سترہ (17) ہے جو یہ ہیں:

(1) بَاء (2) تَاء (3) كَاف (4) لَام (5) وَاو (6) مُنذ (7) مُذ (8) خَلَا (9) رُبُّ

(10) حَاشَا (11) مِنْ (12) عَدَا (13) فِي (14) عَنْ (15) عَلَي (16) حَتَّى (17) لِأَلِي

حروف عاطفہ وہ حروف جو ایک کلمہ کو دوسرے کے ساتھ اس طرح ملا دیں کہ دونوں کلمے مفہوم اور اعراب

میں ایک جیسے ہو جائیں حروف عاطفہ کہلاتے ہیں۔ مثلاً جَاءَ زَيْنَةُ وَ خَالِدَةُ (حامد اور خالد

آئے) اس مثال میں ”وَ“ حرف عطف ہے۔ حروف عاطفہ کی تعداد (9) ہے جو یہ ہیں:

(1) وَ (2) ف (3) ثُمَّ (4) أَوْ (5) أَمْ (6) حَتَّى (7) لَا (8) بَل (9) لَكِنْ.

حرف ندا وہ حرف جو کسی کو بلانے کے لئے استعمال ہوتا ہے حرف ندا کہلاتا ہے۔ مثلاً ”يَا أَللَّهُ“ میں ”ہا“

حرفِ ندا ہے۔ جسے بلایا جائے اسے منادئی کہتے ہیں۔ مذکورہ مثال میں اللہ، منادئی ہے۔

حروفِ استفہام وہ حروف جو کسی کا مطلب دریافت کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں، حروفِ استفہام

کہلاتے ہیں۔ مثلاً هَلْ أَنْتُمْ ذَاهِبُونَ؟ (کیا تم لوگ جانے والے ہو؟) اس مثال میں

”هَلْ“ حرفِ استفہام ہے۔ حروفِ استفہام کی تعداد تیرہ (13) ہے جو کہ درج ذیل ہیں:

(1) أ (کیا) (2) هَلْ (کیا) (3) مَنْ (کون) (4) مَا (کیا) (5) مَاذَا (کیا) (6)

لِمَ (کیوں، کس لئے) (7) مَتَى (کب) (8) أَيْسَنَ (کب) (9) أَيْنَ (کہاں)

(10) كَيْفَ (کیسے) (11) أَنَّى (کہاں) (12) كَيْمَ (کتنا) (13) أَيْ (کون سا)

حروفِ علت حروفِ علت تین ہیں جو کہ یہ ہیں: ا، و، ی

حروفِ صحیح حروفِ علت کے علاوہ باقی سارے حروفِ صحیحی، حروفِ صحیح کہلاتے ہیں۔

ہمزہ وہ الف جو متحرک ہو یعنی جس پر زبر، زیر، پیش یا جزم ہو ہمزہ کہلاتا ہے۔ مثلاً رَأْسٌ میں

”أ“ ہمزہ کہلاتا ہے۔ اَمْرٌ میں ”أ“ ہمزہ کہلاتا ہے۔

وضاحت: ① حرفِ صحیحی کا ایک حرف ”ء“ بھی ہمزہ کہلاتا ہے۔ ② متحرک الف پر بھی زبر، زیر پیش یا جزم کے

ساتھ ہمزہ لکھا جاتا ہے جیسا کہ مذکورہ مثالوں سے واضح ہے جبکہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور اس کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔

ہمزۃ الوصل کسی لفظ کے شروع کا وہ ہمزہ جو اپنے سے پہلے لفظ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے تلفظ میں نہ بولا

جائے، ہمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔ مثلاً صَفْحَةُ الْكِتَابِ میں الْكِتَابِ کا ہمزہ بولا نہیں جاتا

(اگرچہ لکھا جاتا ہے) ہمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔

اسم جامد وہ اسم جو کسی دوسرے لفظ سے نہ نکلا ہو بلکہ مستقل اپنا وجود رکھتا ہو۔ مثلاً رَجُلٌ

اسم مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو مثلاً عَلِمَا (مصدر) سے عَلِمْتُ بنایا گیا ہے لہذا عَلِمْتُ اسم

مشتق ہے۔

اسم مصدر وہ اسم ہے جو خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سے لفظ بنتے ہیں۔ مثلاً نَصَرَ، ضَرَبَ

اسم مُصْفَر جس اسم سے چھوٹائی کا مفہوم ظاہر ہوتا ہو اسے اسم مصغر یا اسم تصغیر کہتے ہیں۔ مثلاً كِتَاب سے كَتَيْب (چھوٹی کتاب) عَبْد سے عُيَيْد (چھوٹا سا بندہ) منہی وہ کلمات جن کے آخری حرف کی حرکت کبھی نہیں بدلتی۔ مثلاً هُوْلَاءِ، اَلْدِّينِ مُعْرَب وہ کلمات جن کے آخری حرف کی حرکت بدلتی رہتی ہے۔ مثلاً جَاءَ زَيْدٌ، رَأَيْتُ زَيْدًا مِلْثَمِي مجرد جو فعل تین اصلی حرف پر مشتمل ہو اسے مِلْثَمِي مجرد کہتے ہیں۔ مثلاً ضَرَبَ، فَعَلَ، ذَهَبَ مِلْثَمِي مجرد وغیرہ مِلْثَمِي مجرد کے درج ذیل چھ ابواب ہیں:

- | | | | |
|---|------------------|-----|-----------------|
| ① | ضَرَبَ يَضْرِبُ | وزن | فَعَلَ يَفْعَلُ |
| ② | نَصَرَ يَنْصُرُ | وزن | فَعَلَ يَفْعَلُ |
| ③ | سَمِعَ يَسْمَعُ | وزن | فَعَلَ يَفْعَلُ |
| ④ | فَتَحَ يَفْتَحُ | وزن | فَعَلَ يَفْعَلُ |
| ⑤ | كَرَّمَ يَكْرُمُ | وزن | فَعَلَ يَفْعَلُ |
| ⑥ | حَسِبَ يَحْسِبُ | وزن | فَعَلَ يَفْعَلُ |

مِلْثَمِي مزید فیہ : مِلْثَمِي مجرد کے تین اصلی حروف میں جب ایک یا دو حروف کا اضافہ کر کے دوسرے افعال بنائے جاتے ہیں تو انہیں مِلْثَمِي مزید فیہ کہتے ہیں۔ مثلاً نَزَلَ مِلْثَمِي مجرد ہے اور اَنْزَلَ مِلْثَمِي مزید فیہ ہے، قَتَلَ مِلْثَمِي مجرد ہے قَاتَلَ مِلْثَمِي مزید فیہ ہے۔ مِلْثَمِي مزید فیہ کے درج ذیل دس باب ہیں:

- | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|--------------|
| ① | اِفْعَال | ② | تَفْعِيل | ③ | مُفَاعَلَة | ④ | تَفَعُّل |
| ⑤ | تَفَاعُل | ⑥ | اِفْتِعَال | ⑦ | اِنْفِعَال | ⑧ | اِسْتِفْعَال |
| ⑨ | اِفْعِلَال | ⑩ | اِفْعِلَال | | | | |

عربی گرائمر کے بعض اہم قواعد

- 1 ماضی قریب ماضی مطلق پر قَدْ لگانے سے ماضی قریب بن جاتا ہے۔ جیسے
قَدْ ضَرَبَ (اس نے ابھی مارا)
- 2 ماضی بعید ماضی مطلق پر كَانَ لگانے سے ماضی بعید بن جاتا ہے مثلاً
كَانَ ضَرَبَ (اس نے بہت پہلے مارا)
- نوٹ ماضی کے صیغوں کے ساتھ كَانَ کے صیغے بھی بدلتے جاتے ہیں مثلاً
كَانَ ضَرَبَ ، كَانَا ضَرَبْنَا ، كَانُوا ضَرَبُوا
- 3 ماضی منفی ماضی مطلق پر "مَا" لگانے سے ماضی منفی بن جاتا ہے مثلاً
مَا ضَرَبَ (اس نے نہیں مارا)
- 4 ماضی استمراری جو کام گزشتہ زمانہ میں ہمیشہ یا اکثر ہوتا رہا ہو اسے ماضی استمراری کہتے
ہیں۔ مضارع سے پہلے "كَانَ" لگانے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے
مثلاً كَانَ يَضْرِبُ (وہ مارتا تھا)
- نوٹ مضارع کے صیغوں کے ساتھ كَانَ کے صیغے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ مثلاً
كَانَ يَضْرِبُ ، كَانَا يَضْرِبَانِ ، كَانُوا يَضْرِبُونَ
- 5 مضارع منفی مضارع سے پہلے "لَا" لگانے سے مضارع منفی بن جاتا ہے۔ مثلاً
لَا يَضْرِبُ (وہ نہیں مارتا یا وہ نہیں مارے گا)
- 6 مضارع مختص بحال جب فعل مضارع کو زمانہ حال سے مخصوص کرنا مطلوب ہو تو مضارع کے
شروع میں "لِ" لگا دیتے ہیں مثلاً لِيَضْرِبُ (وہ مارتا ہے)

7 مضارع مختص بمستقبل جب مضارع کا مفہوم مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا ہو تو مضارع پر "س" یا "سوف" لگادیتے ہیں "س" مستقبل قریب کے لئے لگاتے ہیں مثلاً سَيَضْرِبُ (وہ عنقریب مارے گا) سوف مستقبل بعید کے لئے لگاتے ہیں مثلاً سوف يَضْرِبُ (وہ بہت دیر بعد مارے گا)

8 مضارع جحد بلعم مضارع سے پہلے "لَمْ" لگادیں تو اس سے ماضی منفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً لَمْ يَضْرِبُ (اس نے نہیں مارا) اسے مضارع جحد بلعم کہتے ہیں

نوٹ 1- مضارع پر "لَمْ" لگانے سے مضارع کے تمام صیغوں سے نون اعرابی گر جاتے ہیں۔ مثلاً يَضْرِبَانِ پر لَمْ لگانے سے لَمْ يَضْرِبَا (ان دو مردوں نے نہیں مارا) بنے گا۔ نون ضمیر باقی رہتے ہیں۔

2- مضارع پر "لَمْ" لگانے سے آخری حرف پر جزم آ جاتی ہے۔ مثلاً لَمْ يَضْرِبُ

9 مضارع جحد بلن مضارع سے پہلے "لَنْ" لگانے سے مستقبل میں تاکید اور منفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً لَنْ يَضْرِبُ (وہ ہرگز نہیں مارے گا) اسے مضارع جحد بلن کہتے ہیں

نوٹ 1- مضارع پر "لَنْ" لگانے سے "ن" اعرابی گر جاتے ہیں جبکہ "ن" ضمیر باقی رہتے ہیں۔ مثلاً لَنْ يَضْرِبَا (وہ دو مرد ہرگز نہیں ماریں گے)

2- مضارع پر "لَنْ" لگانے سے مضارع کے آخری حرف پر زبر آ جائے گی۔ مثلاً لَنْ يَضْرِبُ

10 مضارع مستقبل بہ نون خفیفہ و ثقیلہ مستقبل میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لئے مضارع سے پہلے "لَنْ" مفتوح اور آخر میں "ن" (نون خفیفہ)، "ن" (نون ثقیلہ) بڑھا دیتے ہیں مثلاً لَيَضْرِبَنَّ یا لَيَضْرِبَنَّ (وہ ضرور مارے گا)

امر حاضر یا امر غائب کے صیغوں میں تاکید پیدا کرنے کے لئے ان کے آخر میں نون خفیفہ یا نون ثقیلہ بڑھادیتے ہیں مثلاً اضرب سے، اضربن یا اضربن (تو ضرور مار) یا لیضربن یا لیضربن (وہ ضرور مارے)

رموز اوقاف

کسی زبان کی تحریر کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لئے اس تحریر میں استعمال کی گئی علامتیں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ بسا اوقات علامت کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے تحریر کا مفہوم کہنے والے کے مفہوم سے الٹ ہو جاتا ہے مثلاً ”روکو، مت جانے دو۔“ کا مطلب یہ ہے کہ جانے والے کو روک دیا جائے لیکن اگر پڑھنے والا روکو پر نہ ٹھہرے اور اس فقرے کو یوں پڑھے ”روکو مت، جانے دو۔“ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جانے والے کو مت روکو جانے دو۔ گویا ایک ہی فقرے میں تحریر کی علامت نہ سمجھنے یا اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دو متضاد اور الٹ مفہوم نکلنے کا پورا پورا امکان موجود ہے۔ اس سے کسی بھی تحریر میں علامتوں کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید کی آیات کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے استعمال کی گئی علامتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔

ان علامتوں کو ”رموز اوقاف“ کہا جاتا ہے۔

رموز اوقاف کی تفصیل درج ذیل ہے:

- (1) O یہ بات مکمل ہونے کی علامت ہے لہذا یہاں دوران تلاوت رکنا چاہئے۔
- (2) لا اس علامت پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے لیکن ضرورت سے ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں۔
- (3) م یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ یہاں ضرور ٹھہرنا چاہئے نہ ٹھہرنے سے آیت کے مفہوم میں خلل پڑسکتا ہے۔
- (4) ط یہ وقف مطلق کی علامت ہے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں بات کہنے والا مزید



- کچھ کہنا چاہتا ہے لہذا یہاں رک کر اگلی عبارت پڑھنی چاہئے۔
- (5) ج یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے مگر نہ ٹھہرنا جائز ہے۔
- (6) ز یہ لفظ ”تجاوز“ کا اختصار ہے یہاں ٹھہرے بغیر گزر جانا چاہئے۔
- (7) ص یہ وقف مرخص کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنے کی رخصت ہے۔
- (8) صلے یہ ”الوصل اولی“ کا اختصار ہے یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔
- (9) ق یہ قبل علیہ الوقف کا مخفف ہے یہاں ٹھہرنا چاہئے۔
- (10) صل یہ قد یوصل کی علامت ہے۔ ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا دونوں طرح جائز ہے لیکن ٹھہرنا بہتر ہے۔
- (11) قف یہ ٹھہرنے کی علامت ہے یہاں پر ٹھہرنا چاہئے۔
- (12) س/سکتہ سانس توڑے بغیر معمولی رکنے کی علامت ہے۔
- (13) وقفہ سکتہ اور وقفہ کا ایک ہی مفہوم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وقفہ پر سکتہ کی نسبت زیادہ رکنا چاہئے۔
- (14) لا اس علامت پر ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہئے۔
- (15) لا میں الف کا تلفظ ادا نہیں کیا جاتا جبکہ اوپر گول نشان ہو۔
- (16) جو عبارت تین تین نقطوں میں گھری ہوئی ہو اسے دوسرے تین نقطوں پر وصل کر کے پہلے تین نقطوں پر وقف کرنا چاہئے یا پہلے تین نقطوں پر وصل کر کے دوسرے تین نقطوں پر وقف کرنا چاہئے۔ اس علامت کو معانقہ یا مراقبہ کہتے ہیں۔



بعض اہم گردانیں

1 ماضی معروف

نمبر شمار	گردان	ترجمہ	صیغہ
اضر	1	ضَرَبَ	اس ایک مرد نے مارا
	2	ضَرَبَا	ان دو مردوں نے مارا
	3	ضَرَبُوا	ان سب مردوں نے مارا
	4	ضَرَبَتْ	اس ایک عورت نے مارا
	5	ضَرَبَتَا	ان دو عورتوں نے مارا
	6	ضَرَبْنَ	ان سب عورتوں نے مارا
اضر	7	ضَرَبْتَ	تو ایک مرد نے مارا
	8	ضَرَبْتُمَا	تم دو مردوں نے مارا
	9	ضَرَبْتُمْ	تم سب مردوں نے مارا
	10	ضَرَبْتِ	تو ایک عورت نے مارا
	11	ضَرَبْتُمَا	تم دو عورتوں نے مارا
	12	ضَرَبْتِنَّ	تم سب عورتوں نے مارا
متکلم	13	ضَرَبْتُ	میں نے مارا
	14	ضَرَبْنَا	ہم نے مارا

2 ماضی مجہول

نمبر شمار	گردان	ترجمہ	صیفہ
1	مذکر	وہ ایک مرد مارا گیا	واحد
		وہ دو مرد مارے گئے	ثنیہ
		وہ سب مرد مارے گئے	جمع
	مونث	وہ ایک عورت ماری گئی	واحد
		وہ دو عورتیں ماری گئیں	ثنیہ
		وہ سب عورتیں ماری گئیں	جمع
2	مذکر	تو ایک مرد مارا گیا	واحد
		تم دو مرد مارے گئے	ثنیہ
		تم سب مرد مارے گئے	جمع
	مونث	تو ایک عورت ماری گئی	واحد
		تم دو عورتیں ماری گئیں	ثنیہ
		تم سب عورتیں ماری گئیں	جمع
3	میں مارا گیا / میں ماری گئی		واحد، مذکر و مونث
	ہم دونوں / سب مارے گئے		ثنیہ / جمع، مذکر و مونث

مضارع معروف 3

نمبر نمار	گردان	ترجمہ	صیغہ
اضر	1	وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا	واحد مذکر يَضْرِبُ
	2	وہ دو مرد مارتے ہیں یا ماریں گے	ثنیہ يَضْرِبَانِ
	3	وہ سب مرد مارتے ہیں یا ماریں گے	جمع يَضْرِبُونَ
	4	وہ ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی	واحد مونث تَضْرِبُ
	5	وہ دو عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی	ثنیہ تَضْرِبَانِ
	6	وہ سب عورتیں مارتی ہیں یا ماریں گی	جمع تَضْرِبْنَ
اضر	7	تو ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا	واحد مذکر تَضْرِبُ
	8	تم دو مرد مارتے ہو یا مارو گے	ثنیہ تَضْرِبَانِ
	9	تم سب مرد مارتے ہو یا مارو گے	جمع تَضْرِبُونَ
	10	تو ایک عورت مارتی ہے یا مارے گی	واحد مونث تَضْرِبِينَ
	11	تم دو عورتیں مارتی ہو یا مارو گی	ثنیہ تَضْرِبَانِ
	12	تم سب عورتیں مارتی ہو یا مارو گی	جمع تَضْرِبْنَ
متکلم	13	میں ایک مڑ (یا عورت) مارتا ہوں یا ماروں گا	واحد مذکر و مونث أَضْرِبُ
	14	ہم سب مڑ (یا عورتیں) مارتے ہیں یا ماریں گے	ثنیہ و جمع مذکر و مونث نَضْرِبُ

4 مضارع مجہول

نمبر شمار	گردان	ترجمہ	صیغہ
اضر	1	یُضْرَبُ وہ ایک مرد مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا	واحد مذکر
	2	يُضْرَبَانِ وہ دو مرد مارے جاتے ہیں یا مارے جائینگے	ثنیۃ
	3	يُضْرَبُونَ وہ سب مرد مارے جاتے ہیں یا مارے جائینگے	جمع
	4	تُضْرَبُ وہ ایک عورت ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی	واحد مؤنث
	5	تُضْرَبَانِ وہ دو عورتیں ماری جاتی ہیں یا ماری جائینگی	ثنیۃ
	6	يُضْرَبْنَ وہ سب عورتیں ماری جاتی ہیں یا ماری جائینگی	جمع
اُضْرَبُ	7	تُضْرَبُ تو ایک مرد مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا	واحد مذکر
	8	تُضْرَبَانِ تم دو مرد مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے	ثنیۃ
	9	تُضْرَبُونَ تم سب مرد مارے جاتے ہو مارے جاؤ گے	جمع
	10	تُضْرَبِينَ تو ایک عورت ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی	واحد مؤنث
	11	تُضْرَبَانِ تم دو عورتیں ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی	ثنیۃ
	12	تُضْرَبْنَ تم سب عورتیں ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی	جمع
متکلم	13	أُضْرَبُ میں ایک (مذکر یا مؤنث) مارا جاتا ہوں یا مارا جاؤں گا	واحد، مذکر و مؤنث
	14	نُضْرَبُ ہم سب (یا تمہیں) مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے	ثنیۃ و جمع، مذکر و مؤنث

5 اسم فاعل

نمبر شمار	گردان	ترجمہ	صیغہ
1	ضَارِبٌ	ایک مرد مارنے والا	واحد
2	ضَارِبَانِ	دو مرد مارنے والے	ثنیہ
3	ضَارِبُونَ	سب مرد مارنے والے	جمع
4	ضَارِبَةٌ	ایک عورت مارنے والی	واحد
5	ضَارِبَاتٍ	دو عورتیں مارنے والی	ثنیہ
6	ضَارِبَاتٌ	سب عورتیں مارنے والی	جمع

6 اسم مفعول

نمبر شمار	گردان	ترجمہ	صیغہ
1	مَضْرُوبٌ	ایک مرد مارا ہوا	واحد
2	مَضْرُوبَانِ	دو مرد مارے ہوئے	ثنیہ
3	مَضْرُوبُونَ	سب مرد مارے ہوئے	جمع
4	مَضْرُوبَةٌ	ایک عورت ماری ہوئی	واحد
5	مَضْرُوبَاتٍ	دو عورتیں ماری ہوئی	ثنیہ
6	مَضْرُوبَاتٌ	سب عورتیں ماری ہوئی	جمع

7 امراض

صیغہ	ترجمہ	گردان	نمبر شمار
مذکر	واحد	تو ایک مرد مار	1 اِضْرِبْ
	ثنیہ	تم دو مرد مارو	2 اِضْرِبَا
	جمع	تم سب مرد مارو	3 اِضْرِبُوا
مؤنث	واحد	تو ایک عورت مار	4 اِضْرِبِي
	ثنیہ	تم دو عورتیں مارو	5 اِضْرِبَا
	جمع	تم سب عورتیں مار	6 اِضْرِبْنَ

8 امرغائب

صیغہ	ترجمہ	گردان	نمبر شمار
مذکر	واحد	وہ ایک مرد مارے	1 لِيَضْرِبْ
	ثنیہ	وہ دو مرد ماریں	2 لِيَضْرِبَا
	جمع	وہ سب مرد ماریں	3 لِيَضْرِبُوا
مؤنث	واحد	وہ ایک عورت مارے	4 لِيَضْرِبْ
	ثنیہ	وہ دو عورتیں ماریں	5 لِيَضْرِبَا
	جمع	وہ سب عورتیں ماریں	6 لِيَضْرِبْنَ

9 نہی حاضر

نمبر شمار	گردان	ترجمہ	صیغہ
1	لَا تَضْرِبْ	نہ مار تو ایک مرد	واحد
2	لَا تَضْرِبَا	نہ مارو تم دو مرد	ثنیہ
3	لَا تَضْرِبُوا	نہ مارو تم سب مرد	جمع
4	لَا تَضْرِبِي	نہ مار تو ایک عورت	واحد
5	لَا تَضْرِبَا	نہ مارو تم دو عورتیں	ثنیہ
6	لَا تَضْرِبْنَ	نہ مارو تم سب عورتیں	جمع

10 نہی غائب

نمبر شمار	گردان	ترجمہ	صیغہ
1	لَا يَضْرِبْ	نہ مارے وہ ایک مرد	واحد
2	لَا يَضْرِبَا	نہ ماریں وہ دو مرد	ثنیہ
3	لَا يَضْرِبُوا	نہ ماریں وہ سب مرد	جمع
4	لَا تَضْرِبْ	نہ مارے وہ ایک عورت	واحد
5	لَا تَضْرِبَا	نہ ماریں وہ دو عورتیں	ثنیہ
6	لَا يَضْرِبْنَ	نہ ماریں وہ سب عورتیں	جمع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَقَدْ

يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ

فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ؟

(17:54)

”اور یقیناً“

ہم نے ذکر کرنے والوں کے لئے

قرآن کو آسان بنا دیا ہے

پھر ہے کوئی اس سے

نصیحت حاصل کرنے والا؟“

الف

أَيَّامًا = آنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
 أَتَيْتُمْ = تم نے دیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
 أَتَيْتُمُوْا = تم نے دیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
 أَتَيْنَ = تم دیتی رہو۔ (امر۔ جمع مونث حاضر)
 أَتَيْنَ = انہوں نے دیا۔ (ماضی۔ جمع مونث غائب)
 أَتَيْنَا = ہم نے دیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

آ - ث

أَثَارٌ = نشانات۔ قدم۔ (واحد اُنْثَرٌ ہے)
 أَثَرٌ = اس نے پسند کیا۔ (ماضی واحد مذکر غائب)
 أَثْمٌ = گہنگار (جمع أَثْمُونٌ ہے۔ اسم فاعل۔ واحد مذکر)
 أَثْمِينٌ = گہنگار (واحد أَثْمٌ ہے۔ اسم فاعل۔ بحالت نصی و جری۔ جمع مذکر)

آ - خ

آ

أ - کیا۔ خواہ۔ مزہ۔ کبھی نوائے قریب کے لئے اور کبھی قسیمہ کے لئے آتا ہے۔

آ - ب

آباء = باپ۔ دادا۔ چچا (واحد اب ہے)

آ - ت

آتٍ = تولا۔ تودے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
 آتٍ = آنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
 آتَى = اس نے دیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 آتُوا = انہوں نے دیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر)
 آتُوا = تم لاؤ۔ تم دو۔ (امر۔ جمع مذکر)
 آتَى = میں آؤں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)
 آتَيْتَ = تو نے دیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)
 آتَيْتَ = میں نے دیا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

أَذْوَا = انہوں نے ستایا۔ تکلیف دی۔ (ماضی- جمع مذکر غائب)
 أَدَيْتُمْ = تم نے ستایا۔ تکلیف دی۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)
 أَرَزَّ = اس نے کمر مضبوط کی۔ (مصدر إِيْرَازٌ- ماضی- واحد مذکر غائب)

آ-ز

أَرَزَّ = حضرت ابراہیم ؑ کے باپ کا نام
 أَرْزَقَهُ = نزدیک آنے والی یعنی قیامت۔ (اسم فاعل- واحد مؤنث)

آ-س

أَسَى = میں غم کھاؤں گا۔ (مضارع- واحد متکلم)
 أَسِيفٌ = غم بھرا۔ غمگین، غم کھانے والا۔ (اسم فاعل- واحد مذکر)
 أَسْفَقُوا = انہوں نے ناراض کیا۔ غصہ دلایا۔ (ماضی- جمع مذکر غائب)
 أَسِنٌ = بدبودار۔ (اسم فاعل- واحد مذکر)
 غَيَّرَ أَسِينٌ = بونہ دینے والا۔

أَخَذِيْنَ = لینے والے، أَخَذٌ واحد ہے۔ (اسم فاعل- بحالت نصی و جری- جمع مذکر)
 أَخْرَجَ = پھینکا۔ آخری۔
 أَخْرَجَ = دوسرا۔
 أَخْرَجَانِ = دو، دوسرے، دو اور
 أَخْرَجَةٌ = پھینکی، عقبی
 أَخْرَجُونَ = دوسرے لوگ۔ (اسم فاعل- جمع مذکر)
 أَخْرَجِيْنَ = پھینکے لوگ

آ-د

أَدَمَ = پہلے پیغمبر جو سب آدمیوں کے باپ ہیں۔ (اسم علم)

آ-ذ

أَذَانٌ = کان (أَذُنٌ واحد ہے)
 أَدْنُ = میں اجازت دیتا ہوں، دوں گا۔ (مضارع- واحد متکلم)
 أَدْنَا = ہم نے حکم دیا۔ ہم نے خبر دی۔ (ماضی- جمع متکلم)
 أَدْنْتُ = میں نے خبر دی۔ (ماضی- واحد متکلم)

آ - ص

أَمْزُ = میں حکم دیتا ہوں یا دوں گا۔ (مضارع۔
واحد متکلم)

أَمْزُونٌ = حکم دینے والے۔ حاکم۔ (اسم فاعل۔
جمع مذکر)

أَمَّنَ = وہ ایمان لایا۔ اس نے مانا۔ اس نے
اقرار کیا۔ اس نے اعتبار کیا۔ اس نے امن دیا۔

اس نے بے خوف کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
أَمَّنُ = میں مانوں گا۔ اعتبار کروں گا۔ (ماضی۔
واحد متکلم)

أَمِنٌ = چھین پانے والا۔ امن پانے والا۔ (اسم
فاعل۔ واحد مذکر)

أَمَّنَا = ہم ایمان لائے۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
أَمَّنْتُ = وہ ایمان لائی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث
غائب)

أَمَّنْتِ = میں ایمان لایا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)
أَمِنَةٌ = چھین پانے والی۔ امن والی۔ (اسم فاعل۔
واحد مؤنث)

أَمْنْتُمْ = تم ایمان لائے۔ (ماضی۔ جمع مذکر
حاضر)

أَمَّنُوا = وہ ایمان لائے۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

أَمِنُوا = تم ایمان لاؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
أَمِنُونَ = چھین پانے والے (اسم فاعل۔ جمع
مذکر)

أَمِنُوا = تم ایمان لاؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
أَمِنُونَ = چھین پانے والے (اسم فاعل۔ جمع
مذکر)

أَصَالَ = شام (عصر کے بعد کا وقت۔
اصیل واحد ہے)

آ - ف

أَفَاقٌ = دنیا آسمان کے کنارے (افق واحد ہے)
أَفْلِيْنٌ = غائب ہونے والے (اسم فاعل۔ جمع
مذکر۔ واحد آفل ہے۔ بحالت نصی و جری)

آ - ک

أَكْلُونٌ = کھانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔
واحد اکیل ہے۔ بحالت رفعی)

آ - ل

آل = اولاد، گھر کے لوگ، بیروکار
الَاءِ = احسان۔ نعمتیں۔ (إِلَى واحد ہے۔)

آلَانٌ = کیا اب۔
آلَافٍ = کئی ہزار۔ (أَلْفٌ واحد ہے۔)

إِلَهَةٌ = زیادہ معبود۔ (إِلَهُ واحد ہے۔)

آ - م

أَوْيْنَا = ہم نے پناہ دی (ماضی جمع متکلم)

آ - ی

آيَات = نشانیاں۔ احکام۔ (آيَةٌ واحد ہے)

آيَةٌ = نشانی۔ حکم۔ معجزہ (آیات جمع ہے)

آيَاتِنِ = دو نشانیاں

أَتَيْت = تو آ۔ تو لا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَتَمُّرُوا = تم سکھاؤ۔ مشورہ دو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

حاضر

أَتَمُّن = وہ امانت دیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

مذکر غائب

أَتُوا = تم آؤ۔ تم لاؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَتَيْنَا = تم دونوں آؤ۔ (امر۔ تثنیہ۔ مذکر مؤنث حاضر)

حاضر

أَتَدُن = تو اجازت دے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

حاضر

أَتَدُنُوا = تم خبردار رہو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَيَّمَةٌ = سردار۔ (واحد امام ہے)

أَيُّمٌ = تو حکم کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

ا - ب

أَب = باپ۔ (جمع آباء ہے)

أَبًا = چارہ۔ گھاس۔

أُهِنِينَ = چمین پانے والے۔ بے خوف (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)

أُهِنِينَ = اے اللہ قبول فرما۔

آ - ن

آن = اب۔ وقت۔ لمحہ

آن = کھولتا پانی۔ گرم پانی۔ اہلتا پانی۔ (اسم فاعل واحد مذکر)

آنَاء = گھڑیاں۔ اوقات (واحد آن ہے۔)

آنَس = اس نے دیکھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

آنَسْتُمْ = تم نے دیکھا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

أَنَف = ابھی۔ اسی وقت۔ (اسم ظرف)

أَنِئَةٌ = برتن (واحد إناء ہے)

آ - و

أَوَى = اس نے جگہ دی۔ اس نے ٹھکانہ دیا۔ (ماضی واحد مذکر غائب)

أَوُوا = انہوں نے جگہ دی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

أَوُوا = انہوں نے جگہ دی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

غائب

أَوُوا = تم پناہ لو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَوِي = میں پناہ لیتا ہوں یا لوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَبَى = اس نے انکار کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَبَانِيْل = جھنڈ کے جھنڈ چیزیاں (اَبِيْلُ واحد ہے)

أَبَارِيْق = لوٹے (اَبْرِيْق واحد ہے)

أَبْتٍ = میرا باپ۔

اَبْتَدَعُوْا = انہوں نے ایجاد کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

اَبْتَرُ = دم کٹا۔ بے اولاد (اسم واحد)

اَبْتَع = تو ڈھونڈ۔ تو تلاش کر (امر معروف۔ واحد مذکر حاضر)

اَبْتَعِي = اس نے چاہا۔ اس نے ڈھونڈا۔ اس نے تلاش کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اَبْتَعَاء = ڈھونڈھنا۔ چاہنا۔ تلاش کرنا۔ (اسم مصدر)

اَبْتَعُوْا = تم چاہو۔ تم تلاش کرو۔ (امر جمع مذکر حاضر)

اَبْتَعُوْا = انہوں نے ڈھونڈا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

اَبْتَعِي = میں چاہوں۔ تلاش کروں۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

اَبْتَعِيْت = تو نے چاہا۔ (ماضی واحد مذکر حاضر)

اَبْتَلَى = اس نے آزمایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اَبْتَلَوْا = تم آزماؤ۔ (امر جمع مذکر حاضر)

اَبْتَلَى = وہ آزمایا گیا (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

اَبْحُرُ = بہت سے سمندر۔ (واحد بَحْرٌ ہے)

اَبَدَ = ہمیشہ (جمع آباد ہے)

اَبْدَلُ = میں بدلتا ہوں۔ میں بدلوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

اَبْرِي = میں پاک کرتا ہوں۔ میں بری کرتا ہوں یا کروں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

اَبْرَاؤُ = نیک لوگ۔ (واحد بَرٌّ ہے)

اَبْرَاهِيْمُ = پیغمبر جن کا لقب غلیل اللہ ہے۔ (اسم علم)

اَبْرُحُ = میں پھرتا ہوں یا پھروں گا۔ میں ہٹاؤں یا ہٹوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

اَبْرُصُ = کوڑھی۔ (جمع بَرَصٌ ہے)

اَبْرُضُوْا = انہوں نے مضبوط ارادہ کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

اَبْسَلُوْا = وہ سوئے گئے۔ گرفتار کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)

اَبْسُرُوْا = تم خوش ہو جاؤ۔ (امر جمع مذکر حاضر)

اَبْصَار = آنکھیں۔ (واحد بَصْرٌ ہے) غائب
اَبْصَرَ = اس نے دیکھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَبْصُرُ = تو دیکھ۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
أَبْصُرَ بِهِ = کیا ہی دیکھنے والا ہے۔ (فعل
تعب)

أَبْصَرْنَا = ہم نے دیکھا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
أُبْعَثُ = میں اٹھایا جاتا ہوں۔ میں اٹھایا جاؤں
گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

إِبْعَثُ = تو اٹھا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
إِبْعَثُوا = تم بھیجو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
أَبْغَى = میں تلاش کروں۔ (مضارع۔ واحد
متکلم)

أَبَقَ = وہ بھاگا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
أَبْقَى = بہت پائیدار (اسم تفضیل)۔ اس نے باقی
رکھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَبْكَى = اس نے رلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
غائب)

أَبْكَارَ = کنواری عورتیں۔ (واحد بکر ہے)
إِبْكَارَ = صبح سویرے۔ (اسم زمان)

أَبْكُمْ = گونگا۔ (جمع بُكُمْ ہے)
إِبِلٍ = اونٹ۔ (اسم الجمع ہے)

إِبْلَعِي = تو نگل جا۔ (امر۔ واحد مؤنث حاضر)
أَبْلَغُ = تو پہنچا دے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَبْلَغُ = میں پہنچاتا ہوں۔ (ماضی۔ واحد متکلم)
أَبْلَغُ = میں پہنچوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَبْلَغْتُ = میں نے پہنچایا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)
أَبْلَغُوا = انہوں نے پہنچایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

إِبْلِيسَ = نامید۔ دھوکہ دینے والا۔ شیطان
(عزازیل کا لقب ہے) (اسم واحد)

أَبْنُ = تو بنا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

إِبْنُ = بیٹا۔ (جمع أَبْنَاءُ اور بَنُونَ ہے)

إِبْنُ السَّبِيلِ = مسافر۔ (اسم واحد)

أَبْنَاءُ = بیٹے۔ (واحد ابن ہے)

إِبْنَةٌ = بیٹی۔ (جمع بنات ہے)

إِبْتَسَى = دو بیٹیاں۔ (اسم تشبیہ إِبْتَسَيْنِ - جمع
بَنَاتٍ - واحد ابْنَةٌ ہے۔)

أَبْنُوا = تم بناؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

إِبْنَى = دو بیٹے۔ (اسم تشبیہ۔ جمع بنون ہے۔
اضافت کی وجہ سے "نون" گر گیا۔)

إِبْنَى = میرا بیٹا۔ (ابن اور یا سے مرکب
ہے)

أَبُو = باپ۔ (اسم واحد) جمع آباء ہے۔ حالت
رفعی۔

أَبُوا = انہوں نے انکار کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

أَبْوَابَ = دروازے۔ (واحد باب ہے۔ جمع کسرا)

أَبْوَابٍ = ماں باپ۔ (اب کا تشبیہ۔ بحالت

نسی و جری)

أَبَى = میرا باپ۔ (اب اور یا تکلم سے مرکب ہے)

أَبَى لَهَبٍ = شعلے کا باپ۔ آنحضرت ﷺ کے چچا کا لقب جو کافر تھا۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا اس لئے ابو لہب کہلاتا تھا۔ مرکب اضافی۔ (حالت جری)

أَبْيَضٌ = سفید۔ (صفت مشبہ)

أَبْيَضْتُ = سفید ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

أَبَيْنَ = انہوں نے انکار کیا۔ (ماضی۔ جمع مونث غائب)

ا-ت

أَتَى = اس نے دیا۔ وہ لایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

إِتْبَاعٌ = مرضی پر چلنا۔ پیروی کرنا۔ (اسم مصدر)

أَتَبَعٌ = وہ پیچھے چلا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 إِتَّبَعٌ = وہ تابع ہوا۔ پیچھے چلا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَتَّبَعٌ = میں تابعداری کرتا ہوں یا کروں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَتَّبَعٌ = پیروی کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

إِتَّبَعْتُ = تو نے پیروی کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

إِتَّبَعْتُ = میں نے پیروی کی۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

إِتَّبَعْتُمْ = تم نے پیروی کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

إِتَّبَعْنَا = ہم نے پیروی کی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

إِتَّبَعُوا = انہوں نے پیروی کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

إِتَّبِعُوا = تم تابعداری کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَتَّبِعُوا = ان کے پیچھے لگایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)

أَتَتْ = وہ آئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

إِتَّخَذُ = بنانا۔ پکڑنا۔ (اسم مصدر)

إِتَّخَذُ = تو بنا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

إِتَّخَذُ = اس نے بنایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَتَّخَذُ = میں ٹھہراتا ہوں یا ٹھہراؤں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

إِتَّخَذْتُ = اس (مونث) نے بنایا۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

اِتَّخَذْتُ = تو نے ٹھہرایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)	اِتَّقَى = بت زیادہ پرہیزگار۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)
اِتَّخَذْتُ = میں نے ٹھہرایا۔ میں نے پکڑا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)	اِتَّقَى = اس نے پرہیز کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
اِتَّخَذْتُمْ = تم نے ٹھہرایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)	اِتَّقَنَ = اس نے مضبوط کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
اِتَّخَذْتُمُوهُ = تم نے ٹھہرایا اسے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)	اِتَّقُوا = تم ڈرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
اِتَّخَذْنَا = ہم نے پکڑا۔ ہم نے بنایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)	اِتَّقُوا = وہ ڈرے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
اِتَّخَذُوا = تم ٹھہراؤ۔ تم پکڑو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)	اِتَّقِيْنَ = تم سب عورتیں ڈریں۔ (ماضی۔ جمع مونث حاضر)
اِتَّخَذِيْ = تو بنا۔ تو پکڑ۔ (امر۔ واحد مونث حاضر)	اِتَّقِيْنَ = وہ سب ڈریں۔ (ماضی۔ جمع مونث غائب)
اِتَّوَابٌ = ہم عمر عورتیں۔ (ترب واحد ہے)	اِتَّقُوا = تم ڈرتی رہو۔ (امر۔ جمع مونث حاضر)
اِتْرَفْتُمْ = تم عیش دیئے گئے۔ تم زندگی دیئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر حاضر)	اِتْلُوا = تم پڑھو۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
اِتْرَفْنَا = ہم نے آرام دیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)	اِتْلُوا = میں پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)
اِتْرَفُوا = وہ لذت دیئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)	اِتَمَّ = اس نے پورا کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
اِتْرَكَ = تو چھوڑ۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)	اِتَمُّ = میں پورا کرتا ہوں یا کروں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)
اِتْسَقَ = وہ پورا ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)	اِتَمِّمْ = تو پورا کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
اِتَّقِ = تو ڈر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)	اِتَمَمْتُ = میں نے پورا کیا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

أَثَارُوا = انہوں نے ابھارا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

إِثْقَلْتُمْ = تم بوجھل ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

أَثَامٌ = گناہ۔

أَثَبُوا = تم ثابت قدم رہو۔ (امر حاضر۔ جمع

مذکر حاضر)

أَثَحْتُمُوا = تم نے بہت خون ریزی کی۔ ریزہ

ریزہ کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

أَثَرٌ = نشانی۔ (جمع آثار ہے)

أَثَرُونَ = انہوں نے اٹھایا۔ زمین روندی۔

(ماضی۔ جمع مونث غائب)

أَثَقَلَ = بوجھ۔ مردے۔ خزانے۔ (واحد ثقل ہے)

أَثَقَلْتُ = وہ بوجھل ہوئی۔ بھاری ہوئی۔ (ماضی۔

واحد مونث غائب)

أَثَلٌ = جھاڑو کا درخت۔ (جمع افعال ہے)

إِثْمٌ = گناہ۔ (جمع آثام ہے)

أَثَمَرٌ = وہ پھل لایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

إِثْنَانٌ = دو مرد۔ (تثنیہ۔ بحالت رفعی)

إِثْنَتَيْنِ = دو عورتیں۔ (بحالت نصبی وجرئی)

أَثِيمٌ = گنہگار۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

أَتَمَمْنَا = ہم نے پورا کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَتِمُّوا = تم پورا کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَتَوْا = وہ آئے۔ وہ لائے۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

أَتُوا = وہ لائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر

غائب)

أَتُوبُ = میں توبہ کرتا ہوں یا کروں گا۔

(مضارع۔ واحد متکلم)

أَتَوَكَّأُ = میں ٹیک لگاتا ہوں۔ میں ٹیک لگاؤں

گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَتَيْتَا = وہ دو مرد آئے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر

غائب)

أَتَيْتَ = تو آیا۔ تو لایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

أَتَيْنَ = وہ آئیں۔ وہ لائیں۔ (ماضی۔ جمع مونث

غائب)

ا-ث

أَثَابٌ = اس نے بدلا دیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

أَثَابٌ = مال۔ اسباب۔ (واحد اثیث ہے)

اسم۔

أَثَارَةٌ = بچا ہوا۔ کسی چیز کی باقی رسم۔ نشان

(واحد اثرہ ہے)

ا-ج

أَجَاءَ = وہ لایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَجَاجٌ = کھاری یا کڑوا پانی۔ (اسم مشتق)

أَجْتَبَى = اس نے قبول کیا۔ نوازا۔ جن لیا۔

(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَجِثْمٌ = تم جواب دیئے گئے۔ (ماضی مجہول۔

جمع مذکر حاضر)

أَجْتَبَيْتَ = تو نے جن لیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

حاضر)

أَجْتَبَيْنَا = ہم نے جن لیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَجْتَثَّتْ = وہ اکھاڑی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد

مونث غائب)

أَجْتَرَحُوا = انہوں نے کمایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

أَجْتَمَعَتْ = وہ جمع ہوئی۔ (ماضی۔ واحد

مونث غائب)

أَجْتَمَعُوا = وہ جمع ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

أَجْتَبُوا = تم پرہیز کرو۔ بچے رہو۔ (امر

حاضر۔ جمع مذکر حاضر)

أَجْدٌ = میں پاتا ہوں۔ میں پاؤں گا۔ (مضارع

معروف۔ واحد متکلم)

أَجْدَاثٌ = قبریں۔ (واحد جدث ہے) اسم۔

أَجْدُرٌ = بہت لائق (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)

أَجْرٌ = مزدوری۔ ثواب۔ مرز (جمع اجور ہے)

أَجْرٌ = تو پناہ دے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَجْرَامٌ = گناہ کرتا۔ (اسم مصدر)

أَجْرَمْنَا = ہم نے گناہ کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَجْرَمُوا = انہوں نے گناہ کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

أَجْسَامٌ = بدن۔ (واحد جسم ہے)

أَجْعَلُ = میں بنانا ہوں۔ میں بناؤں گا۔

(مضارع۔ واحد متکلم)

أَجْعَلُ = تو بنا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَجْعَلُوا = تم کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَجَلٌ = واسطے۔ سبب۔

أَجَلٌ = موت۔ مہلت۔ مدت۔ (جمع آجال

ہے)

أَجْلِبُ = تو کھینچ۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَجَلَّتْ = تو نے مدت ٹھہرائی۔ تو نے مہلت

دی۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

أَجَلَّتْ = دیر کی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد

مونث غائب)

أَجْلِدُوا = تم کوڑے مارو۔ (امر۔ جمع مذکر

حاضر)

أَجْلَيْنٌ = دو مدتیں۔ (اسم ظرف زمان۔ تثنیہ۔

بحالت نصی و جری واحد اجل ہے)

أَجْمَعُوا = تم جمع کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَجْمَعُوا = انہوں نے جمع کیا۔ (ماضی۔ جمع

مذکر غائب

أَجْمَعُونَ = سب۔ (اسم مصدر) کلمہ تاکید۔

أَجُنُبُ = تو بچا۔ تو بچ۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَجِنَّةٌ = پیٹ کے بچے۔ قبر کے مروے۔ (واحد)

جَنِينٌ ہے) اسم

أَجْنَحُ = تو جھک۔ (امر حاضر۔ واحد مذکر حاضر)

أَجْنِحَةٌ = پر۔ بازو۔ (واحد جناح ہے)

أَجُورٌ = مزدوریاں۔ مزر۔ (واحد اجر ہے)

أَجِيبُ = میں قبول کرتا ہوں۔ میں قبول کروں

گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَجِيبْتُ = وہ قبول کی گئی۔ (ماضی مجہول۔

واحد مونث غائب)

أَجِيبُوا = تم مانو۔ قبول کرو۔ (امر حاضر۔ جمع مذکر

ح - ا

أَحَادِيثٌ = باتیں۔ (واحد حدیث ہے)

اسم۔

أَحَاطَ = اس نے گھیر لیا۔ قابو کیا۔ (ماضی۔

واحد مذکر غائب)

أَحَاطْتُ = اس نے گھیر لیا (ماضی۔ واحد

مونث غائب)

أَحَبُّ = بڑا دوست۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر

أَحِبُّ = میں دوست رکھتا ہوں۔ (مضارع

واحد متکلم)

أَحِبَّاءٌ = دوست۔ پیارے۔ (واحد حبیب

ہے)

أَحْبَارٌ = دانش۔ عالم (واحد حبر ہے)

أَحْبَبْتُ = میں نے دوست رکھا۔ (ماضی۔

واحد متکلم)

أَحْبَطُ = اس نے ضائع کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

أَحْتَرَقْتُ = جل گئی۔ (ماضی۔ واحد مونث

غائب)

أَحْتَمَلُ = اس نے اٹھایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

أَحْتَمَلُوا = انہوں نے اٹھایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

أَحْتَنِكُ = جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ (مضارع۔

واحد متکلم)

أَحْتَنِكَنَّ = میں ضرور جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔

(باون ثقیلہ)

أَحَدٌ = ایک۔ اکیلا۔ (مذکر)

أَحَدِيٌّ = ایک۔ اکیلی۔ (مونث کے لئے)

أَحْدِثُ = میں شروع کروں گا یا کروں گا۔

(مضارع۔ واحد متکلم)

أَحْدِثُ = تو ڈر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَحْدِثُوا = تم ڈرو۔ بچتے رہو۔ (امر حاضر۔ جمع

مذکر

أَحْزَابٌ = گروہ۔ (واحد حزب ہے)

أَحْسَسَ = اس نے دریافت کیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

إِحْسَانٌ = نیکی کرنا۔ (اسم مصدر)

أَحْسَنَ = اس نے اچھا بنایا۔ نیکی کی۔ (ماضی۔
واحد مذکر غائب)

أَحْسِنُ = تو نیکی کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَحْسَنُ = بہت اچھا۔ بہتر۔ (اسم تفضیل۔ واحد
مذکر)

أَحْسَنْتُمْ = تم نے نیکی کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر
حاضر)

أَحْسَنْتُوا = انہوں نے نیکی کی۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)

أَحْسِنُوا = تم نیکی کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَحْسُوا = انہوں نے دریافت کیا۔ محسوس کیا۔
(ماضی۔ جمع مذکر غائب)

أَحْشُرُوا = تم جمع کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَحْضَى = ۱۔ بہت یاد رکھنے والا۔ بہت گنتے
والا۔ بہت شمار کرنے والا۔ (اسم تفضیل۔ واحد
مذکر)

۲۔ اس نے یاد رکھا یا گن لیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
غائب)

أَحْضَرْتُمْ = تم روکے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع

مذکر حاضر)

أَحْضَرْتُمْ = وہ روکے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع
مذکر غائب)

أَحْضَرُوا = تم گھیرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَحْصَنَ = وہ قید کی گئیں۔ نکاح میں لائی
گئیں۔ (ماضی مجہول۔ جمع مؤنث غائب)

أَحْصَنْتُ = اس نے قید میں رکھا۔ حفاظت
کی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

أَحْضُوا = تم گنو۔ (امر جمع مذکر حاضر)

أَحْصَيْنَا = ہم نے گن لیا۔ شمار کیا۔ (ماضی۔
جمع متکلم)

أَحْضَرْتُ = اس نے حاضر کیا۔ روبرو کیا۔
(ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

أَحْضَرْتُ = وہ حاضر کی گئی۔ (ماضی مجہول۔
واحد مؤنث غائب)

أَحْظَتُ = میں خبر لایا۔ (ماضی واحد متکلم)

أَحْظَنَّا = ہم نے گھیر لیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَحْفَظُوا = تم بچاؤ۔ حفاظت کرو۔ (امر۔ جمع
مذکر حاضر)

أَحَقُّ = بہت زیادہ حقدار۔ (اسم تفضیل۔ واحد
مذکر)

أَحْقَابٌ = طویل راتیں۔ طویل زمانے۔ (واحد
حقب ہے)

أَحْمَدُ = سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ (اسم)

تفصیل) رسول اکرم ﷺ کا اسم گرامی

أَحْمِلُ = میں اٹھاتا ہوں یا اٹھاؤں گا۔
(مضارع۔ واحد متکلم)

أَحْمِلُ = تو سوار کر۔ تو لا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَحْوَى = سیاہ۔ کالا۔ (اسم)

أَحْيَى = اس نے زندہ کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَحْيَاءُ = زندے۔ (واحد حی ہے)

أَحْيَيْتُ = وہ گھیرا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

أَحْيَيْتُ = میں زندہ کرتا ہوں یا کروں گا۔
(مضارع۔ واحد متکلم)

أَحْيَيْتَ = تو نے زندہ کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

أَحْيَيْنَا = ہم نے زندہ کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ح - ا - خ

أَخٌ = بھائی۔ (جمع اخوة ہے)

أَخَافُ = میں ڈرتا ہوں یا ڈروں گا۔
(مضارع۔ واحد متکلم)

أَخَالِفُ = میں خلاف کرتا ہوں یا کروں گا۔

أَحْرَضُ = بڑا لالچی۔ بڑا حریص۔ (اسم تفصیل)

واحد مذکر

أَخْقَافٌ = ریت کا تودہ۔ قوم عاد کے علاقہ کا نام جو یمن میں ہے۔ (واحد حقف ہے)

أَحْكَمُ = بڑا حاکم۔ (اسم تفصیل۔ واحد مذکر)

أُحْكِمُ = فیصلہ کر۔ تو حکم کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أُحْكِمْتُ = وہ پختہ کی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مونث غائب)

أَحَلَّ = اس نے حلال کیا۔ اتارا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَحَلَّ = وہ حلال کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

أَحِلُّ = میں حلال کرتا ہوں۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

أَحْلَامٌ = خواب۔ عقل۔ برداشت۔ (واحد حلم ہے)

أَحْلَلْتُ = وہ حلال کی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مونث غائب)

أُحْلِلُ = تو کھول۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَحْلَلْنَا = ہم نے حلال کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَحْلَلْنَا = انہوں نے اتارا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

أَحْمَالٌ = بوجھ۔ حمل۔ (واحد حمل ہے)

أَخْدَانٌ = چھپے دوست۔ (اسم جمع) (واحد

خدن مذکر و مونث ہے)

أَخْدُوْدٌ = کھائیاں۔ (اسم واحد) (جمع اخادید ہے)

أَخْدٌ = واحد۔ اخادید جمع الجمع (اسم واحد)

أَخَذَ = پکڑا۔ لیٹا۔ (اسم مصدر)

أَخَذَ = اس نے لیا۔ پکڑا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

أَخَذَ = وہ پکڑا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر

غائب)

أَخَذَةَ = پکڑا۔ (اسم مصدر)

أَخَذْتُ = اس نے لیا۔ (ماضی۔ واحد مونث

غائب)

أَخَذْتُمْ = تم نے لیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

أَخَذْنَ = انہوں نے لیا۔ (ماضی۔ جمع مونث

غائب)

أَخَذْنَا = ہم نے لیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَخَذُوا = وہ پکڑے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع

مذکر غائب)

أَخْرَجُ = دوسرے۔ (اسم تفضیل۔ جمع مونث۔ واحد

أَخْرَجِي ہے)

أَخْرَجَ = اس نے پیچھے چھوڑا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

أَخْرَجَ = تو سہلت دے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

(مضارع۔ واحد متکلم)

أَخْبَارٌ = خبریں۔ (واحد خبر ہے)

أَخْبَتُوا = انہوں نے عاجزی کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أُخْتٌ = بہن۔ (اسم واحد۔ جمع اخوات ہے)

إِخْتَارَ = اس نے پسند کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

إِخْتَرْتُ = میں نے پسند کیا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

إِخْتَصَمُوا = انہوں نے جھگڑا کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

إِخْتِلَافٌ = جھگڑا۔ (اسم مصدر)

إِخْتِلَاقٌ = بات گھر لیٹا۔ (اسم مصدر)

إِخْتَلَطَ = وہ ملا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

إِخْتَلَفَ = اس نے اختلاف کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أُخْتِلِفَ = اختلاف کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

إِخْتَلَفْتُمْ = تم نے اختلاف کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

إِخْتَلَفُوا = انہوں نے اختلاف کیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

أُخْتِنِي = دو بہنیں۔ (اسم تثنیہ) (واحد اخت جمع اخوات ہے)

أُخْرِى = دوسری۔ (اسم تفضیل۔ واحد مونث)
جمع آخر ہے)

إِخْرَاج = نکالنا۔ (اسم مصدر)

أَخْرَجْتُ = اس نے پیچھے چھوڑا۔ دیر کی۔
(ماضی۔ واحد مونث غائب)

أَخْرَجَ = اس نے نکالا۔ اگایا۔ جمایا۔ (ماضی۔
واحد مذکر غائب)

أَخْرَجَ = تو نکال۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أُخْرِجُ = میں نکالا جاتا ہوں یا نکالا جاؤں گا۔
(مضارع مجہول۔ واحد متکلم)

أُخْرِجْ = تو نکل۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَخْرَجْتُ = اس نے نکالا۔ (ماضی۔ واحد مونث
غائب)

أُخْرِجْتُ = وہ نکالی گئی ہے۔ (ماضی مجہول۔
واحد مونث غائب)

أُخْرِجْتُمْ = تم نکالے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع
مذکر حاضر)

أُخْرِجْنَا = ہم نکالے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع
متکلم)

أَخْرَجْنَا = ہم نے نکالا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَخْرَجُوا = انہوں نے نکالا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

أُخْرِجُوا = وہ نکالے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع
مذکر غائب)

أُخْرِجُوا = تم نکلو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَخْرَجْنَا = ہم نے دیر کی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَخْرَجِي = بہت زیادہ رسوائی۔ (اسم تفضیل۔
واحد مذکر)

أَخْرَجْتِ = تو نے رسوا کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
حاضر)

إِخْرَسْتُ = تم ذلیل رہو۔ دھتکارے
رہو۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

أَخْسَرُونَ = بہت خسارہ پانے والے۔ (اسم
تفضیل۔ بحالت رفعی۔ واحد اخسر ہے)

إِخْسَرُوا = تم ڈرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَخْضَرُ = سبز۔ (اسم صفت۔ مونث خضراء
ہے)

أَخْطَأْتُم = تم نے غلطی کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر
حاضر)

أَخْطَأْنَا = ہم نے غلطی کی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَخْفَى = بہت چھپا ہوا۔ (اسم تفضیل)

إِخْفِضْ = تو جھکا دے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أُخْفِي = وہ چھپایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر
غائب)

أُخْفِي = میں چھپاتا ہوں۔ (مضارع۔
واحد متکلم)

أُخْفَيْتُمْ = تم نے چھپایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
حاضر)

اِخْوَانٌ = گئے بھائی۔ (واحد اخ ہے) اسم۔
 اِخْوَةٌ = رشتہ کے بھائی۔ (واحد اخ ہے)
 اُخْوَةٌ = برادری۔ بھائی بندی۔
 اِخْيَى = میرا بھائی۔ (مضاف بہ یائے تکلم)
 اِخْتِيَارٌ = نیک۔ (واحد خیر ہے)
 اِخْيِيهِ = اس کا بھائی۔ (اسم مرکب اضافی)

د - ا

اِدَّ = بھاری ہونا۔ (اسم مصدر)
 اِدَاءٌ = پہنچانا۔ ادا کرنا۔ (اسم مصدر)
 اِدَارَاتُمْ = تم نے اختلاف کیا۔ تم نے ایک
 دوسرے پر ڈالا۔ (ماضی۔ جمع ذکر حاضر)
 اِدَارَكَ = اس نے دریافت کیا۔ تھک کر رہ
 گیا۔ (ماضی۔ واحد ذکر غائب)
 اِدَارَكُنَّ = انہوں نے دریافت کیا۔ جب گر
 چکیں گے۔ (ماضی۔ جمع ذکر غائب)
 اِدْبَارٌ = پیٹھ پھیرنا۔ نکلت کھانا۔ (اسم مصدر)
 اِدْبَارٌ = پیٹھیں۔ (واحد دبہ ہے)
 اِدْبَرٌ = اس نے پیٹھ پھیری۔ (ماضی۔ واحد ذکر
 غائب)
 اُدْخِلُ = میں داخل کرنا ہوں یا کروں گا۔
 (مضارع۔ واحد تکلم)
 اُدْخِلْ = تو داخل کر۔ (امر۔ واحد ذکر حاضر)

اِخْلَاءٌ = دوست۔ (واحد خلیل ہے) اسم جمع۔
 اِخْلَاصٌ = بے ریا ہو کر صرف اللہ کی
 بندگی کرنا۔ (اسم مصدر)
 اِخْلَدَ = ہمیشہ رہا۔ (ماضی۔ واحد ذکر غائب)
 اِخْلَصْنَا = ہم نے خالص کیا۔ (ماضی۔ جمع
 تکلم)
 اِخْلَصُوا = انہوں نے خالص کیا۔ (ماضی۔ جمع
 ذکر غائب)
 اِخْلَعُ = تو اتار۔ (امر۔ واحد ذکر حاضر)
 اِخْلَفُ = تو خلیفہ ہو۔ (امر۔ واحد ذکر حاضر)
 اِخْلَفْتُ = میں نے وعدہ خلافی کی۔ (ماضی۔
 واحد تکلم)
 اِخْلَفْتُمْ = تم نے وعدہ خلافی کی۔ (ماضی۔ جمع
 ذکر حاضر)
 اِخْلَفْنَا = ہم نے وعدہ خلافی کی۔ (ماضی۔ جمع
 تکلم)
 اِخْلَفُوا = انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ (ماضی۔
 جمع ذکر غائب)
 اِخْلُقُ = میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا۔
 (مضارع۔ واحد تکلم)
 اِخْنٌ = میں خیانت کرتا ہوں۔ (مضارع۔
 واحد تکلم)
 اِخْوَاتٌ = بہنیں۔ (واحد اخت ہے) اسم۔
 اِخْوَالٌ = ماموں۔ (واحد خال ہے) اسم۔

إِدْفَعُوا = تم دور کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
 إِذْكَر = اس نے یاد کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
 غائب)

أَدُلُّ = میں راہ بتاتا ہوں یا بتاؤں گا۔
 (مضارع۔ واحد متکلم)

أَدْلَى = اس نے لٹکایا (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 أَدْنَى = کم۔ خراب۔ بہت نزدیک۔ (اسم
 تفضیل۔ واحد مذکر)

أَدْوَا = تم سپرد کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
 أَدْهَى = بڑی بلا۔ بڑی مصیبت۔ (اسم تفضیل۔
 واحد مذکر)

ا - ذ

إِذْ = جس وقت۔ (اسم ظرف)
 إِذَا = تب۔ اس وقت۔ (اسم ظرف)

إِذَا = جب۔ مفاجات کے لئے (اچانک کے معنی
 میں) بھی آتا ہے۔ (إِذَا ماضی کو مستقبل میں اور
 إِذْ مستقبل کو ماضی کے معنی میں کرتا ہے) (اسم
 ظرف)

أَذَاعُوا = انہوں نے مشہور کیا۔ (ماضی۔ جمع
 مذکر غائب)

أَذَاقَ = اس نے چکھایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
 غائب)

أَدْخَلَ = تو داخل ہو۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
 أَدْخَلَا = تم دونوں داخل ہو جاؤ۔ (امر۔ تثنیہ
 مذکر حاضر)

أَدْخَلْنَا = ہم نے داخل کیا۔ (ماضی۔ جمع
 متکلم)

أَدْخَلُوا = تم داخل ہو جاؤ۔ (امر۔ جمع مذکر
 حاضر)

أَدْخَلُوا = وہ داخل کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔
 جمع مذکر غائب)

أَدْخَلِي = تو داخل ہو۔ (واحد مؤنث حاضر)
 أَدْرَى = اس نے خبر دی۔ سکھایا۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)

إِدْرَأْ وَا = تم دور کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
 أَدْرَكَ = اس نے پایا۔ جان لیا۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)

أَدْرِي = میں جانتا ہوں۔ (مضارع۔ واحد متکلم)
 إِدْرِيسَ = نام پیغمبر جو چھٹے آسمان پر ہیں۔
 (اسم علم)

أُدْعُ = تو مانگ۔ تو پکار۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
 أَدْعُوا = تم پکارو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَدْعِيَاءَ = لے پالک بیٹے۔ متبنی۔ منہ بولا بیٹا۔
 (اسم جمع۔ واحد دَعِيَ ہے)

إِدْفَعْ = تو دور کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَذَانٌ = خبر دینا۔ (اسم مصدر)

أَذْبَحُ = میں ذبح کرتا ہوں۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَذْكُرُ = میں یاد کروں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَذْكُرُوا = تم یاد کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَذْقَانٌ = ٹھوڑیاں۔ (اسم جمع) (واحد ذقن ہے)

أَذْقَنَا = ہم نے چکھایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَذَلَّ = بڑا ذلیل۔ بے قدر۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)

أَذِلَّةٌ = خوار۔ نرم۔ (اسم مشتق)

أَذَلَّيْنِ = ذلیل۔ (جمع) (واحد اذل ہے)

أَذْنٌ = کان۔ (اذان جمع۔ اسم واحد)

أَذِنٌ = اجازت دی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

أَذِنٌ = اجازت دینا۔ (مصدر)

أَذَنَّا = اس نے پکارا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَذِنٌ = تو پکارا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَذْنَتْ = اس نے حکم خدا سن لیا۔ کان رکھا۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

أَذْنَتْ = تو نے اجازت دی۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

أَذْنَيْنِ = دو کان۔ (اسم تثنیہ) (واحد اذن جمع اذان ہے۔ حالت نصی و جری)

أَذْهَبَ = وہ لے گیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

إِذْهَبْ = تو لے جا۔ تو جا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

إِذْهَبَا = تم دونوں جاؤ۔ (امر۔ تثنیہ مذکر حاضر و مؤنث)

أَذْهَبْتُمْ = تم لے گئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

إِذْهَبُوا = تم جاؤ۔ تم لے جاؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَذَى = نجاست۔ تکلیف۔ (اسم مشتق)

۱- ر

أَرَى = تو دکھا۔ تو دکھا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَرَانِكَ = تحت۔ (اسم جمع)

أَرَادَ = اس نے چاہا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَرَادَا = ان دونوں نے چاہا۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

أَرَادُوا = انہوں نے چاہا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

أَرَادُوا = بیچ قوم والے۔ کہینے۔ (اسم تفضیل) (واحد أَرْدَلٌ)

أَرْبَى = زیادہ فائدہ مند۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)

أَرْبَابٌ = مربی - پالنے والا - (رب واحد - اسم جمع)

أَرْبَئَةٌ = حاجت - غرض - (اسم مشتق)

أَرْبَعٌ = چار چار - (اسم عدد)

أَرْبَعَةٌ = چار مرد - (اسم عدد)

أَرْبَعِينَ = چالیس - (اسم عدد)

أَرْتَابٌ = اس نے شک کیا - (ماضی - واحد مذکر غائب)

أَرْتَابْتُ = اس نے شک کیا - (ماضی - واحد مونث غائب)

أَرْتَابُوا = انہوں نے شک کیا - (ماضی - جمع مذکر غائب)

أَرْتَبْتُمْ = تم نے شک کیا - (ماضی - جمع مذکر حاضر)

أَرْتَدَّ = وہ مرتد ہو گیا - پھر گیا - (ماضی - واحد مذکر غائب)

أَرْتَدَّا = دونوں مرتد ہو گئے - دونوں پھر گئے - (ماضی - تثنیہ مذکر غائب)

أَرْتَدُّوا = وہ سب مرتد ہو گئے - وہ سب پھر گئے - (ماضی - جمع مذکر غائب)

أَرْتَضَى = اس نے پسند کر لیا - (ماضی - واحد مذکر غائب)

أَرْتَقِبَ = غھنٹھ رہا - (امر - واحد مذکر حاضر)

أَرْتَقِبُوا = تم غھنٹھ رہو - (امر - جمع مذکر حاضر)

أَرْجَاءٌ = کنارے - (اسم جمع)

أَرْجَعُ = میں پھر جاؤں گا - (مضارع - واحد متکلم)

أَرْجِعْ = تو پھر جا - (امر - واحد مذکر حاضر)

أَرْجِعُوا = تم پھر جاؤ - (امر - جمع مذکر حاضر)

أَرْجِعْنِي = تو پھر جا - رجوع کر - (امر - واحد مونث حاضر)

أَرْجُلٌ = پاؤں - (اسم جمع) (واحد رِجْلٌ ہے)

أَرْجُمُ = میں سنگسار کرتا ہوں یا کروں گا - (مضارع - واحد متکلم)

أَرْجُوا = تم امید رکھو - (امر - جمع مذکر حاضر)

أَرْجِهْ = تو ڈھیل دے - (امر - واحد مذکر حاضر)

أَرْحَمُ = بچہ دانی - رشتے - قرابتیں - (اسم جمع) (واحد رحم ہے)

أَرْحَمٌ = بڑا رحم والا - (اسم تفضیل - واحد مذکر)

أَرْحَمْ = تو رحم کر - (امر - واحد مذکر حاضر)

أَرْدَى = اس نے غارت کیا - (ماضی - واحد مذکر غائب)

أَرْدْتُ = میں نے ارادہ کیا - (ماضی - واحد متکلم)

أَرْدْتُمْ = تم نے ارادہ کیا - (ماضی - جمع مذکر حاضر)

مذکر حاضر	حاضر
أُرْسِلْنَا = ہم بھیجے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع)	أَرَدْنَا = انہوں نے ارادہ کیا۔ (ماضی۔ جمع)
مُتَكَلِّم	مَوثُ غَائِب
أُرْسِلْنَا = ہم نے بھیجا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)	أَرَدْنَا = ہم نے ارادہ کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
أُرْسِلُوا = انہوں نے بھیجا۔ (ماضی۔ جمع مذکر)	أَرَادُوا = کینے۔ (اسم جمع) (واحد رذیل ہے)
غَائِب	أَرَادُوا = بہت بڑا کینہ۔ (اسم تفضیل۔ واحد)
أُرْسِلُوا = وہ بھیجے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر)	مذکر
غَائِب	أَرَادُوا = کینے۔ (اسم تفضیل۔ جمع)
أُرْسِلُوا = تم بھیجو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)	أَرَادُوا = تو روزی دے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
إِرْصَادًا = نگرانی کرتا۔ (اسم مصدر)	أَرَادُوا = تم روزی دو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
أَرَضَ = زمین۔ (اسم واحد) (جمع اراضی ہے)	أَرَادُوا = اس نے بوجھ رکھا۔ مضبوط کیا۔ کشتی
أَرَضَعْتُ = اس نے دودھ پلایا۔ (ماضی۔ واحد)	رُوئِی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
مَوثُ غَائِب	أَرَادُوا = میں بھیجتا ہوں یا بھیجوں گا۔
أَرَضَعْنَ = انہوں نے دودھ پلایا۔ (ماضی۔ جمع)	(مضارع۔ واحد متکلم)
مَوثُ غَائِب	أَرَادُوا = وہ بھیجا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر)
أَرَضِعْنِي = تو دودھ پلا۔ (امر۔ واحد مؤنث حاضر)	غَائِب
أَرَادُوا = تم چراؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)	أَرَادُوا = تو بھیج۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
أَرَادُوا = خواہش کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)	أَرَادُوا = اس نے بھیجا۔ (ماضی۔ واحد مذکر)
أَرَادُوا = تو سوار ہو۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)	غَائِب
أَرَادُوا = تم سوار ہو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)	أَرَادُوا = اس نے بھیجا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)
أَرَادُوا = اس نے الٹ دیا۔ (ماضی۔ واحد)	غَائِب
مذکر غائب	أَرَادُوا = تم بھیجے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع)

أَرْكَبُوا = وہ اُلٹے کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔
جمع مذکر غائب)

أَرْز = اس نے ابھارا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
أَرْأَغ = اس نے پھیر دیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
غائب)

أَرْكَضُ = تو پاؤں مار۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
أَرْكَعُوا = رکوع کرو۔ نماز پڑھو۔ (امر۔ جمع مذکر
حاضر)

أَرْذَادُوا = وہ زیادہ ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

أَرْكَبِي = تو جھک۔ (امر۔ واحد مؤنث حاضر)
أَرْم = نام شہر۔ جس کو شداد بن عاد نے بتایا۔

أَرْذَجِرَ = وہ جھڑکا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مذکر غائب)

اس میں قوم عاد رہتی تھی۔ (اسم علم)

أَرْز = کر۔ قوت۔ (اسم جامد)

أَرْوَا = تم دکھاؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَرْفَتَ = وہ نزدیک ہوئی۔ آپہنچی۔ (ماضی۔ واحد
مؤنث غائب)

أَرْهَبُوا = تم ڈرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَرْهَقُ = میں تکلیف دوں گا۔ میں چڑھاؤں
گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَرْكَبِي = بہت پاکیزہ۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر
غائب)

أَرْي = میں دیکھتا ہوں۔ (مضارع۔ واحد متکلم۔
رُؤْيَةٌ سے)

أَرْز = اس نے دور کیا۔ لغزش دی۔ (ماضی۔
واحد مذکر غائب)

أَرْي = اس نے دکھایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
غائب۔ إِرَاءَةٌ سے)

أَرْلَامَ = پانے۔ جوئے کے تیز۔ (اسم جمع)

أَرْي = میں دکھاتا ہوں۔ میں دکھاؤں گا۔
(مضارع۔ واحد متکلم)

أَرْلَقْتُ = وہ نزدیک لائی گئی۔ (ماضی۔ واحد
مؤنث غائب)

أَرْي = ہم نے دکھایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَرْلَفْنَا = ہم نے نزدیک کر دیا۔ پہنچایا۔ (ماضی۔
جمع متکلم)

أَرْيَدُ = میں ارادہ کرتا ہوں۔ (مضارع۔
واحد متکلم)

أَرْوَاخَ = جوڑے۔ شلین۔ (واحد زوج ہے)

أَرْيَدُ = ہم نے دکھایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَرْيَدُ = میں زیادہ کرتا ہوں۔ میں زیادہ کروں
گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَرْيَدُ = میں زیادہ کرتا ہوں۔ میں زیادہ کروں
گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَرْيَدُ = میں زیادہ کرتا ہوں۔ میں زیادہ کروں
گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

ا-ز

أَزَيْنٌ = میں آراستہ کرتا ہوں۔ میں آراستہ کروں گا۔ (مفارع۔ واحد متکلم)
 إِزَيْنْتُ = وہ آراستہ ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

کی اولاد۔ (اسم جمع) (واحد سبب ہے)
 أَسْبَغَ = اس نے پورا کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

إِسْتَأْجَزُ = تو نوکر رکھ۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
 إِسْتَأْجَزْتَ = تو نے نوکر رکھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

ا - س

إِسْتَأْذَنَ = اس نے رخصت مانگی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

إِسْتَأْذَنُوا = انہوں نے رخصت چاہی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

إِسْتَبْدَالَ = بدلنا۔ (اسم مصدر)
 إِسْتَبْرَقَ = دبا۔ موٹا ریشمی کپڑا۔ (اسم)
 إِسْتَبْشِرُوا = تم خوش ہو جاؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

إِسْتَبْقَا = ان دونوں نے سبقت کی۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

إِسْتَبْقُوا = تم سبقت کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

إِسْتَجَابَ = اس نے قبول کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

إِسْتَجَابُوا = انہوں نے قبول کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

إِسْتَجَارَ = اس نے پناہ طلب کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَسَاءَ = اس نے برا کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَسَأْتُمْ = تم نے برا کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

أَسَاءُوا = انہوں نے بدکاری کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

أَسَارَى = قیدی۔ (اسم جمع) (واحد اسیر ہے)
 أَسَاطِيرَ = کہانیاں۔ (واحد اسطورة ہے)

أَسْأَلُ = میں سوال کرتا ہوں۔ (مفارع۔ واحد متکلم)

إِسْأَلُ = تو سوال کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَسْأَلُوا = تم سوال کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
 أَسَاوِرَ = کنگن۔ (اسم جمع) (واحد أسورة ہے)

أَسْبَابٌ = علاقے۔ رسیاں۔ (اسم جمع) (واحد سبب ہے)

أَسْبَاطٌ = بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب عليه السلام

اَسْتَجِبُّ = میں قبول کرتا ہوں۔ میں قبول کروں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

اَسْتَجِبْتُمْ = تم نے قبول کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

اَسْتَجِيبُ = وہ قبول کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

اَسْتَجِيبُوا = تم حکم مانو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

اَسْتَجِيبُوا = انہوں نے دوست رکھا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

اَسْتَحْفِظُوا = وہ تمہاراں ٹھہرائے گئے۔ وہ یاد کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)

اَسْتَحَقُّ = وہ لائق ہوا۔ وہ مستحق ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اَسْتَحَقَّا = وہ دونوں لائق ہوئے۔ وہ دونوں حقدار ہوئے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

اَسْتَحْوَذَ = اس نے قابو میں کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اَسْتَحْيَا = حیا چاہنا۔ (اسم مصدر)

اَسْتَحْيُوا = تم زندہ چھوڑ دو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

اَسْتَحْيِي = میں زندہ چھوڑوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

اَسْتَخْرِجَ = اس نے نکالا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

اَسْتَخَفَّ = اس نے بیوقوف بنا۔ اس نے

عقل مار دی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اَسْتَخْلِصُ = میں خالص کرتا ہوں۔ میں خالص کروں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

اَسْتَخْلَفَ = اس نے حاکم یا خلیفہ کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اَسْتَرْقَى = اس نے چرایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اَسْتَرْهَبُوا = انہوں نے ڈرایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

اَسْتَزَلَّ = اس نے پھسلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اَسْتَسْقَى = اس نے پانی مانگا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اَسْتَشْهَدُوا = تم گواہ کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

اَسْتَضْعَفُوا = انہوں نے کمزور سمجھا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

اَسْتَضْعَفُوا = وہ کمزور سمجھے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)

اَسْتَطَاعَ = اس نے طاقت رکھی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اَسْتَطَاعُوا = انہوں نے طاقت رکھی۔ (ماضی۔

جمع مذكر غائب

اِسْتَطَعْتُ = تو نے طاقت رکھی۔ (ماضی)

واحد مذكر حاضر

اِسْتَطَعْتُ = میں نے طاقت رکھی۔ (ماضی)

واحد مذكر وموثن متکلم

اِسْتَطَعْتُمْ = تم نے طاقت رکھی۔ (ماضی)

مذكر حاضر

اِسْتَطَعْنَا = ان دونوں نے کھانا طلب کیا۔

(ماضی) تنزیہ مذكر غائب

اِسْتَطَعْنَا = ہم نے طاقت رکھی۔ (ماضی)

متکلم

اِسْتَعْجَلُ = جلدی کرتا۔ (اسم مصدر)

اِسْتَعْجَلْتُمْ = تم نے جلدی کی۔ (ماضی)

مذكر حاضر

اِسْتَعْجَدُ = تو پناہ مانگ۔ (امر)

اِسْتَعْصَمَ = وہ بچا رہا۔ (ماضی)

غائب

اِسْتَعْلَى = وہ اونچا ہوا۔ اس نے غلبہ حاصل

کیا۔ (ماضی) واحد مذكر غائب

اِسْتَعْمَرَ = اس نے بسایا۔ (ماضی)

غائب

اِسْتَعِينُوا = تم مدد طلب کرو۔ (امر)

حاضر

اِسْتَعَاثَ = اس نے فریاد چاہی۔ (ماضی)

مذكر غائب

اِسْتَعْشَوْا = انہوں نے اپنے اوپر کپڑا لپیٹ

لیا۔ اوڑھ لیا۔ وہ سب لپٹے۔ (ماضی)

جمع مذكر غائب

اِسْتِعْفَارُ = بخشش طلب کرنا۔ (اسم مصدر)

اِسْتَعْفَرُ = اس نے بخشش طلب کی۔ (ماضی)

واحد مذكر غائب

اِسْتَعْفِرُ = میں بخشش طلب کرتا ہوں یا

کروں گا۔ (مضارع) واحد متکلم

اِسْتَعْفِرُ = گناہ بخشوا۔ مغفرت چاہ۔ (امر)

مذكر حاضر

اِسْتَعْفَرْتُ = تو نے معافی چاہی۔ (ماضی)

واحد مذكر حاضر

اِسْتَعْفِرُوا = تم سب مغفرت طلب کرو۔

(امر) جمع مذكر حاضر

اِسْتَعْفِرِيْ = تو معافی مانگ۔ (امر)

موث حاضر

اِسْتَعْلَظَ = وہ موٹا ہوا۔ (ماضی)

غائب

اِسْتَعْنَى = اس نے بے پرواہی کی۔ (ماضی)

واحد مذكر غائب

اِسْتَعْفَيْتَ = تو فتویٰ طلب کر۔ (ماضی)

مذكر حاضر

اِسْتَفْتَحُوا = انہوں نے فیصلہ چاہا۔ (ماضی)

جمع مذکر غائب)

اِسْتَفْزَرُ = تو گھیر (امر- واحد مذکر حاضر)

اِسْتِقَامَةٌ = سیدھے کھڑے ہونا۔ (اسم مصدر)

اِسْتَقَامُوا = وہ سیدھے ہوئے۔ (ماضی- جمع)

مذکر غائب)

اِسْتَفَّرَ = وہ ٹھہرا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

اِسْتَقِمَ = تو استقامت اختیار کر۔ (امر- واحد)

مذکر حاضر)

اِسْتَقِيمَا = تم دونوں استقامت اختیار کرو۔

(امر- تشبیہ مذکر حاضر)

اِسْتَقِيمُوا = تم سب استقامت اختیار کرو۔

(امر- جمع مذکر حاضر)

اِسْتَكَانُوا = انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ وہ

عاجز ہوئے۔ (ماضی- جمع مذکر غائب)

اِسْتِكْبَارٌ = غرور کرنا۔ (اسم مصدر)

اِسْتَكْبَرُ = اس نے تکبر کیا۔ (ماضی- واحد مذکر

غائب)

اِسْتَكْبَرَتْ = تو نے غرور کیا۔ (ماضی- واحد

مذکر حاضر)

اِسْتَكْبَرْتُمْ = تم نے غرور کیا۔ (ماضی- جمع

مذکر حاضر)

اِسْتَكْبَرُوا = انہوں نے تکبر کیا۔ (ماضی- جمع

مذکر غائب)

اِسْتَكْثَرْتُ = میں نے بہت کچھ حاصل

کر لیا۔ (ماضی- واحد متکلم)

اِسْتَكْثَرْتُمْ = تم نے انسانوں کا بہت سا

حصہ لے لیا یا اپنے تابع کر لیا۔ (ماضی- جمع مذکر

حاضر)

اِسْتَمْتَعَ = اس نے فائدہ اٹھایا۔ (ماضی- واحد

مذکر غائب)

اِسْتَمْتَعْتُمْ = تم نے فائدہ اٹھایا۔ (ماضی- جمع

مذکر حاضر)

اِسْتَمْتَعُوا = انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ (ماضی-

جمع مذکر غائب)

اِسْتَمْسَكَ = مضبوط پکڑ۔ (امر- واحد مذکر

حاضر)

اِسْتَمَعَ = اس نے سنا۔ (ماضی- واحد مذکر

غائب)

اِسْتَمِعَ = تو سن۔ کان رکھ۔ (امر- واحد مذکر

حاضر)

اِسْتَمِعُوا = تم کان لگا کر سنو۔ (امر- جمع مذکر

حاضر)

اِسْتَمِعُوا = انہوں نے کان لگا کر سنا۔ (ماضی-

جمع مذکر غائب)

اِسْتَنْصَرَ = اس نے مدد مانگی۔ (ماضی- واحد

مذکر غائب)

اِسْتَنْصَرُوا = انہوں نے مدد مانگی۔ (ماضی-

جمع مذکر غائب)

اِسْتَنْكَفُوا = انہوں نے عیب جانا۔ انہوں نے عار سمجھی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)	اِسْتَيْقَنَتْ = اس نے یقین حاصل کر لیا۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)
اِسْتَوَى = وہ سیدھا ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)	اَسْجُدُ = میں سجدہ کروں۔ (مضارع۔ واحد تکلم)
اِسْتَوَتْ = وہ ٹھہری۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)	اَسْجُدُ = تو سجدہ کر۔ عاجزی کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
اِسْتَوْقَدَ = اس نے آگ جلائی (ماضی۔ واحد مذکر غائب)	اَسْجُدُوا = تم سجدہ کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
اِسْتَوَيْتَ = تو سیدھا ہوا۔ سوار ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)	اَسْجُدِي = تو سجدہ کر۔ (امر۔ واحد مؤنث حاضر)
اِسْتَوَيْتُمْ = تم سیدھے ہوئے۔ سوار ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)	اَسْحَارُ = صبح کے وقت۔ (اسم جمع) (واحد سحر ہے)
اِسْتَهْزِئْ = وہ مذاق کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)	اِسْحَقُ = نام پیغمبر جو حضرت ابراہیم <small>عليه السلام</small> کے بیٹے اور بی بی سارہ <small>رضی اللہ عنہا</small> کے بطن سے تھے۔ (اسم علم)
اِسْتَهْزِئْ وَا = تم مذاق کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)	اَسْحَطَ = اس نے بیزار کر دیا۔ وہ غصہ میں لایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
اِسْتَهْوَتْ = خواہشات نفسی کی پیروی پر ابھارا۔ اس نے بھلایا۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)	اَسْرُ = قید (اسم واحد) (اسم جمع)
اِسْتَيْقَاسَ = وہ ناامید ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)	اَسْرٍ = تو رات کو لے کر چل۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
اِسْتَيَّاسُوا = وہ ناامید ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)	اَسَارَى = قیدی۔ (اسم جمع) (واحد اسیر ہے)
اِسْتَيْسَّرَ = وہ آسان ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)	اَسْرَى = اس نے رات کو سیر کرائی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
	اِسْرَائِيلَ = حضرت یعقوب <small>عليه السلام</small> کا عبرانی نام۔ بمعنی عبداللہ۔ (اسم علم)

اِسْرَارٌ = مشورہ کرنا۔ آہستہ بات کرنا۔ (اسم مصدر)

اِسْرَافٌ = بے فائدہ خرچ کرنا۔ (اسم مصدر)
اَسْرَحُ = میں رخصت کرتا ہوں۔ میں رخصت کروں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

اَسْرَزْتُ = میں نے چھپا کر کیا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

اَسْرَعُ = بہت جلدی کرنے والا۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)

اَسْرَفٌ = اس نے فضول خرچی کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اَسْرَفُوا = وہ حد سے بڑھے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

اَسْرَوُا = انہوں نے چھپایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

اَسْرَوُا = تم چھپاؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

اَسْرَهُمُ = ان کی رگ پیدائش۔ گرہ بندی۔ ان کے جوڑ

اَسَسُ = اس نے بنیاد رکھی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اُسِسُ = بنیاد ڈالی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

اِسْعَوْا = تم دوڑو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
اَسْفَى = ہائے افسوس۔ (اسم مشتق۔ اصل ہے)

میں اَسْفَى مضاف یائے متکلم تھا۔ ”سی“ کو الف سے بدلا۔)

اَسْفَارٌ = کتابیں۔ (اسم جمع) (واحد سفر ہے)
اَسْفَرٌ = وہ روشن ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اَسْفَلَ = بہت نیچے ہونے والا۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)

اَسْفَلَ = وہ نیچے ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اَسْفَلِينَ = سب سے نیچے والے۔ (اسم جمع) (واحد اسفل ہے۔ بحالت نصی و جری)

اَسْقَطُ = تو گرا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

اَسْقَى = میں پلاتا ہوں۔ (مضارع۔ واحد متکلم)
اَسْقَيْنَا = ہم نے پلایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

اُسْكُنْ = تو رہ۔ تو ٹھہر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

اَسْكُنْنَا = ہم نے ٹھہرایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

اَسْكَنْتُ = میں نے بسایا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)
اُسْكُنُوا = تم رہو۔ بسو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

اَسْكُنُوا = تم جگہ دو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
اِسْلَامٌ = تابعداری کرنا۔ (اسم مصدر)

اَسْلِحَةٌ = ہتھیار۔ (اسم جمع) (واحد سلاح ہے)

أَسْلَمُوا = تم اسلام لاؤ۔ فرمانبردار رہو۔ (امر۔
جمع مذکر حاضر)

أَسَلْنَا = ہم نے بلایا۔ (ماضی۔ جمع مکمل)

إِسْم = نام۔ (اسم واحد) (جمع اسماء اور
اسلمی ہے۔)

أَسْمَاء = نام۔ (اسم جمع)

أَسْمَعُ = میں سنتا ہوں۔ (مضارع۔ واحد مکمل)

إِسْمَعُ = تو سن۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَسْمَعُ = اس نے سنایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
غائب)

أَسْمِعْ بِهِ = وہ کیا خوب سنتا ہے۔ (فعل
تعجب)

إِسْمَعُوا = تم سنو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

إِسْمَاعِيلُ = نام پیغمبر جو حضرت ابراہیم ﷺ

کے بڑے بیٹے اور بی بی ہاجرہ کے بطن سے
تھے۔ حضرت ابراہیم ﷺ بحکم اللہ تعالیٰ ان کو

ذبح کر رہے تھے کہ اللہ نے بچا لیا۔ اس سے
ان کا لقب ذبح اللہ ہوا اور بقر عید کی قربانی

سنت ابراہیم ﷺ کہلائی۔ (اسم علم)

أَسْوَأُ = بہت برا۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)

أَسْوَاقُ = بازار۔ (اسم جمع) (واحد سوق ہے)

أُسْوَةٌ = پیروی۔ پیشوا۔ نمونہ۔ (اسم مصدر)

أَسْوَدُ = سیاہ۔ (صیغہ صفت مشبہ۔ اسم)

إِسْوَدَّتْ = وہ سیاہ ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث
غائب)

أَسْلَفَ = اس نے آگے بھیجا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

أَسْلَفْتِ = تو نے آگے بھیجا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر حاضر)

أَسْلَفْتُمْ = تم نے آگے بھیجا۔ (ماضی۔ جمع
مذکر حاضر)

أُسْلُكُ = تو چل۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أُسْلِكُوا = تم چلو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أُسْلِكِي = تو چل۔ (امر۔ واحد مؤنث حاضر)

أَسْلِمَ = تو فرمانبردار ہو۔ (امر۔ واحد مذکر
حاضر)

أَسْلَمَ = وہ فرمانبردار ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
غائب)

أَسْلَمًا = ان دونوں نے حکم مانا۔ (ماضی۔ تثنیہ
مذکر غائب)

أَسْلَمْتُ = میں فرمانبردار ہوا۔ (ماضی۔
واحد مکمل)

أَسْلَمْتُمْ = تم تابع دار ہوئے۔ (ماضی۔ جمع
مذکر حاضر)

أَسْلَمْنَا = ہم تابع وار ہوئے۔ (ماضی۔ جمع
مکمل)

أَسْلَمُوا = وہ تابع دار ہوئے۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)

أَسْوَرَةٌ = کنگن۔ (اسم جمع) (جمع اساور ہے)

أَسْوُنٌ = پانی کی بو اور مزہ بدلانا۔ (اسم مصدر)

أَسِيرٌ = قیدی۔ (اسم جمع) (واحد اساری ہے)

۱ - ش

أَشَاءُ = میں چاہوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَشَارَتْ = اس نے ہاتھ سے بتایا۔ (ماضی۔

واحد مونث غائب)

أَشْتَاتٌ = متفرق۔ منتشر۔ (اسم مشتق)

إِشْتَدَّتْ = مضبوط ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث

غائب)

إِشْتَرَى = اس نے خرید لیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

إِشْتَرَوْا = انہوں نے خرید لیا۔ (ماضی۔ جمع

مذکر غائب)

إِشْتَعَلَ = اس نے شعلہ پکڑا۔ روشن ہوا۔

(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

إِشْتَمَلَتْ = وہ شامل ہوئی۔ (ماضی۔ واحد

مونث غائب)

إِشْتَهَتْ = اس نے چاہا۔ (ماضی۔ واحد مونث

غائب)

أَشْحَةٌ = بخیل۔ لالچی۔ (اسم جمع۔ واحد

شحيح ہے۔)

أَشَدُّ = بہت سخت۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر

أَشَدُّ = قوت۔ جوانی۔ (اسم مشتق)

أَشِدَّاءُ = زبردست۔ سخت۔ (اسم جمع) (واحد

شدید ہے)

أَشْدُدٌ = میں مضبوط کروں گا۔ (مضارع مجزوم۔

واحد متکلم)

أَشْدُدُ = تو سخت کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَشْرُّ = بہت برا۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر

أَشْرٌ = برائی کرنے والا۔ اترانے والا۔ (صفت

شبہ۔ واحد مذکر)

أَشْرَارٌ = برے لوگ۔ (اسم جمع) (واحد شریر

ہے)

أَشْرَاطٌ = نشانیاں۔ (اسم جمع) (واحد شرط

ہے)

إِشْرَاقٌ = صبح سورج نکلنے کے بعد۔ (اسم

ظرف)

أَشْرَبُوا = ان کو پلایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ جمع

مذکر غائب)

إِشْرَبِيْ = تو پی۔ (امر۔ واحد مونث حاضر)

إِشْرَحْ = تو کھول۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَشْرَقَتْ = وہ چمکی۔ (ماضی۔ واحد مونث

غائب)

أَشْرَكَ = تو شریک کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَشْرَكَ = اس نے شریک کیا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

اَشْرُكٌ = میں شرک کروں گا۔ (مضارع- واحد متکلم)	اِسْمَاَزَتْ = وہ تنگ ہوئی۔ (ماضی- واحد مونث غائب)
اَشْرُكْتُ = اس نے شرک کیا۔ (ماضی- واحد مونث غائب)	اَشْهَادٌ = گواہ۔ (اسم جمع) (واحد شاہد ہے)
اَشْرُكْتُمْ = تم نے شریک کیا۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)	اَشْهَدُ = تو گواہ لا۔ (امر- واحد مذکر حاضر)
اَشْرُكْتُمُوْا = تم نے شریک ٹھہرایا۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)	اَشْهَدُ = تو گواہ ہو۔ (امر- واحد مذکر حاضر)
اَشْرُكْنَا = ہم نے شریک کیا۔ (ماضی- جمع متکلم)	اَشْهَدْتُ = میں نے حاضر کیا۔ (ماضی- واحد متکلم)
اَشْرُكُوْا = انہوں نے شریک ٹھہرایا۔ (ماضی- جمع مذکر غائب)	اَشْهَدُوْا = تم گواہ رہو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)
اَشْعَارٌ = بال۔ (اسم جمع) (واحد شعر ہے)	اَشْهَدُوْا = تم گواہ رکھو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)
اَشْفَقْتُمْ = تم ڈر گئے۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)	اَشْهَرٌ = مینے۔ (اسم جمع) (واحد شہر ہے)
اَشْفَقْنَا = وہ ڈر گئیں۔ (ماضی- جمع مونث غائب)	اَشْيَاءٌ = چیزیں۔ (اسم جمع) (واحد شئی ہے)
اَشْقٌ = بہت سخت۔ (اسم تفضیل- واحد مذکر)	اَشْيَاعٌ = ہم مذہب ساتھی۔ (اسم جمع) (واحد شعبة ہے)
اَشْقٌ = میں تکلیف میں ڈالتا ہوں۔ میں تکلیف میں ڈالوں گا۔ (مضارع- واحد متکلم)	
اَشْقَى = بڑا بدبخت۔ (اسم تفضیل- واحد مذکر)	
اَشْكُرُ = میں شکر کرتا ہوں۔ میں شکر کروں گا۔ (مضارع- واحد متکلم)	
اَشْكُرُوْا = تم شکر کرو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)	
اَشْكُوْا = میں شکوہ کرتا ہوں۔ (ماضی- واحد متکلم)	

۱ - ص

اَصَابٌ = وہ پہنچا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)
اَصَابْتُ = وہ پہنچی۔ (ماضی- واحد مونث غائب)
اَصَابِعٌ = انگلیاں۔ (اسم جمع) (واحد اصبع ہے)

آئے تھے بحکم خدا سب کو ابابیلوں نے کنکریاں مار کر ہلاک کیا۔ (مرکب اضافی)	أَصْبُ - میں مائل ہو جاؤں۔ (مضارع- واحد متکلم)
أَصْحَابُ الْكَهْفِ = کف والے وہ سات جوان ایمان دار جو دقینوس بادشاہ کافر کے ظلم سے بھاگ کر غار میں چھپ گئے۔ قیامت تک وہیں رہیں گے۔ (مرکب اضافی)	إِصْبَاحٌ = صبح کی روشنی۔ (اسم ظرف)
إِصْدَغٌ = تو صاف کہہ دے۔ (امر- واحد مذکر حاضر)	أَصْبَيْتُمْ = تم نے پہنچائے۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)
أَصْدَقٌ = بڑا سچا۔ (اسم تفضیل- واحد مذکر)	أَصْبَحَ = اس نے صبح کی۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)
أَصْدَقٌ = میں صدقہ کرتا ہوں یا کروں گا۔ (مضارع- واحد متکلم)	أَصْبَحَتْ = وہ صبح تک ہو کر رہی۔ وہ ہوئی۔ (ماضی- واحد مؤنث غائب)
إِضْرُ = بوجھ۔ (اسم)	أَصْبَحْتُمْ = تم ہوئے۔ تم نے صبح کی۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)
أَصْرِفٌ = میں پھیرتا ہوں۔ میں پھیروں گا۔ (مضارع- واحد متکلم)	أَصْبِرُ = بڑا صبر کرنے والا۔ (اسم تفضیل- واحد مذکر)
إِضْرِفٌ = تو پھیر۔ (امر- واحد مذکر حاضر)	إِضْبِرُ = تو صبر کر۔ (امر واحد مذکر حاضر)
أَصْرَوْا = انہوں نے اصرار کیا۔ (ماضی- جمع مذکر غائب)	إِضْبِرُوا = تم صبر کرو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)
إِضْطَاذُوا = تم شکار کرو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)	أَصْبِنَا = ہم پہنچے۔ (ماضی- جمع متکلم)
إِضْطَبِرُ = صبر کر۔ (امر- واحد مذکر حاضر)	أَصْحَابٌ = دوست۔ یار۔ ساتھی۔ (اسم جمع واحد صاحب ہے)
إِضْطَفَى = اس نے چن لیا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)	أَصْحَابُ الْيَمِينِ = راہنی طرف کے نیک جنتی۔ حساب کے مقام میں عرش کے داہنے کھڑے ہوں گے اور نامہ اعمال بھی داہنے ہاتھ میں پائیں گے۔ (مرکب اضافی)
إِضْطَفَيْتُ = میں نے چن لیا۔ (ماضی- واحد متکلم)	أَصْحَابُ الْفِيلِ = ابراہم اور اس کے ساتھ کافر جو بہت سے ہاتھی لے کر خانہ کعبہ گرانے

إِصْطَفَيْنَا = ہم نے چن لیا۔ (ماضی۔ جمع تکلم)

أَصْلَحُوا = انہوں نے درست کیا۔ وہ سنور گئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

إِصْطَنَعْتُ = میں نے بنایا۔ (ماضی۔ واحد تکلم)

أَصْلَحُوا = تم صلح کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَصْغُرُ = بہت چھوٹا۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر غائب) = اس نے چن دیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَصْلَوْا = تم داخل ہو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَصْفَى = زنجیریں۔ (اسم جمع۔ واحد صَفْدٌ ہے۔)

أَصْلَى = میں جنم میں ڈالوں گا۔ (مضارع۔ واحد تکلم)

أَصْفَادُ = زنجیریں۔ (اسم جمع۔ واحد صَفْدٌ ہے۔)

أَصَمَّ = بہرا۔ (واحد) (جمع صُمٌّ ہے)

أَصْنَامُ = بت۔ (اسم جمع) (واحد صَنَمٌ ہے)

أَصْنَعُ = تو کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَصْفَحُوا = تم درگزر کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَصَوَاتُ = آوازیں۔ (اسم جمع) (واحد صوت ہے)

أَصْلُ = جڑ۔ (اسم واحد) (جمع اصول ہے)

أَصَوَافُ = اون۔ (اسم جمع) (واحد صوف ہے)

أَصْلَابُ = بیٹھیں۔ (اسم جمع) (واحد صلب ہے)

أَصُولُ = جڑیں۔ (اسم جمع) (واحد اصل ہے)

إِصْلَاحُ = سنوارنا۔ (اسم مصدر)

أَصِيبُ = میں پھنچاتا ہوں۔ میں پھنچاؤں گا۔ (مضارع۔ واحد تکلم)

أَصْلَبُ = میں سولی چڑھاتا ہوں۔ میں سولی چڑھاؤں گا۔ (مضارع۔ واحد تکلم)

أَصِيلُ = شام۔ (اسم واحد۔ اسم ظرف) (جمع أصال ہے)

أَصْلَحُ = تو اصلاح کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَصْلَحَ = اس نے سنوارا۔ صلح کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَصْلَحَا = ان دونوں نے صلح کی۔ ان دونوں نے سنوارا۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

أَصْلَحْنَا = ہم نے درست کر دیا۔ (ماضی۔ واحد تکلم)

۱ - ض

أَضَاءُ = اس نے چمکایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَضَاءَتْ = اس نے چمکایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَضَاءْتُ = اس نے چمکایا۔ (ماضی۔ واحد تکلم)

أَضَاءَتْ = اس نے چمکایا۔ (ماضی۔ واحد تکلم)

أَصَلَّ = اس نے گمراہ کیا۔ (ماضی- واحد
مذکر غائب)

أَصِلَّ = میں گمراہ کروں گا۔ (ماضی- واحد متکلم)
أَصَلَّأ = ان دونوں نے گمراہ کیا۔ (ماضی- تثنیہ
مذکر غائب)

أَصَلَّلْتُمْ = تم نے گمراہ کیا۔ (ماضی- جمع مذکر
حاضر)

أَصَلَّلَنْ = انہوں نے گمراہ کیا۔ (ماضی- جمع
مؤنث غائب)

أَصَلَّلُوا = ان سب نے گمراہ کیا۔ (ماضی- جمع
مذکر غائب)

أَصْنِغْ = میں ضائع کرتا ہوں۔ میں ضائع کروں
گا۔ (مضارع- واحد متکلم)

ا - ط

أَطَاعَ = اس نے فرمانبرداری کی۔ (ماضی- واحد
مذکر غائب)

أَطَاعُوا = انہوں نے فرمانبرداری کی۔ (ماضی-
جمع مذکر غائب)

أَطْرَافَ = کنارے۔ (اسم جمع) (واحد طرف
ہے)

إِطْرَحُوا = تم پھینک دو۔ (امر- جمع مذکر
حاضر)

مؤنث غائب)

أَضَاعُوا = انہوں نے ضائع کیا۔ (ماضی- جمع
مذکر غائب)

أَضْحَكَ = اس نے ہنسایا۔ (ماضی- واحد مذکر
غائب)

إِضْرِبْ = تو مار۔ (امر- واحد مذکر حاضر)

إِضْرِبُوا = تم مارو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)

أَضْطَرَّ = میں مجبور کروں گا۔ (مضارع-
واحد متکلم)

أَضْطَرَّ = وہ مجبور کیا گیا۔ (ماضی مجہول- واحد
مذکر غائب)

أَضْطَرَرْتُمْ = تم مجبور کئے گئے۔ (ماضی
مجہول- جمع مذکر حاضر)

أَضْعَافٌ = کئی گنا۔ (اسم جمع) (واحد ضِعْفٌ
ہے)

أَضْعَفٌ = نہایت ست۔ (اسم حقیقی- واحد
مذکر)

أَضْعَاثٌ = پراگندہ۔ خشک و تر لے جلے۔
گھاس کے سٹے۔ (اسم جمع) (واحد ضِعْفٌ ہے)

أَضْعَاثُ أَحْلَامٍ = ڈراؤنے خواب۔ (مرکب
اضافی)

أَضْعَانٌ = دشمنی۔ (اسم جمع) (واحد ضِعْفٌ
ہے)

أَصَلَّ = بڑا گمراہ۔ (اسم حقیقی- واحد مذکر)

إِطْعَامٌ = کھانا کھلانا۔ (اسم مصدر)

أَطَعْتُمْ = تم نے فرمانبرداری کی۔ (ماضی۔ جمع)

مذکر حاضر

أَطَعْتُمُوهَا = تم نے فرمانبرداری کی۔ (ماضی۔ جمع)

مذکر حاضر

أَطَعَمَ = اس نے کھانا کھلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر)

غائب

أَطَعِمُوهُمَا = تم کھلاؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَطَعَنَ = انہوں نے تابعداری کی۔ (ماضی۔ جمع)

مونث غائب

أَطِيعَنَ = تم فرماں برداری کرو۔ (امر۔ جمع)

مونث حاضر

أَطَعْنَا = ہم نے فرماں برداری کی۔ (ماضی۔ جمع)

متکلم

أَطْفَى = بڑا شریر۔ (اسم تفضیل)

أَطْفَيْتُ = میں نے گمراہ کیا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

أَطْفَأَ = اس نے بجھایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر)

غائب

أَطْفَالٌ = بچے۔ (اسم جمع) (واحد طفل ہے)

أَطَّلَعَ = میں جھانکوں۔ میں اطلاع پاؤں۔

(مضارع۔ واحد متکلم)

إِطَّلَعَ = وہ خبردار ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر)

غائب

إِطَّلَعْتُ = تو خبردار ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر)

إِطْمَآنٌ = اس نے اطمینان حاصل کیا۔ (ماضی۔

واحد مذکر غائب)

إِطْمَأْنَنْتُمْ = تم مطمئن ہوئے۔ (ماضی۔ جمع)

مذکر حاضر

إِطْمَأْنَنُوا = وہ سب مطمئن ہوئے۔ (ماضی۔ جمع)

مذکر غائب

إِطْمَسَ = تو ختم کر دے۔ (امر۔ واحد مذکر

حاضر)

أَطْمَعُ = میں توقع رکھتا ہوں۔ (ماضی۔

واحد متکلم)

إِطْمِينَانَ = آرام لینا۔ (اسم مصدر)

أَطْوَارٌ = کئی طرح۔ (اسم جمع) (واحد طَوْرٌ

ہے)

أَطْهَرُ = خوب پاک۔ بہت ستھرا۔ (اسم تفضیل۔

واحد مذکر)

أَطْهَرُوا = خوب پاک کرو۔ (امر۔ جمع مذکر

حاضر)

إِطْيَرْنَا = ہم نے منحوس جانا۔ (ماضی۔ جمع)

متکلم)

إِطْيَرُوا = انہوں نے منحوس جانا۔ (ماضی۔ جمع)

مذکر غائب)

أَطِيعُوا = تم فرمانبرداری کرو۔ (امر۔ جمع مذکر

حاضر)

۱-ظ

أَظْفَرَ = اس نے کامیاب کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 أَظْلَمَ = اس نے تاریک کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 أَظْلَمُ = بڑا ظالم۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)
 أَظُنُّ = میں گمان کرتا ہوں۔ (مضارع۔ واحد متکلم)
 أَظْهَرَ = اس نے ظاہر کر دیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

۱-ع

إِعَادَةَ = دہرائے۔ (اسم مصدر)
 أَعَانَ = اس نے مدد کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 أَعْبَدُ = میں پوجتا ہوں۔ (ماضی۔ واحد متکلم)
 أُعْبِدُ = تو بندگی کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
 أَعْبَدُوا = تم عبادت کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
 إِعْتَبِرُوا = تم عبرت پکڑو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
 إِعْتَدَى = اس نے زیادتی کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 أَعْتَدْتُ = اس نے تیار کیا۔ (ماضی۔ واحد

مؤنث غائب)

أَعْتَدْنَا = ہم نے تیار کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

إِعْتَدُوا = انہوں نے زیادتی کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

إِعْتَدُوا = تم زیادتی کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

إِعْتَدِينَا = ہم حد سے بڑھے۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

إِعْتَرَى = اس نے جھپٹ لیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

إِعْتَرَفْنَا = ہم نے اقرار کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

إِعْتَرَفُوا = وہ قائل ہوئے۔ انہوں نے اقرار کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

إِعْتَزَلَ = وہ الگ ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَعْتَزَلُ = میں گوشہ پکڑتا ہوں۔ میں الگ ہوتا ہوں۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

إِعْتَزَلْتُمَا = تم نے کنارہ پکڑا۔ تم الگ ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

إِعْتَزَلُوا = تم جدا رہو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

إِعْتَصَام = پیچھے مار کر پکڑنا۔ (اسم مصدر)

إِعْتَصَمُوا = انہوں نے مضبوط پکڑا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

إِعْتَصَمُوا = تم مضبوط پکڑو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

إِعْتَلُوا - تم سختی سے کھینچو۔ (امر جمع مذکر حاضر)

إِعْتَلُوا = تم انصاف کرو۔ (امر جمع مذکر حاضر)

إِعْتَمَرَ - اس نے زیارت کی۔ (ماضی واحد مذکر غائب)

أَعَدُّوا - انہوں نے تیار کیا۔ (ماضی جمع مذکر غائب)

أَعْتَرْنَا - ہم نے کھول دیا۔ ہم نے مطلع کیا۔ (ماضی جمع متکلم)

أَعَذَّبُ - میں عذاب کرتا ہوں۔ میں عذاب کروں گا۔ (مضارع واحد متکلم)

أَعْجَازٌ - جڑیں۔ (اسم جمع) (واحد عجزز ہے)

أَعْرَابٌ - غیر منذب۔ اس کا واحد أَعْرَابِيٌّ ہے۔ (اسم جمع) عرب کے خانہ بدوش لوگ۔

أَعْجَبَ - اس نے خوش کیا۔ (ماضی واحد مذکر غائب)

إِعْرَاضٌ - منہ پھیرنا۔ (اسم مصدر)

أَعْجَبْتُ - اس نے خوش کیا۔ (ماضی واحد مونث غائب)

أَعْرَافٌ - ان گھروں کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہیں۔ (اسم - ظرف مکان)

أَعْجَلَ - اس نے جلدی کی۔ (ماضی واحد مذکر غائب)

أَعْرَجٌ - لنگڑا۔ (اسم صفت)

أَعْجَمَ - گوٹا۔ (اسم صفت) واحد۔

أَعْرَضَ - اس نے منہ پھیرا۔ (ماضی واحد مذکر غائب)

أَعْجَمِيٌّ - عجم والا۔ عربی زبان کے سوا زبان۔ غیر عربی۔

أَعْرَضْتُمْ - تم نے منہ پھیرا۔ (ماضی جمع مذکر حاضر)

أَعْجَمِيْنَ - عجم والے۔ (اسم جمع)

أَعْرَضُوا - انہوں نے منہ پھیرا۔ (ماضی جمع مذکر غائب)

أَعَدَّ - اس نے تیار کیا۔ (ماضی واحد مذکر غائب)

أَعْرَضُوا = تم اعراض کرو۔ (امر جمع مذکر حاضر)

أَعْدَتْ - وہ تیار کی گئی۔ (ماضی مجہول واحد مونث غائب)

أَعَزُّ - عزت والا۔ بہت عزیز۔ (اسم تفضیل واحد مذکر)

أَعْدِلُ - میں انصاف کرتا ہوں۔ (ماضی واحد مذکر)

أَعِزَّةٌ = عزت والے - زبردست - (واحد)
عَزِيزٌ

إِعْصَارٌ = آندھی - بگولا - (اسم واحد) (جمع)
اعاصر و اعاصیر ہے

أَعْصِرُ = میں نچوڑتا ہوں - (مضارع -
واحد تکلم)

أَعْصِي = میں نافرمانی کرتا ہوں - میں نافرمانی
کروں گا - (مضارع - واحد تکلم)

أَعْطِي = تو دے - (امر - واحد مذکر حاضر)

أَعْطَى = اس نے دیا - (ماضی - واحد مذکر غائب)

أَعْطُوا = وہ دیئے گئے - (ماضی مجہول - جمع مذکر
غائب)

أَعْظَمْنَا = ہم نے دیا - (ماضی - جمع تکلم)

أَعْظُ = میں نصیحت کرتا ہوں - (مضارع -
واحد تکلم)

أَعْظُمُ = بہت بڑا - زیادہ - (اسم مخفی - واحد
ذکر)

أُعْفُ = تو معاف کر - (امر - واحد مذکر حاضر)

أُعْفُوا = تم معاف کرو - (امر - جمع مذکر حاضر)

أَعْقَابٌ = اڑیاں - (واحد عقب ہے)

أَعْقَبَ = وہ پیچھے لایا - (ماضی - واحد مذکر
غائب)

أَعْلَى = سب سے اوپر - نہایت بلند - (اسم

مخفی - واحد مذکر)

أَعْلَامٌ = پہاڑ - جھنڈے - (واحد علم ہے)

أَعْلَمُ = میں جانتا ہوں - میں جانوں گا -
(مضارع - واحد تکلم)

إِعْلَمُ = تو جان - (امر - واحد مذکر حاضر)

إِعْلَمُوا = تم جانو - (امر - جمع مذکر حاضر)

أَعْلَنْتُ = میں نے واضح کیا - (ماضی -
واحد تکلم)

أَعْلَنْتُمْ = تم نے ظاہر کیا - (ماضی - جمع مذکر
حاضر)

أَعْلَوْنَ = اونچے ہونے والے - غالب آنے
والے - (اسم فاعل)

أَعْمَى = اندھا - اندھا کر دیا - (ماضی - واحد مذکر
غائب)

أَعْمَالٌ = کام - (واحد عمل ہے)

أَعْمَامٌ = بچے - (اسم جمع) (واحد عم ہے)

أَعْمَلُ = میں کام کرتا ہوں - (مضارع -
واحد تکلم)

إِعْمَلُ = تو کام کر - (امر - واحد مذکر حاضر)

إِعْمَلُوا = تم کام کرو - (امر - جمع مذکر حاضر)

أَعْنَابٌ = انگور - (اسم جمع) (واحد عنب ہے)

أَعْنَاقٌ = گردنیں - (اسم جمع) (واحد عنق
ہے)

أَعْنَتٌ = اس نے مشکل میں ڈالا - (ماضی -
واحد مذکر غائب)

أَعُوذُ = میں پناہ میں آتا ہوں۔ پناہ چاہتا ہوں۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَعْهَدُ = میں عہد کرتا ہوں۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَعْيَبُ = میں عیب لگاؤں گا یا لگاتا ہوں۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَعْيَدُوا = وہ پھر ڈالے گئے۔ وہ لوٹائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)

أَعِينُ = پناہ میں دیتا ہوں۔ میں پناہ میں دیتی ہوں۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَعِينُ = آنکھیں۔ (اسم جمع) (واحد عَيْنٌ ہے)

أَعِينُوا = تم مدد کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

۱- غ

إِعْتَرَفَ = اس نے چلو سے لیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَعْدُوا = صبح کو چلو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَعْرِقْنَا = ہم نے غرق کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَعْرِقُوا = وہ غرق کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)

أَعْرَبْنَا = ہم نے بھڑکا دیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

إِعْسَلُوا = تم دھوؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَعْشَيْتُ = وہ ڈھانپی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد حاضر)

مونث غائب)

أَعْشَيْنَا = ہم نے ڈھانپا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَعْضُضُ = تو بیچے کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَعْطَشَ = اس نے اندھیرا کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

إِعْفِرْ = تو بخش۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَغْفَلْنَا = ہم نے غافل کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَغْلَالُ = طوق۔ گلو بند۔ (اسم جمع) (واحد غل ہے)

أَغْلِبُ = میں غالب ہوتا ہوں۔ میں غالب ہوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَغْلُظُ = تو سختی کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَغْنِي = بے پرواہ کیا۔ غنی کیا۔ وہ کام آیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَعْنَتُ = وہ کام آئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

أُغْنِي = میں کام آتا ہوں۔ میں کام آؤں گا۔ میں کفایت کروں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَغْنِيَاءُ = امیر۔ مالدار۔ (اسم جمع) (واحد غنی ہے)

أُغْوِي = میں گمراہ کروں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَغْوَيْتُ = تو نے گمراہ کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

أَعْوَرْنَا = ہم نے گمراہ کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

۱- ف

أَفِ = افسوس۔ (کلمہ کراہت)

أَفَاءَ = اس نے دیا۔ اس نے لوٹایا۔ ہاتھ لگایا
(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَفَاضَ = وہ چلا۔ وہ لوٹا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَفَاقَ = وہ ہوش میں آیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَفَاكَ = بڑا جھوٹا۔ (اسم واحد) (جمع أَفْكُونٌ ہے)

أَفِيدَةٌ = دل۔ (اسم جمع۔ واحد فَوَادٌ ہے)

أَفْتٍ = تو بیان کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

إِفْتَحْ = تو کھول۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

إِفْتَدَى = اس نے فدیہ دیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

إِفْتَدَتْ = اس نے فدیہ دیا۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

إِفْتَدَوْا = انہوں نے فدیہ دیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

إِفْتِرَاءَ = تہمت۔ (اسم مصدر)

إِفْتَرَى = اس نے تہمت باندھی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

إِفْتَرَيْتُ = میں نے تہمت باندھی۔ میں نے جھوٹ بولا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

إِفْتَرَيْنَا = ہم نے تہمت باندھی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَفْتُوا = تم صلاح دو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَفْرَغْ = میں ڈالوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَفْرَغْ = تو ڈال۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

أَفْرُقْ = تو جدا کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

إِفْسَحُوا = تم وسیع کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَفْسَدُوا = انہوں نے فساد کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

أَفْصَحْ = بڑا خوش بیان۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)

أَفْضَى = وہ پہنچا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَفْضَمْ = تم پھرے۔ تم چلے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

إِفْعَلْ = تو کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

إِفْعَلُوا = تم کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَفُقْ = آسمان کا کنارہ۔ (اسم واحد) (جمع آفَاقٌ ہے)

إِفْكٌَ = بہتان۔ (اسم مصدر)

أَفْكٌَ = بہتان باندھا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

أَقَابِيلٌ = باتیں۔ (اسم جمع) (واحد قَوْلٌ یا أَقْوَالٌ ہے)

أَقْبَرُ = اس نے قبر میں رکھا۔ (ماضی۔ واحد مذكر غائب)

أَقْبَلُ = تو آگے آ۔ (امر۔ واحد مذكر حاضر)

أَقْبَلُ = وہ متوجہ ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذكر غائب)

أَقْبَلْتُ = وہ متوجہ ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

أَقْبَلْنَا = ہم متوجہ ہوئے۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَقْبَلُوا = انہوں نے توجہ کی۔ (ماضی۔ جمع مذكر غائب)

أَقْبَلْتُ = وہ وقت ٹھہرائی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مؤنث غائب)

أَقْتَتَلَ = اس نے لڑائی کی۔ (ماضی۔ واحد مذكر غائب)

أَقْتَتَلُوا = وہ لڑے۔ وہ باہم لڑے۔ (ماضی۔ جمع مذكر غائب)

أَقْتَحَمَ = وہ چڑھا۔ وہ گھسا۔ (ماضی۔ واحد مذكر غائب)

أَقْتَدِ = تو پیروی کر۔ (امر۔ واحد مذكر حاضر)

أَقْتَرَبَ = وہ نزدیک ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذكر غائب)

أَقْتَرَبَ = تو نزدیک ہو۔ (امر۔ واحد مذكر حاضر)

أَقَلَّ = وہ چھپ گیا۔ (ماضی۔ واحد مذكر غائب)

أَقَلْتُ = وہ چھپ گئی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

أَفْلَحَ = وہ کامیاب ہو گیا۔ (ماضی۔ واحد مذكر غائب)

أَفْتَانٌ = شاہین۔ (اسم جمع) (واحد فَتْنٌ ہے)

أَفْوَاجٌ = لشکر۔ گروہ۔ قافلے۔ (اسم جمع) (واحد فوج ہے)

أَفْوَاهُ = منہ۔ فَمٌّ کی اصل فوہ تھی۔ ہ کو گرا کر واؤ کو میم سے بدلا۔ (اسم جمع) (واحد فم ہے)

أَفْزُزُ = میں پہنچتا ہوں یا پہنچوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَفْزِضْ = میں سوہنپتا ہوں یا سوہنپوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَفِيضُوا = تم چلو۔ تم پھرو۔ (امر۔ جمع مذكر حاضر)

ق - ا

أَقَامَ = اس نے کھڑا کیا۔ سیدھا کیا۔ قیام کیا۔ (ماضی۔ واحد مذكر غائب)

أَقَامَ = سیدھا کرنا۔ کھڑا ہونا۔ (اسم مصدر)

أِقَامَةٌ = سیدھا کرنا۔ (اسم مصدر)

أَقَامُوا = انہوں نے قائم کیا۔ (ماضی۔ جمع مذكر غائب)

اَقْتَرَبْتُ = وہ قریب ہوئی۔ (ماضی۔ واحد
مونث غائب)

اِقْتَرَفْتُمُوْا = تم نے کمایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
حاضر)

اَقْتُلْ = میں ہلاک کرتا ہوں یا کروں گا۔
(مضارع۔ واحد متکلم)

اَقْتُلُوْا = تم مار ڈالو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

اَقْدَامٌ = پاؤں۔ (اسم جمع) (واحد قدم ہے)

اَقْدَمُوْنَ = اگلے (اسم جمع) (واحد اقدم ہے)

اِقْدِفِيْ = تو ڈال۔ (امر۔ واحد مونث حاضر)

اِقْرَأْ = تو پڑھ۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

اِقْرَأْ وَا = تم پڑھو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

اَقْرَبٌ = بہت نزدیک۔ (اسم تفضیل۔ واحد
مذکر)

اَقْرَبُوْنَ = رشتے والے۔ (اسم جمع) (واحد
اَقْرَبٌ ہے)

اَقْرَرْتُمْ = تم نے اقرار کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
حاضر)

اَقْرَرْنَا = ہم نے اقرار کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

اَقْرَضْتُمْ = تم نے ادھار دیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
حاضر)

اَقْرَضُوْا = ادھار دو۔ قرض دو۔ (امر۔ جمع مذکر
حاضر)

اَقْرَضُوْا = انہوں نے ادھار دیا۔ (ماضی۔ جمع)

مذکر غائب)

اَقْسَطُ = بہت انصاف کرنے والا۔ (اسم

تفضیل۔ واحد مذکر)

اَقْسِطْ = تو انصاف کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

اُقْسِمُ = میں قسم کھاتا ہوں یا کھاؤں گا۔
(مضارع۔ واحد متکلم)

لَا اُقْسِمُ = میں قسم کھاتا ہوں۔ لا تاکید
ہے۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

اَقْسَمْتُمْ = تم نے قسم کھائی۔ (ماضی۔ جمع
مذکر حاضر)

اَقْسَمُوْا = انہوں نے قسم کھائی۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)

اَقْصَى = آخر۔ بہت دور۔ (اسم تفضیل۔ واحد
مذکر)

اِقْصِدْ = میانہ روی اختیار کر۔ (امر۔ واحد
مذکر حاضر)

اِقْصُصْ = بیان کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

اِقْصِصْ = تو فیصلہ کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

اِقْصُوا = تم فیصلہ کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

اَقْطَارٌ = کنارے۔ (اسم جمع) (واحد قَطْرٌ ہے)
اَقْطَعْ = میں کٹڑے کٹڑے کروں گا۔
(مضارع۔ واحد متکلم)

اِقْطَعُوْا = تم کاٹو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

اَقْعُدْ = میں بیٹھتا ہوں یا بیٹھوں گا۔ (مضارع۔

واحد تکلم

أَقْعُدُوا = تم بیٹھو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَقْفَالٌ = تالے۔ (اسم جمع) (واحد قفل ہے)

أَقْلٌ = میں کہتا ہوں۔ میں کہوں گا۔ (مضارع۔

واحد تکلم)

أَقْلٌ = بہت کم۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر

أَقْلَامٌ = قلم۔ (اسم جمع) (واحد قلم ہے)

أَقَلَّتْ = اس نے اٹھانے میں ہلکا پایا۔ (ماضی۔

واحد مؤنث غائب)

أَقْلَعِي = تو تھم جا۔ (امر۔ واحد مؤنث حاضر)

أَقِيمْ = تو سیدھا کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَقَمْتْ = تو نے قائم کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

حاضر)

أَقَمْتُمْ = تم نے قائم کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

أَقِمْنِي = تم قائم کرو۔ (امر۔ جمع مؤنث حاضر)

أَقْنِي = اس نے پونجی دی۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

أَقْنِيْنِي = تو بندگی کر۔ تو مطیع ہو۔ (امر۔ واحد

مؤنث حاضر)

أَقْوَاتٌ = خوراکیں۔ (اسم جمع) (واحد قُوْتٌ

ہے)

أَقُولُ = میں کہتا ہوں یا کہوں گا۔ (مضارع۔

واحد تکلم)

أَقْوَمٌ = بہت سیدھا۔ بہت درست۔ (اسم

تفضیل۔ واحد مذکر)

أَقِيْمُوا = تم سیدھا کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

۱-ک

أَكٌ = میں ہوں۔ میں ہوں گا۔ (مضارع۔

واحد تکلم)

أَكَابِرٌ = بزرگ۔ بہت بڑے لوگ۔ (اسم جمع)

(واحد اکبر ہے)

أَكَادُ = میں قریب ہوں۔ (مضارع۔ واحد تکلم)

أَكَالُونَ = بڑے کھانے والے۔ (اسم تفضیل۔

جمع مذکر) (واحد آکال ہے)

أَكْبَرُ = بہت بڑا۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)

أَكْبَرُونَ = انہوں نے بڑا سمجھا۔ (ماضی۔ جمع

مؤنث غائب)

أَكْتَالُوا = انہوں نے ناپ لیا۔ (ماضی۔ جمع

مذکر غائب)

أَكْتَبْ = میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا۔

(مضارع۔ واحد تکلم)

أَكْتَبْ = تو لکھ۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَكْتُبُوا = تم لکھو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَكْتَبَبْ = اس نے لکھ لیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

أَكْتَسَبْ = اس نے کمایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

اَكْرَهَتْ = اس نے کھایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)	اِكْتَسَبَتْ = اس نے کمایا۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)
اَكْسُوْا = تم پہناؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)	اِكْتَسَبْنَ = انہوں نے کمایا۔ (ماضی۔ جمع مؤنث غائب)
اِكْشِفْ = تو کھول۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)	اِكْتَسَبُوْا = انہوں نے کمایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
(ما) اَكْفُوْ = کس قدر ناشکرا ہے۔ (فعل تعجب)	اِكْتَسَبُوْا = انہوں نے زیادہ۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)
اَكْفُوْ = میں ناشکری کرتا ہوں یا کروں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)	اِكْتَرَتْ = تو نے بہت زیادہ کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)
اَكْفُوْ = تو منکر ہو۔ تو ناشکری کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)	اِكْتَرُوْا = انہوں نے زیادہ کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
اَكْفُرُوْا = تم منکر ہو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)	اِكْتَدَى = وہ سخت نکلا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
اَكْفَلْ = تو حوالے کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)	اِكْتَرَاْ = تعظیم کرتا۔ (اسم مصدر)
اَكْلٌ = کھانا۔ (اسم مصدر)	اِكْتَرَاهُ = زبردستی۔ (اسم مصدر)
اَكْلٌ = پھل۔ (اسم مشتق)	اِكْتَرُمُ = بڑا بزرگ۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)
اَكَلَّ = اس نے کھایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)	اِكْتَرَمَنْ = اس نے مجھ کو عزت دی۔ (اصل میں اِكْتَرَمَنْجِي تھا۔ "می" گر گئی) (ماضی۔ واحد مذکر غائب) "ن" وقایہ کا ہے "می" گری ہوئی ہے)
اَكَلَّا = ان دونوں نے کھایا۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)	اِكْتَرَمِيْ = تو درست کر۔ (امر۔ واحد مؤنث حاضر)
اَكَلِمُ = میں بات کرتی ہوں۔ میں بات کروں گی۔ (مضارع۔ واحد متکلم)	اِكْتَرَهْ = وہ مجبور کیا گیا۔ اس پر زبردستی کی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)
اَكَلُوْا = انہوں نے کھایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)	
اَكْمَامٌ = غلاف۔ کلی اور میوے کا غلاف۔ (اسم جمع) (واحد كِمَامَةٌ ہے)	

اَكْمَلْتُ - میں نے مکمل کیا۔ (ماضی)
واحد متکلم

اَكْمَهُ - پیدائشی اندھا۔ (اسم صفت)

اَكُنُّ - میں ہوں یا ہوں گا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

اَكْنَانٌ - چھپنے کی جگہ۔ (اسم۔ ظرف مکان)

اَكِنَّةٌ - پردے۔ غلاف۔ (اسم جمع) (واحد)

کنان ہے)

اَكُنْتُمْ - تم نے چھپا رکھا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

اَكْوَابٌ - آنجورے۔ (اسم جمع) (واحد كُوْبٌ

ہے)

اَكُوْنُ - میں ہوں یا میں ہوں گا۔ (ماضی۔

واحد متکلم)

اَكِيْنِدُ - میں تدبیر کرتا ہوں۔ میں تدبیر کروں

گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

ا - ل

اَلٌ - شناخت۔ حرف تعریف۔ اکثر زائد ہوتا

ہے۔ کبھی کبھی استفراق کا فائدہ دیتا ہے۔ علم نحو

میں دیکھیں۔

اِلٌّ - دینداری۔ قربت۔ اللہ کا نام۔ (اسم)

اِلًّا - گمراہی۔ (حرف استثناء)

اَلَّا - کیوں نہیں۔ (حرف ایجاب)

اَلَا - تو خیردار ہو۔ تو سنتا ہے۔ (حرف تنبیہ)

اِلًى - طرف۔ (حرف جر)

اَلْاَنَ - اب۔ اس وقت۔ (اسم۔ ظرف زمان)

اِلٰهٌ - معبود برحق۔ خدا۔ (اسم واحد۔ جمع الهة

ہے۔)

اَللّٰهُ - معبود برحق۔ نام ذات خدائے تعالیٰ۔

بقول بعض ال الہ سے مرکب ہے۔ (اسم ذات)

اِلْهَيْنِ - دو معبود۔ (اسم تثنیہ مذکر)

اَلْبَاب - عقلیں۔ (اسم جمع) (واحد بُبٌ ہے)

اِلْتَفَتٌ - وہ کپڑے میں لپٹ گئی۔ (ماضی۔

واحد مونث غائب)

اِلْتَفَى - وہ اس سے ملا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

اِلْتَفَتَا - وہ دو مقابل ہوئے۔ (ماضی۔ تثنیہ

مذکر غائب)

اِلْتَقَطَ - اس نے اٹھالیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

اِلْتَقَمَ - وہ نکل گیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اِلْتَقَيْتُمْ - تم نے ملاقات کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

اِلْتَمِسُوْا - تم تلاش کرو۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

اَلْتَنَا - ہم نے کم کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

اَلْتَنَى - وہ (ایک عورت) جو۔ (اسم موصول۔

واحد مونث)

إِلْحَاد = حق سے گزرتا۔ (اسم مصدر)

إِلْحَاف = لپیٹنا۔ جھگڑنا۔ (اسم مصدر)

أَلْحَقِي = تو ملا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَلْحَقْتُمْ = تم نے ملایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

أَلْحَقْنَا = ہم نے ملا دیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَلِدُّ = بڑا جھگڑنے والا۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)

أَلِدُّ = میں جنم دیتا ہوں یا دوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَلْدَانِ = وہ دو جو۔ (اسم موصولہ بحالت رفعی۔ تشنیہ مذکر)

أَلْدِيئِي = وہ ایک شخص جو۔ (اسم موصولہ۔ واحد مذکر)

أَلْدِيئِينَ = جو۔ وہ لوگ۔ ان لوگوں کی۔ (اسم موصولہ۔ جمع مذکر)

أَلَزَّ = حروف مقطعات۔

أَلَزَمَ = اس نے لگا رکھا۔ لازم کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَلَزَمْنَا = ہم نے لازم کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَلْسِنَةً = زبانیں۔ (اسم جمع) (واحد لِسَانٌ ہے)

إِلْعَنَ = تو لعنت کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

إِلْعَوَا = تم لغو باتیں کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَلْفَى = اس نے محبت ڈالی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَلْفٌ = ہزار۔ (اسم عدد واحد) (جمع آلاف ہے)

أَلْفَافٌ = لپٹے ہوئے۔ گھنے باغ اور کھیتی۔ (اسم جمع) (واحد لف ہے)

أَلْفَتٌ = تو نے الفت ڈالی۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

أَلْفُوا = انہوں نے پایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

أَلْفِيَا = ان دو مردوں نے پایا۔ (ماضی۔ تشنیہ مذکر غائب)

أَلْفَيْنِ = دو ہزار۔ (اسم عدد تشنیہ۔ بحالت نصی و جری۔ جمع آلاف اور واحد الف ہے)

أَلْفِينَا = ہم نے پایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَلْقَى = تو ڈالا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

إِلْقَاءً = ڈالنا۔ (اسم مصدر)

أَلْقَى = اس نے ڈالا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَلْقَابٌ = صفاتی نام۔ (اسم جمع) (واحد لقب ہے)

أَلْقَتُ = اس نے پھینک دیا۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

أَلْقُوا = تم ڈالو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَلْقُوا = انہوں نے ڈالا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

أَلْقَى = میں ڈالوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَلْفَيْ = وہ ڈالا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

أَلْفَيْتَا = تم ڈالو۔ (ماضی۔ تثنیۃ مذکر غائب)

أَلْفَيْتُمْ = میں نے ڈالا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

أَلْفَيْنَا = ہم نے ڈالا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَلْفَوَاتِنِ = وہ سب عورتیں جو۔ (اسم موصول۔ جمع مونث)

أَلْفَاتِنِ = وہ سب (عورتیں) جو۔ (اسم موصول۔ جمع مونث)

أَلَلُّهُ = اسم ذات خدا۔ معبود برحق۔

أَلَلُّهُمَّ = اے اللہ۔ (اسم مرکب۔ ابتداء سے حرف ندا کو حذف کر کے اس کے عوض میں آخر میں "م" کو بڑھا دیا۔)

أَلَمَّ = حروف مقطعات۔

أَلَمَزَ = حروف مقطعات۔

أَلَمَصَ = حروف مقطعات۔

أَلْنَا = ہم نے نرم کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَلْوَا ح = تختیاں۔ (اسم جمع) (واحد لوح ہے)

أَلْوَان = رنگ۔ (اسم جمع) (واحد لون ہے)

أَلْوُف = ہزاروں۔ (اسم جمع) (واحد الف ہے)

أَلْهَى = اس نے غافل کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَلْهَام = دل میں ڈالنا۔ (اسم مصدر)

ا - م

أَمْ = یا۔ خواہ۔ (حرف تردید۔ حرف عطف بھی ہے۔)

أُمَّ = ماں۔ ٹھکانا۔ ہر چیز کی اصل۔ (اسم واحد) (جمع امہات ہے)

إِمَّا = یا۔ خواہ۔ (حرف تردید۔ حرف عطف)

أَمَّا = سو۔ لیکن۔ (حرف تفسیری)

أَمَاء = لونڈیاں (اسم جمع) (واحد أَمَةٌ ہے)

أَمَاتَ = اس نے مار ڈالا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَمَّارَةٌ = بڑا علم کرنے والا۔ (اسم مبالغہ)

أَمَامَ = آگے۔ سامنے۔ (اسم ظرف)

إِمَام = پیشوا۔ (اسم واحد) (جمع أَيْمَةٌ ہے)

أَمَانَةٌ = امانت۔ (اسم واحد) (جمع امانات ہے)

أَمَانَاتٍ = امانتیں۔ (اسم جمع) (واحد امانۃ ہے)

أَمَانِيَّ = آرزوئیں۔ (اسم جمع) (واحد امانیۃ ہے)

أَمْتٌ = ٹیلا۔ (اسم) (طرف مکان)

أَمْتٌ = تو نے مار ڈالا۔ (ماضی) (واحد مذکر حاضر)

أَمَةٌ = لونڈی۔ (اسم واحد) (جمع اماء ہے)

أُمَّةٌ = جماعت۔ (اسم واحد) (جمع امم ہے)

إِمْتَارُوا = تم الگ ہو جاؤ۔ (امر) (جمع مذکر حاضر)

إِمْتَحَنَ = اس نے امتحان لیا۔ (ماضی) (واحد مذکر غائب)

إِمْتَحِنُوا = تم امتحان لو۔ (امر) (جمع مذکر حاضر)
أَمْتَعٌ = میں فائدہ دوں گا۔ (مضارع) (واحد متکلم)

أَمْتَعَةٌ = اسباب۔ (اسم جمع) (واحد متاع ہے)
إِمْتَلَفْتُ = بھر چکی تو۔ (ماضی) (واحد مونث حاضر)

أَمْثَالٌ = مثالیں۔ (اسم جمع) (واحد مَثَلٌ ہے)
أَمْثَلٌ = مثال۔ بہتر۔ (اسم تفضیل) (واحد مذکر)

أَمَدٌ = مدت۔ فرق۔ (اسم طرف)

أَمَدٌ = اس نے مدد کی۔ (ماضی) (واحد مذکر غائب)

أَمَدَدْنَا = ہم نے مدد دی۔ (ماضی) (جمع متکلم)

أَمْرٌ = کام۔ (اسم واحد) (جمع امور ہے)

أَمْرٌ = حکم۔ (اسم واحد) (جمع اوامر ہے)

أَمَرَ = حکم دیا۔ فرما دیا۔ (ماضی) (واحد مذکر غائب)

أَمْرٌ = بہت کڑوا۔ (اسم تفضیل) (واحد مذکر)

إِمْرٌ = انوکھا۔ (اسم واحد)

إِمْرَةٌ = مرد۔ (اسم واحد) (جمع رجال ہے) (خلاف قیاس)

إِمْرَأَةٌ = عورت۔ (اسم واحد) (مونث) (جمع نساء ہے) (خلاف قیاس)

إِمْرَةٌ تَانٍ = دو عورتیں۔ (اسم تشبیہ مونث) (بحالت رفعی)

أَمَرْتُ = تو نے حکم کیا۔ (ماضی) (واحد مذکر حاضر)

أَمَرْتُ = میں نے حکم دیا۔ (ماضی) (واحد متکلم)
أُمِرْتُ = میں حکم کیا گیا۔ (ماضی مجہول) (واحد متکلم)

أُمِرْنَا = ہم حکم کئے گئے۔ (ماضی مجہول) (جمع متکلم)

أَمَرُوا = انہوں نے حکم کیا۔ (ماضی) (جمع مذکر غائب)

أُمِرُوا = وہ حکم کئے گئے۔ (ماضی مجہول) (جمع مذکر غائب)

أَمْسٍ = کل - گزشتہ - دیروز - نزدیک وقت -
(اسم زمان)

إِمْسَاكٌ = روکنا - (اسم مصدر)

إِمْسَحُوا = تم مسح کرو - (امر - جمع مذکر حاضر)
أَمْسَكَ = اس نے روکا - (ماضی - واحد مذکر

غائب)

أَمْسِكْ = تو روک - (امر - واحد مذکر حاضر)

أَمْسَكْتُمْ = تم نے روک رکھا - (ماضی - جمع
مذکر حاضر)

أَمْسَكْنَ = انہوں نے روکا - (ماضی - جمع
مؤنث غائب)

أَمْسِكُوا = تم روک رکھو - (امر - جمع مذکر
حاضر)

أَمْسَاجٌ = طے ہوئے - (جیسے مرو و عورت کی
منی)

إِمْشُوا = تم چلو - پھرو - (امر - جمع مذکر حاضر)

إِمْضُوا = تم چلے جاؤ - (امر - جمع مذکر حاضر)

أَمْطُرْ = تو بارش کر - (امر - واحد مذکر حاضر)

أَمْطَرْتُ = وہ برسائی گئی - (ماضی مجہول - واحد
مؤنث غائب)

أَمْطَرْنَا = ہم نے برسایا - (ماضی - جمع متکلم)

أَمْعَاءٌ = انتہیاں - (اسم جمع) (واحد معنی ہے)

أَمْكُتُوا = تم ٹھہرو - (امر - جمع مذکر حاضر)

أَمْكَنَ = اس نے قدرت دی - (ماضی - واحد

مذکر غائب)

أَمَلٌ = آرزو - (اسم واحد) (جمع أَمَالٌ ہے)

أَمَلًا = میں بھرتا ہوں - میں بھروں گا -

(مضارع - واحد متکلم)

أَمَلِي = اس نے دیر کی - (ماضی - واحد مذکر

غائب)

إِمْلَاقٌ = مفلسی - (اسم مصدر)

أَمْلِكُ = میں اختیار رکھتا ہوں - میں اختیار

رکھوں گا - (مضارع - واحد متکلم)

أَمْلَيْتُ = مہلت دیتا ہوں - میں مہلت دوں گا -

(مضارع - واحد متکلم)

أَمْلَيْتُ = میں نے ڈھیل دی - (ماضی -

واحد متکلم)

أُمَّمٌ = جماعتیں - امتیں - (اسم جمع) (واحد امہ

ہے)

أَمِنَ = بے خوفی - پناہ - (اسم مشتق)

أَمِنَ = اس نے اعتبار کیا - وہ بے خوف ہوا -

(ماضی - واحد مذکر غائب)

أَمِنْتُ = میں نے اعتبار کیا - میں نے امان

دی - (ماضی - واحد متکلم)

أَمْنَةٌ = چین - آرام - (اسم مشتق)

أَمِنْتُمُ = تم نے امن دیا - (ماضی - جمع مذکر

حاضر)

أَمِنُّنَّ = تو احسان کر - (امر - واحد مذکر حاضر)

أَمْيِي = میں آرزو میں ڈالتا ہوں۔ میں آرزو میں ڈالوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)
 أَمْيِيَّةٌ = آرزو۔ (اسم مشتق)
 أَمْوَاتٌ = مردے۔ (اسم جمع) (واحد مؤنث یا مذکر)
 أَمْوَالٌ = دولت۔ (اسم جمع) (واحد مال ہے)
 أَمْوُتٌ = میں مرتا ہوں۔ میں مروں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)
 أَمْوُورٌ = کام۔ (اسم جمع) (واحد امر ہے)
 أَمْهَاتٌ = مائیں۔ (اسم جمع) (واحد ام ہے)
 أَمْهَلٌ = تو سہلت دے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
 أَمْيِيٌّ = ان پڑھ۔ (اسم واحد) (جمع امییون ہے)
 أَمْيِيَّتٌ = میں مارتا ہوں۔ میں ماروں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)
 أَمْيِنٌ = امانت دار۔ معتبر۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
 أَمْيُونٌ = ان پڑھ۔ (اسم جمع۔ واحد امی ہے۔ بحالت رفعی)
 أَمْيِينٌ = ان پڑھ۔ (اسم جمع) (واحد امی ہے۔ بحالت نصی و جری)

إِنَّ = بے شک۔ مقرر۔ (حرف شبہ۔ فعل)
 أَنْ = بے شک۔ کہ۔ (حرف شبہ۔ فعل)
 أَنْ = کہ۔ یہ۔ اس۔ (حرف ناصب و مضارع)
 إِنْ = اگر۔ (حرف نفی۔ حرف شرط)
 أُنَى = کہاں سے۔ کس طرح۔ (اسم ظرف)
 أَنَا = میں۔ (ضمیر واحد متکلم)
 إِنَا = کھانے کا پکانا۔ (اسم مصدر)
 إِنَّا = بے شک ہم۔ اس کی اصل إِنَّ بے شک۔ نَا ہم۔ إِنَّ اور نَا ہے۔ إِنَّ حرف شبہ۔ فعل۔ نا ضمیر جمع متکلم۔
 أَنَابٌ = اس نے رجوع کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 أَنَابُوا = انہوں نے رجوع کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
 إِنَاتٌ = عورتیں۔ ذاتیں۔ (اسم جمع) (واحد انثی ہے)
 أَنَاسٌ = آدمی۔ (اسم جمع) (واحد انس ہے)
 أَنَاسِيٌّ = آدمی۔ (اسم جمع) (واحد ناس ہے)
 أَنَامٌ = خلق۔ آدمی۔ (اسم جمع)
 أَنَامِلٌ = انگلیاں۔ (اسم جمع۔ واحد أَنَمِلَةٌ ہے۔)
 أَنَبَاءٌ = خبریں۔ (اسم جمع) (واحد نبأ ہے)
 أَنَبَأٌ = اس نے خبر دی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَنْبِي = تو خبر دے۔ (امر- واحد مذکر حاضر)

أَنْبِؤْا = تم خبر دو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)

أَنْبِئِي = میں خبر دیتا ہوں۔ میں خبر دوں گا (مضارع- واحد متکلم)

أَنْبَيْتَ = اس نے اگایا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

أَنْبَيْتُ = اس نے اگایا۔ (ماضی- واحد مؤنث غائب)

أَنْبَيْتُنَا = ہم نے اگایا۔ (ماضی- جمع متکلم)

أَنْبَجَسْتُ = وہ پھوٹ نکلی۔ (ماضی- واحد مؤنث غائب)

أَنْبِذْ = تو پھینک۔ جواب دے۔ (امر- واحد مذکر حاضر)

أَنْبِعَاثَ = اٹھنا۔ کام کا قصد کرنا۔ (اسم مصدر)

أَنْبَعَثَ = وہ اٹھا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

أَنْبَيْتَا = ہم نے رجوع کیا۔ (ماضی- جمع متکلم)

أَنْبِيَاءَ = پیغمبر۔ (اسم جمع) (واحد نبی ہے)

أَنْتَ = تو ایک مرد۔ (ضمیر- واحد مذکر حاضر)

أَنْتِ = تو ایک عورت۔ (ضمیر- واحد مؤنث غائب)

أَنْتَبَذْتُ = وہ کنارے ہوئی۔ (ماضی- واحد مؤنث غائب)

أَنْتَشَرْتُ = وہ جھڑ گئی۔ (ماضی- واحد مؤنث غائب)

أَنْتَشِرُوا = تم پھیل جاؤ۔ (امر- جمع مذکر حاضر)

أَنْتَصِرْ = تو بدلا لے۔ (امر- واحد مذکر حاضر)

أَنْتَصَرَ = اس نے بدلا لیا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

أَنْتَصَرُوا = انہوں نے بدلا لیا۔ (ماضی- جمع مذکر غائب)

أَنْتَظِرْ = تو منتظر رہ۔ (امر- واحد مذکر حاضر)

أَنْتَظِرُوا = تم دیکھتے رہو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)

أَنْتِقَامَ = بدلہ۔ بدلہ لینا۔ (اسم مصدر)

أَنْتَقَمْنَا = ہم نے بدلہ لیا۔ (ماضی- جمع متکلم)

أَنْتُمْ = تم (سب مرد) (ضمیر- جمع مذکر حاضر)

أَنْتُمَا = تم (دو مرد یا دو عورت) (ضمیر- تثنیہ مذکر و مؤنث- حاضر)

أَنْتَهَى = وہ باز آیا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

أَنْتَهَوْا = وہ باز آئے۔ (ماضی- جمع مذکر غائب)

أَنْتَهَوْا = تم باز آؤ۔ (امر- جمع مذکر حاضر)

أَنْثَى = عورت۔ (مادہ) (اسم واحد مؤنث) (جمع اناث ہے)

أَنْثَيْنِ = دو عورتیں۔ (اسم تثنیہ مؤنث- بحالت نصی و جری)

أَنْجَى = اس نے نجات دی۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

أَنْجَيْتَ = تو نے بچایا۔ (ماضی- واحد مذکر حاضر)

إِنْجِيل - کتاب آسمانی جو حضرت عیسیٰ ﷺ پر نازل ہوئی۔ (اسم علم)

أَنْجَبْنَا = ہم نے بچایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

إِنْحَرُ = تو قربانی کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَنْدَادٌ = ساتھی۔ شریک۔ (اسم جمع) (واحد ند ہے)

أَنْدَرُ = اس نے ڈرایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَنْدِرُ = میں ڈراتا ہوں۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

أَنْدِرُ = تو ڈرا دے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَنْدَرْتُ = میں نے ڈرایا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

أَنْدَرْنَا = ہم نے ڈرایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَنْدِرُوا = تم ڈراؤ۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

أَنْزَلَ = اس نے اتارا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أُنزِلَ = وہ اتارا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

أَنْزِلُ = میں اتاروں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَنْزِلْ = تو اتار۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَنْزَلْتُ = تو نے اتارا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

أَنْزَلْتُ = میں نے اتارا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

أَنْزِلْتُ = وہ اتاری گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مومنث غائب)

أَنْزَلْتُمُوَا = تم نے اتارا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

أَنْزَلْنَا = ہم نے اتارا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

إِنْسٌ = آدمی۔ (اسم واحد) (جمع اناس ہے)

أَنْسَى = اس نے بھلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَنْسَابٌ = ذاتیں۔ رشتہ داری کا تعلق۔ (اسم جمع۔ واحد نسب ہے)

إِنْسَانٌ = آدمی۔ (اسم واحد) (جمع اناسی ہے)

إِنْسَلَخَ = وہ گزر گیا۔ باہر نکلا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَنْسَوْا = انہوں نے بھلایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

إِنْسِيٌّ = آدمی۔ (اسم واحد)

أَنْشَأَ = اس نے پیدا کیا۔ (واحد مذکر غائب)

إِنْشَاءٌ = بنانا۔ پیدا کرنا۔ (اسم مصدر)

أَنْشَأْتُمْ = تم نے پیدا کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

أَنْشَأْنَا = ہم نے بنایا۔ پیدا کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَنْشَرَ = اس نے اٹھایا۔ زندہ کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَنْشَرْنَا = ہم نے ابھارا۔ ہم نے زندہ کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

اَنْشُرُوا = تم اٹھ کھڑے ہو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)

اَنْظُرْ = تو مہلت دے۔ (امر- واحد مذکر حاضر)

اَنْظُرُوا = تم دیکھو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)

اَنْظُرِيْ = تو دیکھ۔ (ماضی- واحد مؤنث حاضر)

اَنْعَامٌ = چوپائے۔ اونٹ۔ (اسم جمع) (واحد نعم ہے)

اَنْصَابٌ = بت یا جو چیزیں خدا کے سوا پوجی جائیں۔ بتوں کے تھان۔ (اسم جمع)

اَنْعَمَ = احسان۔ (اسم جمع) (واحد نعمۃ ہے)

اَنْعَمَ = اس نے احسان کیا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

اَنْصَارٌ = مددگار۔ (اسم جمع) (واحد ناصر ہے)

اَنْعَمْتُ = تو نے احسان کیا۔ (ماضی- واحد مذکر حاضر)

اَنْصَبَ = تو محنت کر۔ (امر- واحد مذکر حاضر)

مذکر حاضر

اَنْصَبُوا = تم چپ رہو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)

اَنْعَمْتُ = میں نے احسان کیا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

اَنْصَحُ = میں نصیحت کرتا ہوں۔ (مضارع- واحد مکلم)

واحد مکلم

اَنْعَمْنَا = ہم نے مہربانی کی۔ (ماضی- جمع مکلم)

اَنْصُرْ = تو مدد کر۔ (امر- واحد مذکر حاضر)

اَنْفٌ = ناک۔ (اسم واحد) (جمع اناف ہے)

اِنْصَرَفَ = وہ پھرا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

اِنْفَاقٌ = خرچ کرنا۔ (اسم مصدر)

اَنْصُرُوا = تم مدد کرو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)

اَنْفَالٌ = مال غنیمت۔ (اسم جمع) (واحد نَفْلٌ ہے)

اَنْطَقَ = اس نے گویا کیا۔ بلا یا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

مذکر غائب

اِنْفَجَرَتْ = پھوٹ نکلی۔ (ماضی- واحد مؤنث غائب)

اِنْطَلَقَ = وہ چلا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

غائب

اِنْطَلَقَا = وہ دونوں چلے۔ (ماضی- تثنیہ مذکر غائب)

اَنْفُخُ = میں پھونکتا ہوں۔ میں پھونکوں گا۔ (مضارع- واحد مکلم)

اِنْطَلَقْتُمْ = تم چلے۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)

اَنْفُخُوا = تم پھونکو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)

اِنْطَلَقُوا = تم چلو۔ (امر- جمع مذکر حاضر) (غائب)

اَنْفَلُوا = تم نکلو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)

اِنْطَلَقُوا = وہ سب چلے۔ (ماضی- جمع مذکر غائب)

اِنْفَرُوا = تم کوچ کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
 اَنْفُس = جان۔ واحد۔ (اسم جمع) (واحد نفس ہے)
 اِنْفِصَام = ٹوٹنا۔ (اسم مصدر)
 اِنْفِضُوا = وہ پراگندہ ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
 اِنْفَطَرْتُ = وہ چر گئی۔ پھٹ گئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)
 اَنْفَقَ = اس نے خرچ کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 اَنْفَقْتِ = تو نے خرچ کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)
 اَنْفَقْتُمْ = تم نے خرچ کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
 اَنْفَقُوا = انہوں نے خرچ کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
 اَنْفَقُوا = تم خرچ کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
 اِنْفَلَقَ = وہ پھٹ گیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 اَنْقَذَ = اس نے نجات دی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 اَنْقَضَ = تو کم کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
 اَنْقَضَ = اس نے توڑا۔ جھکا دیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

اِنْقَلَبَ = وہ پلٹا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 اِنْقَلَبْتُمْ = تم پلٹے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
 اِنْقَلَبُوا = وہ پلٹے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
 اَنْكَاث = نکلنے۔ (اسم جمع) (واحد نکٹ ہے)
 اَنْكَال = بھاری بیڑیاں۔ (اسم جمع) (واحد نکل ہے)
 اَنْكِحْ = میں نکاح کر دوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)
 اِنْكِحُوا = تم شادی کر لو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
 اِنْكِحُوا = تم شادی کر دو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
 اِنْكَدَرْتُ = پھیلی۔ تاریک ہوئی۔ جھڑ گئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)
 اَنْكَرُ = بہت برا۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر غائب)
 اِنْ كُلُّ نَفْسٍ = کوئی شخص نہیں ہے۔ "ان" حرف نفی
 اِنَّمَا = اس کے سوا نہیں ہے۔ یہ جو ہے۔ (کلمہ حصر۔ "ان" حرف شبہ بالفعل اور ما کافہ۔)
 اِنَّمَا اَنْتَ = سوا اس کے نہیں ہے تو۔ مگر تو نہیں ہے۔ (کلمہ حصر)
 اِنَّهَ = تو منع کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
 اَنْهَى = میں منع کرتا ہوں یا کروں گا۔

(مضارع- واحد متکلم)

أَنْهَارٌ = نهریں۔ (واحد نہر ہے)


إِنْهَارٌ = پانی اور خون بہانا۔ (اسم مصدر)

أَنْتَى = کہاں کہاں سے۔ (حرف استفہام)

أَنْيَبٌ = میں رجوع کرتا ہوں۔ میں رجوع

کروں گا۔ (مضارع- واحد متکلم)

أَنْيَبُوا = تم رجوع کرو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)



أَوْ = یا۔ خواہ۔ (حرف تردید- حرف عطف)

أَوَابٌ = توبہ کرنے والا۔ رجوع کرنے والا۔

(اسم فاعل- واحد مذکر)

أَوَابِينَ = رجوع کرنے والے۔ (اسم فاعل- جمع

مذکر)

أَوَارِجٌ = میں چھپاتا ہوں۔ میں چھپاؤں گا۔

(مضارع- واحد متکلم)

أَوَاةٌ = نرم دل۔ آہ کرنے والا۔ (اسم فاعل-

واحد مذکر)

أَوْبَارٌ = بیڑیاں۔ اونٹ کے بال۔ (اسم جمع)

(واحد وکبر ہے)

أَوْبِي = رجوع کر۔ (امر- واحد مؤنث حاضر)

أَوْتَى = میں دیا جاتا ہوں۔ میں دیا جاؤں گا۔

(مضارع مجہول- جمع متکلم)

أَوْتَادٌ = مینیں۔ (اسم جمع) (واحد وتد ہے)

أَوْتُوا = وہ دیئے گئے۔ (ماضی مجہول- جمع مذکر

غائب)

أَوْتَى = وہ دیا گیا۔ (ماضی مجہول- واحد مذکر

غائب)

أَوْتَيْتُ = وہ دی گئی۔ (ماضی مجہول- واحد

مؤنث غائب)

أَوْتَيْتُ = میں دیا گیا۔ (ماضی مجہول- واحد متکلم)

أَوْتَيْتُمْ = تم دیئے گئے۔ (ماضی مجہول- جمع مذکر

حاضر)

أَوْتَيْنَا = ہم دیئے گئے۔ (ماضی مجہول- جمع

متکلم)

أَوْتَانٌ = بت۔ (اسم جمع) (واحد وثن ہے)

أَوَجَسَ = وہ دل میں گھبرایا۔ (ماضی- واحد

مذکر غائب)

أَوَجَفْتُمْ = تم نے دوڑایا۔ (ماضی- جمع مذکر

غائب)

أَوْحَى = وحی کی گئی۔ (ماضی مجہول- واحد مذکر

غائب)

أَوْحَيْتُ = میں نے وحی بھیجی۔ (ماضی-

واحد متکلم)

أَوْحَيْتَا = ہم نے وحی بھیجی۔ (ماضی- جمع

حاضر)

أَوْحَى = اس نے حکم بھیجا۔ (ماضی- واحد مذکر

متکلم)

اَوْضَعُوا = انہوں نے گھوڑے دوڑائے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)	اَوْذِيَّة = ندی۔ ٹالے۔ (اسم مصدر)
اَوْعَى = جوڑا۔ بند رکھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)	اَوْذُوا = وہ ستائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)
اَوْعِيَّة = خرجیاں۔ برتن۔ (اسم جمع) (واحد وعاء ہے)	اَوْذَى = وہ ستایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)
اَوْفٍ = تو پورا دے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)	اَوْذَيْنَا = ہم ستائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع متکلم)
اَوْفٍ = میں پورا کروں گا۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)	اَوْرَثَ = اس نے وارث کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
اَوْفَى = خوب پورا۔ اس نے پورا کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب۔ اسم تفضیل)	اَوْرَثُمَا = تم وارث کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر حاضر)
اَوْفُوا = تم پورا کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)	اَوْرَثْنَا = ہم نے وارث کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
اَوْقَدَ = اس نے روشن کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)	اَوْرَثُوا = وہ وارث کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)
اَوْقَدَ = تو روشن کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)	اَوْرَدَ = اس نے داخل کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
اَوْقَدُوا = انہوں نے سلگایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)	اَوْزَارَ = گناہ۔ بوجھ۔ (اسم جمع) (واحد وِزْرٌ ہے)
اَوَّلَ = پہلا۔ (اسم واحد) (جمع اولون ہے)	اَوْزَعُ = توفیق دے۔ الہام دے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
اَوَّلَى = پہلی۔ (اسم تفضیل۔ واحد مونث)	اَوْسَطَ = بیچ والا۔ درمیان والا۔ منجھلا۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)
اَوَّلَى = بہتر۔ مصیبت۔ خرابی۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر)	اَوْضَى = تاکید کی۔ وصیت کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
اَوْلَاءِ = وہ لوگ۔ (اسم اشارہ)	
اَوْلِيكَ = وہ لوگ۔ (جمع مذکر و مونث۔ اسم اشارہ)	

أُولَاتٍ = صاحبات۔ والیاں۔ ذات واحد۔ (اسم جمع)

آخر سے گر گئی (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَهَبُ = میں دوں گا۔ (مضارع۔ واحد متکلم)

أَهْبِطُ = تو اتر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أُولَاتُ الْأَحْمَالِ = حمل والیاں۔ (مربک اضافی)

أَهْبِطُوا = تم دونوں اترو۔ (امر۔ تثنیہ مذکر حاضر)

أَوْلَادٍ = لڑکے۔ (اسم جمع) (واحد ولد ہے)

أَهْبِطُوا = تم اترو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَوْلَى لَكَ = تیری خرابی۔ (اولی اسم مشتق۔ لک جار و مجرور)

أَهْتَدَى = اس نے راہ پائی (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَوْلُوا = صاحب۔ والے۔ (اسم جمع) (واحد ذو ہے)

أَهْتَدُوا = انہوں نے راہ پائی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

أَوْلَى التَّعَمَّةِ = عیش و آرام والے۔ (مربک اضافی)

أَهْتَدَيْتُ = میں نے راہ پائی۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

أَوْلُونَ = پہلے۔ (اسم جمع) (واحد اول ہے)

أَهْتَدَيْتُمْ = تم نے راہ پائی۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

أَوْلِيَاءٍ = دوست۔ ولی۔ (اسم جمع) (واحد ولی ہے)

أَهْتَرَّتْ = ابھری۔ اس نے حرکت کی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

أَوْلِيَانٍ = دو زیادہ قریب۔ (اسم تثنیہ)

أَهْجُرُوا = تم چھوڑو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَوْلِيَيْنٍ = پہلے۔ اگلے۔ (اسم جمع) (واحد اول ہے)

أَهْجُرُوا = تم چھوڑو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

أَوْهَنَ = بہت کمزور۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر حاضر)

أَهْدَى = تو چلا۔ تو ہدایت دے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

أَهَانَ = اس نے ذلیل کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

أَهْدَى = بہت راہ پانے والا۔ (اسم تفضیل۔ واحد مذکر حاضر)

أَهَانِي = اس نے مجھے ذلیل و خوار کیا۔ (ی)

۱ - ه

أَهْمَمْتُ = اس نے غم میں ڈال دیا۔ (ماضی)
واحد مونث غائب

أَهْوَأُ = خواہشیں۔ (اسم جمع) (واحد ہوی ہے)

أَهْوَى = اس نے پٹا۔ اس نے گرایا۔ (ماضی)
واحد مذکر غائب

أَهْوَنُ = بہت آسان۔ (اسم تفضیل) واحد مذکر

۱-۱-۱

إِئْتَى = یعنی نَعَم۔ (حرف ایجاب)

أَيُّ = کون۔ کس جگہ۔ (کلمہ استفہام)

إِيَابُ = پھرتا۔ (اسم مصدر)

إِيَاكَ = تجھی کو۔ (ضمیر منصوب منفصل)

إِيَاكُمَا = تم دونوں کو۔ (ضمیر منصوب منفصل)

إِيَاكُمْ = تم سب کو۔ خاص تمہیں۔ (ضمیر منصوب منفصل)

أَيَّامُ = دن۔ (اسم جمع) (واحد یوم ہے)

أَيَّامِي = بیوہ عورتیں۔ (اسم جمع) (واحد ایام ہے)

أَيَّانَ = کب۔ (کلمہ استفہام)

إِيَانَا = ہم کو۔ ہمیں۔ (ضمیر منصوب منفصل)

إِيَاهُ = اس کو۔ اسے ہی۔ (ضمیر منصوب منفصل)

إِيَاهُمَا = ان دونوں ہی کو۔ (ضمیر منصوب)

أَهْدُوا = تم راہ بتاؤ۔ (امر جمع مذکر حاضر)

أَهْدِي = میں راہ بتاؤں گا۔ (مضارع)
واحد متکلم

أَهْشُ = میں پتے جھاڑتا ہوں۔ (مضارع)
واحد متکلم

أَهْلًا = وہ پکارا گیا۔ (ماضی مجہول) واحد مذکر غائب

أَهْلٌ = اولاد۔ دوست۔ لائق۔ والا۔ (اسم واحد)
(جمع اهلون ہے)

أَهْلَةٌ = نئے چاند۔ (اسم جمع) (واحد ہلال ہے)

أَهْلَكَ = اس نے غارت کیا۔ (ماضی) واحد مذکر غائب

أَهْلَكَتُ = اس نے نابود کیا۔ (ماضی) واحد مونث غائب

أَهْلَكَتَ = تو نے ہلاک کیا۔ (ماضی) واحد مذکر حاضر

أَهْلَكَتُ = میں نے ہلاک کیا۔ (ماضی) واحد متکلم

أَهْلَكْنَا = ہم نے ہلاک کیا۔ (ماضی) جمع متکلم

أَهْلِكُوا = وہ ہلاک کئے گئے۔ (ماضی مجہول) جمع مذکر غائب

أَهْلُونُ = گھر والے۔ (اسم جمع) (واحد اهل ہے)

منفصل۔ تشبیہ غائب)

إِيَّاهُمْ = ان سب ہی کو۔ (ضمیر منصوب

منفصل۔ جمع مذکر غائب)

إِيَّايَ = مجھ ہی کو۔ مجھ ہی سے۔ (ضمیر منصوب

منفصل۔ واحد متکلم)

آيَةٌ = کون۔ کس جگہ۔ (کلمہ استفہام)

إِيْتَاءٌ = دینا۔ عطا کرنا۔ (اسم مصدر)

أَيْدٍ = طاقت۔ زور آور ہونا۔ (اسم مصدر)

أَيْدٍ = اس نے زور دیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

أَيْدَتْ = میں نے زور دیا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

أَيْدِنَا = ہم نے زور دیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

أَيْدِي = ہاتھ۔ (اسم جمع) (واحد ید ہے)

أَيْقَاطٌ = جاگنے والے۔ (اسم جمع) (واحد يقظ ہے)

أَيْكَةٌ = جگل کا نام ہے۔ (اسم علم)

إِيْلَافٌ = الفت دینا۔ (اسم مصدر)

أَيْمَانٌ = داہنے ہاتھ۔ قسمیں۔ (اسم جمع) (واحد

يَمِينٌ ہے)

إِيْمَانٌ = ایمان لانا۔ مسلمان ہونا۔ (اسم مصدر)

أَيْمَنٌ = داہنی طرف۔ (اسم واحد) (جمع ایامن

ہے)

أَيْنَ = کہاں۔ (کلمہ استفہام)

أَيْنَمَا = جہاں کہیں۔ (کلمہ شرط)

أَيُّوبٌ = نام پیغمبر۔ خاندان بنی اسرائیل سے

جو بڑے صابر تھے۔ (اسم علم)

أَيْهًا = اے مرد۔ (اسم مرکب۔ اگر منادی

معرف بلا م ہو تو أَيْهًا سے فصل کیا جاتا ہے اور

کبھی کبھار حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔)



(ب)

واحد مذکر غائب)

بَائِسٌ = بھوکا۔ برے حال والا۔ (اسم فاعل۔

واحد مذکر

بَيْسٌ = برا۔ خراب۔ (واحد مذکر غائب)

بَائِعٌ = بیچنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر حاضر)

ب - ا

ب = بہ سبب۔ ساتھ۔ میں۔ سے۔ پر۔ (حرف

جر)

بَاءٌ = وہ مستحق ٹھہرا۔ اس نے کمایا۔ (ماضی۔

بَاءٌ وَا = وہ لوٹے۔ انہوں نے کمایا۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)

بَيْئَسٌ = سخت۔ برا۔ (اسم صفت)

بَابٌ = دروازہ۔ (اسم واحد) (جمع ابواب ہے)
بَابِلٌ = نام شہر جو کوفے کے نزدیک ہے۔

(اسم علم)

بَاخِعٌ = گھونٹنے والا۔ خود کشی کرنے والا۔
(اسم فاعل۔ واحد مذکر حاضر)

بَادُونَ = جنگل کے رہنے والے۔ رہائے
لوگ۔ (اسم جمع) (واحد بَادِيٌّ ہے)

بَادِيٌّ = ظاہر۔ باہر کا رہنے والا۔ (اسم فاعل۔
واحد مذکر)

بَارِدٌ = ٹھنڈا۔ (اسم صفت)

بَارِزَةٌ = کھلی۔ ظاہر ہونے والی۔ (اسم فاعل۔
واحد مؤنث)

بَارِزُونَ = نکل کھڑے ہونے والے۔ ظاہر۔
(اسم جمع) (واحد بارز ہے)

بَارِكٌ = اس نے برکت دی۔ (ماضی۔ واحد مذکر
غائب)

بَارِكُنَا = ہم نے برکت دی۔ (ماضی۔ جمع
متکلم)

بَارِئٌ = اللہ تعالیٰ کا نام۔ پیدا کرنے والا۔ (اسم
فاعل)

بَارِئٌ = چمکنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

بَارِغَةٌ = چمکنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مؤنث)

بَأْسٌ = لڑائی۔ عذاب۔ (اسم صفت)

بِأَسَاءَ = تکدستی۔ سختی۔ (اسم صفت)

بَاسِرَةٌ = اداس۔ روئی شکل۔ (اسم فاعل۔ واحد
مؤنث)

بَاسِطٌ = پھیلانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر)

بَاسِطُونَ = کھولنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع
مذکر) (واحد باسط ہے)

بَاسِقَاتٌ = اونچے۔ بلند قدم۔ (اسم فاعل۔ جمع
مؤنث سالم)

بَاشِرُونَ = تم مباشرت کرو۔ (امر۔ جمع مذکر
حاضر)

بَاطِلٌ = ناحق۔ جھوٹی بات۔ ناجیز۔ (اسم فاعل۔
واحد مذکر)

بَاطِنٌ = چھپا ہوا۔ پوشیدہ۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر)

بَاطِنَةٌ = چھپی ہوئی۔ (اسم فاعل۔ واحد مؤنث)

بَاعِدٌ = تو دوری ڈال دے۔ (امر۔ واحد مذکر
حاضر)

بَاغِيٌّ = سرکشی کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر)

بَاقٌ = ہمیشہ رہنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

بَاقُونَ = بچے ہوئے۔ باقی۔ (اسم فاعل۔ جمع)

مذکر

بَاقِيَاتٍ = پیچھے رہنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع۔ مونث سالم)

بَاقِيَةٌ = پیچھے رہنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد۔ مونث)

بَالٌ = حال۔ مزاج۔ (اسم واحد)

بَالِغٌ = پینچنے والا۔ جوان۔ (اسم فاعل۔ واحد۔ مذکر)

بَالِغَةٌ = پینچنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد۔ مونث)

بَالِغُونَ = پورے پینچنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع۔ مذکر)

بَايَعْتُمْ = تم نے خرید و فروخت کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

ب-ث

بَثٌّ = حال۔ راز ظاہر کرنا۔ بے قراری۔ (اسم مصدر)

بَثٌّ = اس نے بکھیرا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

ب-ح

بِحَارٍ = دریا۔ (اسم جمع) (واحد بحر ہے)

بَحْرٌ = دریا۔ (اسم واحد) (جمع بحار ہے)

بَحْرَيْنِ = دو دریا۔ (اسم تثنیہ۔ واحد بحر)

اور جمع بحار ہے) (اسم علم)

بَحِيرَةٌ = بت کی نیاز کا جانور۔ (اسم)

ب-خ

بَخِشٌ = کھوٹا۔ نقصان۔ (اسم مشتق)

بُخِلٌ = بخیلی کرتا۔ (اسم مصدر)

بَخِلَ = اس نے بخیلی کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

بَخِلُوا = انہوں نے بخیلی کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

ب-د

بَدَأَ = ظاہر ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

بَدَأُ = اس نے شروع کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

بَدَأًا = جلدی کر کے۔ (اسم مصدر)

بَدَأُوا = انہوں نے شروع کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

بَدَأْنَا = ہم نے شروع کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

بَدَأْتُ = ظاہر ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

بَدْرٌ = نام مقام۔ جو مدینے سے تین منزل

ہے۔ جہاں ہجرت کے ڈیڑھ برس بعد رسول اللہ

ﷺ اور لشکر کفار کے درمیان بڑی لڑائی ہوئی

اور آپ ﷺ نے فتح پائی۔ (اسم علم)

بَدْعٌ = نیا۔ (اسم مشتق)

بِدْعَةٌ = نئی رسم دین میں نکالنا۔ (اسم مصدر)

بَدَلٌ = عوض۔ بدلا۔ (اسم مشتق)

بَدَّلٌ = اس نے بدل دیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

بَدِّلٌ = تو بدل دے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

بَدَّلْنَا = ہم نے بدل دیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

بَدَّلُوا = انہوں نے بدل دیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

بَدَنٌ = تن۔ جسم۔ (اسم واحد) (جمع ابدان

ہے)

بُدْنٌ = قربانی کا اونٹ۔ (اسم جمع) (جمع بدنة

ہے)

بَدُوٌّ = گاؤں والے۔ (اسم واحد) (جمع بدوی

ہے)

بَدِيعٌ = نیا بنانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر

ب - ر

بُرٌّ = نیکی۔ (اسم مشتق)

بُرٌّ = خشکی۔ جنگل۔ (اسم واحد) (جمع ابرار ہے)

بَرَّأٌ = اس نے پاک کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

بُرَّاءٌ = بیزار ہونے والے۔ (اسم جمع) (واحد

بروی ہے)

بُرٌّ = احسان کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر

بُرَّاءَةٌ = خلاصی پانا۔ نجات پانا۔ (اسم مصدر)

بُرِّدٌ = ٹھنڈک۔ سردی۔ (اسم مشتق)

بُرِّدٌ = اولے۔ بنولے۔ (اسم واحد) (جمع بردہ

ہے)

بُرِّدَةٌ = نیک لوگ۔ (اسم جمع) (واحد برہ ہے)

بُرِّزَ = وہ نکلا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

بُرِّزَتْ = وہ نکالی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد

مونث غائب)

بُرِّزَ = پروہ۔ دنیا و آخرت کے درمیان۔

(اسم واحد) (جمع بُرِّزَ ہے)

بُرِّزُوا = وہ نکلے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

بُرِّقٌ = بجلی۔ (اسم مشتق)

بُرِّقَ = وہ حیران ہوا۔ آنکھ چندھیائی۔ آنکھ

چمکی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

بُرِّكَاتٌ = برکتیں۔ (اسم جمع) (واحد برکة

ہے)

بُرِّوَجٌ = تاروں کے گھر۔ (اسم جمع) (واحد

برج ہے)

ذَاتِ الْبُرِّوَجِ = برجوں والا آسمان۔ کہ اس

میں بارہ برج ہیں۔ (مركب اضافی)

بُرِّوَزٌ = ظاہر ہونا۔ باہر آنا۔ (اسم مصدر)

بُرِّهَانٌ = گواہ۔ سند۔ دلیل۔ (اسم واحد) (جمع

ب-ش

بَشْرٌ = آدمی۔ چڑا۔ (واحد جمع۔ اور مذکر و مونث سب کے لئے آتا ہے۔)

بُشْرٌ = خوشخبری۔

بُشْرًا = وہ خوشخبری سنایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

بَشْرًا = تو خوشخبری سنا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

بُشْرًا = خوشخبری۔ (اسم تفضیل۔ واحد مونث)

بَشَّرْتُمُوْا = تم نے خوشخبری سنائی۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

بَشَّرْنَا = ہم نے خوشخبری سنائی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

بَشَّرُوا = انہوں نے خوشخبری سنائی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

بَشْرُونٍ = دو آدمی۔ مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ (اسم تثنیہ) (واحد بَشْرٌ اور جمع بشرون ہے)

بَشِيرًا = خوشخبری سنانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

ب-ص

بَصَائِرٌ = روشن دلیلیں۔ (اسم جمع) (واحد حاضر)

براہین ہے)

بُرْهَانَانِ = دو دلیلیں۔ (اسم تثنیہ) (واحد)

بُرْهَانٌ اور جمع براہین ہے)

بِرِيءٌ = بیزار ہونے والا۔ (اسم واحد) (جمع براء ہے)

بِرِيئُونَ = بیزار ہونے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

بِرِيَّةٌ = خلق۔ مخلوقات۔ (اسم واحد) (جمع برایا ہے)

ب-س

بَسٌّ = توڑنا۔ (اسم مصدر)

بِسَاطٌ = بچھونا۔ (اسم واحد) (جمع بسط ہے)

بُسَّتٌ = وہ ککڑے ککڑے کی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مونث غائب)

بَسَّرَ = اس نے کڑوا کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

بَسَّطَ = کشادگی۔ (اسم مشتق)

بَسَّطٌ = اس نے کشادہ کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

بَسَّطَةٌ = کشائش۔ (اسم مصدر)

بَسَّطَتْ = تو نے پھیلا یا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

بَطْرَتْ = وہ اترائی۔ (ماضی۔ واحد مونث

غائب)

بَطَّشٌ = حملہ کرنا۔ سخت پکڑنا۔ (مصدر)

بَطَّشَةٌ = پکڑ۔ گرفت۔ (اسم مصدر)

بَطَّشْتُمْ = تم نے پکڑا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

بَطَّلَ = وہ باطل ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

بَطَّنَ = وہ پوشیدہ ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

بَطَّنَ = پیٹ۔ چیز کا درمیانی حصہ۔ (اسم واحد)

(جمع بطون ہے)

بُطُونٌ = پیٹ۔ (اسم جمع) (واحد بطن ہے)

ب-ع

بَعَثَ = زندہ کرنا۔ بھیجنا۔ جی اٹھانا۔

بَعَثَ = اس نے بھیجا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

بَعَثَرٌ = اس نے اٹھایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

بُعِثَرٌ = وہ اٹھایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر

غائب)

بُعِثِرْتُ = وہ اٹھائی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد

مونث غائب)

بَصِيرَةٌ ہے)

بَصْرٌ = آنکھ۔ (اسم واحد) (جمع ابصار ہے)

بَصَرْتُ = اس نے دیکھا۔ (ماضی۔ واحد

مونث غائب)

بَصَرْتُ = میں نے دیکھا۔ (ماضی۔ واحد تکلم)

بَصَلٌ = پیاز۔ (اسم جمع) (واحد بصلہ ہے)

بَصِيرٌ = دیکھنے والا۔ نام اللہ تعالیٰ۔ (اسم فاعل۔

واحد مذکر)

بَصِيرَةٌ = دیکھنے والی۔ پوری دلیل۔ (اسم

صفت۔ واحد مونث)

ب-ض

بِضَاعَةٌ = پونجی۔ سرمایہ۔ تجارت کا سامان۔

(اسم واحد) (جمع بضائع ہے)

بِضْعٌ = گنتی۔ تین سے نو تک۔ (اسم عدد)

ب-ط

بَطَّائِنٌ = استر۔ گتھل۔ (اسم جمع) (واحد

بطانة ہے)

بَطَّانَةٌ = بھیدی۔ ولی۔ دوست۔ استر۔ (اسم

مشق)

بَطَّرٌ = اترانا۔ بڑا خوش ہونا۔ (اسم مصدر)

مونث غائب)

بُعْتَةٌ = اچانک۔ (اسم ظرف)

بُعْضَاءُ = دشمنی۔ (اسم مشتق)

بُعْثُوا = انہوں نے فساد کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

بُعْثِيٌّ = زناکار۔ (اسم واحد) (جمع بغایا ہے)

بُعْثِيٌّ = سرکشی۔ ضد۔ (اسم مصدر)

بُعْثِيٌّ = وہ ظلم کیا گیا۔ (ماضی جمہول۔ واحد مذکر غائب)

ب-ق

بَقْرَةٌ = تیل۔ گائے۔ (اسم جنس)

بَقَرَاتٌ = گائیں۔ (اسم جمع) (واحد بقرة ہے)

بَقْرَةٌ = ایک گائے۔ (اسم واحد) (جمع بقرات ہے)

بُقْعَةٌ = گھر۔ قطعہ زمین۔ (اسم واحد) (جمع)

بقاع و بقع ہے)

بَقْلٌ = سبزی۔ ترکاری۔ (اسم واحد) (جمع)

بقول و ابقال ہے)

بَقِيٌّ = وہ بچا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

بَقِيَّةٌ = بچا ہوا۔ (اسم واحد) (جمع بقایا ہے)

ب-ک

بَعَثْنَا = ہم نے اٹھایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

بَعْدٌ = پیچھے۔ (ظرف زمان)

بَعْدٌ = دوری۔ فرق۔ (اسم مشتق)

بَعْدَتْ = وہ دور ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

بَعْضٌ = تھوڑا حصہ۔ کوئی چیز۔ (اسم واحد) (جمع ابعاض ہے)

بَعْلٌ = شوہر۔ بت۔ (اسم واحد) ایک بت کا نام ہے۔

بُعُوضَةٌ = مچھر۔ (اسم واحد) (جمع بعوض ہے)

بُعُولَةٌ = شوہر۔ (اسم جمع) (واحد بعل ہے)

بَعِيدٌ = دور۔ (اسم واحد) (جمع بعداء و بعد و بعدان۔

بَعِيرٌ = اونٹ (اسم واحد۔ مذکر و مونث کے لئے یکساں)

ب-غ

بَغِيٌّ = اس نے ضد کی۔ ظلم کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

بَغَاءٌ = بدکاری۔ زنا۔ (اسم مشتق)

بِغَالٌ = چمچ۔ (اسم جمع) (واحد بغل ہے)

بَعَثٌ = اس نے سرکشی کی۔ (ماضی۔ واحد

بَكَّةٌ = نام مکہ مکرمہ۔ (اسم مکان۔ اسم علم)
 بَكْتٌ = وہ روٹی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)
 بَكْرٌ = کنواری۔ جس پر کبھی بوجھ نہ پڑا ہو۔
 (اسم واحد) (جمع ابکار ہے)
 بُكْرَةٌ = صبح کا پہلا حصہ۔ (اسم۔ ظرف زمان)
 بُكْمٌ = گونگے۔ (اسم صفت) (واحد ابکم ہے)
 بُكِيٌّ = رونے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

ب-ل

بَلٌ = یوں نہیں۔ بلکہ۔ (حرف عطف)
 بَلِيٌّ = ہاں کیوں نہیں۔ البتہ۔ (حرف تصدیق)
 حرف ایجاب (نعم کے معنی میں ہے۔)
 بَلَاءٌ = امتحان۔ نعمت۔ آزمائش۔ محنت۔ (اسم مصدر)

بِلَادٌ = شہر۔ (اسم جمع) (واحد بلد ہے)
 بِلَاغٌ = خبر پہنچانا۔ (اسم واحد) (جمع بلاغات ہے)
 بِلَدٌ = شہر۔ (اسم مکان) (جمع بلاد ہے)
 اَلْبِلْدُ اَلْاَمِينُ = شہر مکہ۔ (مركب تو مینہی)
 بِلْدَةٌ = ایک شہر۔ (اسم واحد) (جمع بلاد ہے)
 بَلَعٌ = وہ پہنچا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 بَلَعٌ = تو پہنچا وے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر غائب)
 بَلَعًا = وہ دونوں پہنچے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر بحالت رفعی)

بَلَعْتُ = تو پہنچا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)
 بَلَعْتُ = تو نے پہنچایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)
 بَلَعْنَ = وہ پہنچیں۔ (ماضی۔ جمع مونث غائب)
 بَلَعْنَا = ہم پہنچے۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
 بَلَعُوا = وہ پہنچے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
 بَلَوْنَا = ہم نے جانچا۔ ہم نے آزمایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

بَلِيغٌ = تیز زبان۔ پہنچنے والا۔ (اسم فاعل)
 بَلِيٌّ = ہاں کیوں نہیں۔ البتہ۔ (حرف تصدیق)
 حرف ایجاب (نعم کے معنی میں ہے۔)

ب-ن

بَنِيٌّ = اس نے گھر بنایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 بِنَاءٌ = عمارت بنانا۔ (اسم مصدر)
 بَنَاءٌ = معمار۔ (اسم واحد۔ جمع بناؤن ہے)
 بَنَاتٌ = بیٹیاں۔ (اسم جمع) (واحد بنت ہے)
 بَنَانٌ = انگلی کی پور۔ انگلی کی نوکیں۔ (اسم جمع) (واحد بنانہ ہے)
 بَنَوْنَا = انہوں نے بنایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
 بَنُونٌ = بیٹے۔ (اسم جمع۔ واحد ابن ہے۔ بحالت رفعی)

بُنْتَى = میرا چھوٹا بیٹا۔ (مضاف بیائے مکلم۔
اسم تفسیر)

بِنْتَى إِسْرَائِيل = حضرت یعقوب علیہ السلام کی
اولاد۔ (مرکب اضافی)

بِنِي = بیٹے۔ (اسم مصدر۔ بحالت نصی وجرى۔
اصل میں بِنِين تھا۔ ”نون“ بوجہ اضافت گر
گیا۔)

بُنْيَان = عمارت۔ (اسم مصدر)

بِنْيَانَا = ہم نے بنایا۔ (ماضی۔ جمع مکلم)

ب-و

بَوَاءَ = اس نے جگہ دی۔ (ماضی۔ واحد مذکر
غائب)

بَوَانَا = ہم نے جگہ دی۔ (ماضی۔ جمع مکلم)

بَوَار = ہلاک ہونا۔ (اسم مصدر)

بُور = ہلاک ہونے والا۔ (اسم واحد۔ جمع مذکر و

مؤنث سب کے لئے ہے۔)

بُورِكَ = وہ برکت دیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مذکر غائب)

ب-ہ

بُهِتَ = وہ حیران رہ گیا۔ وہ گھبرا گیا۔ (ماضی

مجہول۔ واحد مذکر غائب)

بُهْتَان = جھوٹ باندھنا۔ (اسم مصدر)

بُهْجَة = رونق۔ (اسم مشتق)

بُهَيْج = رونق کی چیز۔ (اسم صفت)

بُهَيْمَة = چوپایہ۔ جانور۔ (اسم واحد) جمع بُهَيْم
ہے)

ب-ی

بِيَات = شب خون مارنا۔ رات گزارنا۔ (اسم
مصدر)

بِيَان = کھلی بات۔ واضح بات۔ (اسم مصدر)

بِيْتٌ = گھر۔ (اسم واحد) جمع بیوت ہے)

بِيَّتَ = اس نے رات کو مشورہ کیا۔ (ماضی۔
واحد مذکر غائب)

بِيْتٌ = کتواں۔ (اسم واحد) جمع ابار ہے)

بِيْض = سفید چیزیں۔ (اسم جمع) (واحد بیضاء
ہے)

يَنْض = اٹھے۔ (اسم جمع) (واحد بيضة
ہے)

بِيْضَاء = سفید۔ (اسم واحد) جمع بیض ہے)

بِيْعٌ = بیچنا۔ خریدنا۔ (لغت اضداد) (اسم مصدر)

بِيْعٌ = عیسائیوں کے عبادت خانے۔ (اسم جمع)
(واحد بَيْعَةٌ ہے)

بَيْنٌ = بیچ۔ درمیان۔ (اسم ظرف)

بَيْنَ اَيْدِي = سامنے۔ آگے۔ (مركب اضافی)
بَيْنَ = اس نے کھول کر بیان کیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

بَيْنًا = ہم نے بیان کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
بَيْنَات = دلیلیں۔ (اسم جمع) (واحد بینة ہے)

بَيْنَةٌ = دلیل۔ (اسم واحد) (جمع بینات ہے)
بَيْنُوا = انہوں نے بیان کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

بُيُوت = گھر۔ (اسم جمع) (واحد بیت ہے)



(ت)

ت - ا

ت = تم ہے۔ (یہ حرف جر۔ قسمیہ صرف
لفظ اللہ کے لئے آتا ہے جیسے تالہ۔)

تَائِبٌ = توبہ کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر)

تَائِبَاتٌ = توبہ کرنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع
مونث سالم)

تَائِبُونَ = توبہ کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع
مذکر سالم)

تَابٌ = اس نے توبہ کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر
غائب)

تَابَا = ان دونوں نے توبہ کی۔ (ماضی۔ تثنیہ
مذکر غائب)

تَابِي = وہ انکار کرتی ہے۔ (مضارع۔ واحد

مونث غائب)

تَابِعٌ = پیروی کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر)

تَابِعِينَ = پیروی کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع
مذکر)

تَابُوا = انہوں نے توبہ کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

تَابُوتٌ = ککڑی کا صندوق۔ (اسم واحد) (جمع
تواہیت ہے)

(أ) تَأْتِنِي = تم میرے پاس لاؤ گے۔ پانچاؤ
گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَأْتُونَ = تم آتے ہو۔ تم لاتے ہو۔ (مضارع۔
جمع مذکر حاضر)

تَأْتِي = تو آتا ہے۔ وہ آتی ہے۔ (مضارع۔
واحد مذکر حاضر۔ واحد مونث غائب)

تَوَثَّرُونَ = تم اختیار کرتے ہو۔ تم ترجیح دیتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَأْسِرُونَ = تم قید کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَأْتِيْم = گناہ میں ڈالنا۔ (اسم مصدر)

تَأْتِيْم = گناہ میں ڈالنا۔ (اسم مصدر)

تَأْجُرُ = تو نوکری کرتا ہے۔ تو نوکری کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَأْجُرُ = تو نوکری کرتا ہے۔ تو نوکری کرے گا۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَأْجِيْل = مہلت دینا۔ (اسم مصدر)

تَأْفِيْكَ = تو منحرف کرے۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

تَأْخِذُ = تو پکڑتا ہے۔ تو لیتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَأْخِذُ = تو پکڑتا ہے۔ تو لیتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَأْخِذُونَ = تم لیتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَأْخِذُونَ = تم لیتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَأَخَّرَ = اس نے دیر کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَأَخَّرَ = اس نے دیر کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَوَدُّوْا = تم حوالہ کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَوَدُّوْا = تم حوالہ کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَأَذَّنَ = اس نے خبر دی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَأَذَّنَ = اس نے خبر دی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَأَزَّرَ = ایک بار۔ (اسم واحد) (جمع تارات ہے)

تَأَمَّرَ = تو حکم کرتا ہے۔ وہ حکم کرتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد مونث غائب)

تَأَرِكُ = چھوڑنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

تَأَمَّرُونَ = تم حکم کرتے ہو یا کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَأْرِكُوْا = چھوڑنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

تَأْمُرِيْنَ = تو حکم کرتی ہے۔ تو حکم کرے گی۔ (مضارع۔ واحد مونث حاضر)

تَوَثَّرُ = وہ اچھالتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تَأْمَنُ = تو امانت رکھتا ہے۔ وہ امانت رکھتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد مونث حاضر)

مونث غائب)

تَأْوِيلٌ = پھیرنا۔ درست معنی بیان کرنا۔ (اسم

مصدر)

ت-ب

تُبُّ = تو پلٹ۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

تَبَّ = وہ ہلاک ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَبَابٌ = ہلاکت۔ (اسم مشتق)

تَبَارٌ = ہلاکی۔ ہلاک ہونا۔ (اسم مصدر)

تَبَارَكَ = وہ بہت برکت والا ہوا۔ (ماضی۔

واحد مذکر غائب)

(لَا) تَبَاشِرُوا = تم مت مباشرت کرو۔ (فعل

نہی۔ جمع مذکر حاضر)

تَبَايَعْتُمْ = تم نے خرید و فروخت کی۔ (ماضی۔

جمع مذکر حاضر)

تُبْتُ = میں نے توبہ کی۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

تَبَّتْ = وہ ٹوٹ گئی۔ (ماضی۔ واحد مونث

غائب)

تَبَّتْ يَدَا = دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔

(یدا فاعل)

(لَا) تَبْتَسُّسٌ = تو مت ٹمگین ہو۔ (فعل نہی۔

واحد مذکر حاضر)

تُبْتِمُ = تم نے توبہ کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

تَبْتَعُونَ = تم چاہتے ہو۔ تم چاہو

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَبْتَعِي = تو چاہتا ہے۔ تو چاہے گا (مضارع۔

واحد مذکر حاضر)

تَبْتَلٌ = تو دنیا سے الگ ہو۔ (امر۔ واحد مذکر

حاضر)

تَبْتِيلٌ = الگ ہونا۔ کٹ جانا۔ (اسم مصدر)

(لَا) تَبْخَسُوا = تم مت گھٹاؤ۔ (فعل نہی۔ جمع

مذکر حاضر)

تَبْخَلُوا = تم بخیل کرتے ہو۔ (مضارع مجزوم۔

جمع مذکر حاضر)

تَبَّدَ = وہ ظاہر کی جاتی ہے۔ (مضارع مجہول

مجزوم۔ واحد مونث غائب)

تَبَدَّلَ = وہ بدلے گی۔ (مضارع۔ واحد مونث

غائب)

تُبَدِّلُ = وہ بدلی جاتی ہے۔ وہ بدلی جائے گی۔

(مضارع مجہول۔ واحد مونث غائب)

تُبَدُّونَ = تم ظاہر کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر)

تُبَدِّي = وہ ظاہر کرتی ہے۔ (مضارع۔ واحد

مونث غائب)

تَبْدِيلٌ = بدلنا۔ (اسم مصدر)

(لَا) تَبْدِرُ = تو فضول خرچی مت کر۔ (فعل

نہی۔ واحد مذکر حاضر

تَبْدِيْرًا = بکھیرنا۔ پریشان کرنا۔ (اسم مصدر)

تَبْرًا = وہ الگ ہوا۔ وہ بیزار ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَبْرِيٌّ = تو اچھا کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَبْرَانَا = ہم بیزار ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مکمل)

تَبْرًا وَا = وہ بیزار ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

تَبْرُجٌ = دکھانا۔ (اسم مصدر)

(لَا) تَبْرُجْنَ = اپنی زیب و زینت مت ظاہر کرو۔ (فعل نہی۔ جمع مونث غائب)

تَبْرْنَا = ہم نے ہلاک کیا۔ (ماضی۔ تثنیہ / جمع مذکر / مونث مکمل)

(أَنْ) تَبْرُوا = بھلائی کرو۔ احسان کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

تَبْسُطٌ = تو کھولتا ہے۔ وہ کھولتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد مونث غائب)

تَبْسَلٌ = تو سونپا جائے۔ وہ سونپی جائے گی۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد مونث غائب)

تَبْسَمٌ = وہ مسکرایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَبْسُرٌ = تو خوشخبری سناؤ۔ (مضارع بمعنی امر۔ واحد مذکر حاضر)

تَبْسُرُونَ = تم خوشی سناؤ گے۔ (مضارع۔ جمع حاضر)

مذکر حاضر

تَبْشِيْرٌ = خوشخبری دینا۔ (اسم مصدر)

تَبْصِرٌ = تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ وہ دیکھتی ہے یا دیکھے گی۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد مونث حاضر)

تَبْصِرَةٌ = سمجھانے کی چیز۔ (اسم مشتق)

(لَا) تَبْطُلُوا = تم مت باطل کرو۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)

تَبَّعٌ = یمن کے اس بادشاہ کا لقب ہے جو حضر موت۔ سبا۔ حمیر تک قابض ہوا۔ (اسم واحد)

تَبَّعٌ = تابع۔ (اسم واحد۔ جمع اتباع ہے)

تَبَّعٌ = وہ تابع ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَبْعَتُونَ = تم کھڑے کئے جاؤ گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر حاضر)

تَبْعُوا = وہ تابع ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

(لَا) تَبْعٌ = تو مت تلاش کر۔ (فعل نہی۔ واحد مذکر حاضر)

تَبْعُونَ = تم چاہتے ہو۔ تم چاہو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَبْعِيٌّ = وہ بغاوت کرتی ہے۔ وہ زیادتی کرتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تَبْقِيٌّ = وہ باقی رکھتی ہے۔ وہ باقی رکھے گی۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تَبْكُونَ = تم روتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَبْلُوْا = وہ آزمائی جائے گی۔ (مضارع مجہول۔ واحد مؤنث غائب)	تَبْلُوْا = وہ آزمائی ہے۔ وہ آزمائی ہے۔ (مضارع مجہول۔ واحد مؤنث غائب)
تَبْلُوْا = تو لوٹے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)	تَبْلُوْا = تو پہنچتا ہے یا پہنچے گا۔ وہ پہنچتی ہے یا پہنچے گی۔ (مضارع۔ واحد مذکر/مؤنث حاضر)
تَبْلُوْا = وہ حیران کرتی ہے یا کرے گی۔ (مضارع۔ واحد مؤنث غائب)	تَبْلُوْا = تو پہنچاتا ہے یا پہنچائے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)
تَبْلُوْا = کھلی دلیل۔ (اسم مصدر)	تَبْلُوْا = تم پہنچتے ہو۔ تم پہنچو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر/مؤنث حذف ہے۔ مجزوم یا منصوب ہونے کی صورت میں۔)
تَبْلُوْا = وہ خراب ہوگی۔ وہ ہلاک ہوگی۔ (مضارع۔ واحد مؤنث غائب)	تَبْلُوْا = وہ آزماتی ہے۔ وہ آزمائے گی۔ (مضارع۔ واحد مؤنث غائب۔ واحد مذکر حاضر)
تَبْلُوْا = وہ سفید ہوگی۔ (مضارع۔ واحد مؤنث غائب)	تَبْلُوْا = تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
تَبْلُوْا = دعویٰ کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)	تَبْلُوْا = تم بتاتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
تَبْلُوْا = وہ ظاہر ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)	تَبْلُوْا = تو جگہ دیتا ہے یا دے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)
تَبْلُوْا = تو بیان کرتا ہے۔ تو بیان کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)	تَبْلُوْا = اس نے جگہ پکڑی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
تَبْلُوْا = اس نے جان لیا ہے۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)	تَبْلُوْا = تم دونوں جگہ پکڑو۔ (امر۔ تثنیہ مذکر حاضر)
تَبْلُوْا = تم دریافت کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر۔ بیان الامرا)	تَبْلُوْا = تو حاصل کرے۔ تو سمیٹے۔ (اصلہ "با"۔ واحد مذکر حاضر)

(لَا) تَبَدَّلُوا = تم مت بدلو۔ (فعل نہی۔ جمع
مذکر حاضر)

نہی۔ جمع مذکر حاضر
تَتَفَكَّرُونَ = تم دھیان کرتے ہو۔ (مضارع۔

تَتَّبِعْ - وہ پیچھے پیچھے آتا ہے یا آئے
گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد مونث غائب)

جمع مذکر حاضر
تَتَّقَلَّبُ = وہ الٹ جائیں گی۔ (مضارع۔ واحد

(لَا) تَتَّبِعَانِ = تم دونوں ہرگز مت پیروی
کرو۔ (فعل نہی۔ تثنیۃ مذکر حاضر)

مونث غائب)
تَتَّقُونَ = تم بچو گے۔ تم ڈرو گے۔ (مضارع۔

جمع مذکر حاضر)
تَتَّبِعُونَ = تم پیچھے چلتے ہو یا چلو گے۔

جمع مذکر حاضر
تَتَكَبَّرُ = تو سرکشی کرتا ہے۔ تو سرکشی کرے

(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
تَتَّيَّبُ = غارت کرنا۔ توڑنا۔ (اسم مصدر)

گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)
تَتَلَّى - وہ پڑھی جاتی ہے۔ (مضارع۔ واحد

واحد مونث غائب)
تَتَجَافَى = وہ الگ رہتی ہیں۔ (مضارع۔

واحد مونث غائب)
تَتَلَقَّى = وہ لینے آتا ہے۔ وہ لینے آئے گا۔

واحد مذکر حاضر)
تَتَّخِذْ = تو پکڑتا ہے یا پکڑے گا۔ (مضارع۔

واحد مذکر حاضر)
واحد مذکر حاضر / واحد مونث غائب)

(لَا) تَتَّخِذُوا = تم مت پکڑو۔ (فعل نہی۔ جمع
مذکر حاضر)

واحد مذکر حاضر / واحد مونث غائب)
تَتَلَوْنَا = تو پڑھتا ہے۔ وہ پڑھتی ہے۔ (مضارع۔

جمع مذکر حاضر)
تَتَدَكَّرُونَ = تم لھیت پکڑتے ہو۔ (مضارع۔

واحد مذکر حاضر / واحد مونث غائب)
تَتَلَوْنَ = تم پڑھتے ہو۔ تم پڑھو گے۔ (مضارع۔

جمع مذکر حاضر)
تَتْرَى = پے در پے۔ (اسم مشتق)

جمع مذکر حاضر)
تَتَمَارَى = تو شک کرتا ہے۔ تو شک کرے

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر)
تَتْرُكْ = تو چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا۔

گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)
واحد مذکر حاضر)

تَتْرَكُونَ = تم چھوڑے جاؤ گے۔ (مضارع۔

مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
(لَا) تَتَمَتَّنُوا = تم مت آرزو کرو۔ (فعل نہی۔

جمع مذکر حاضر)
(لَا) تَتَفَرَّقُوا = تم متفرق مت ہو جاؤ۔ (فعل

جمع مذکر حاضر)

تُجَادِلُونَ = تم جھڑتے ہو یا جھڑو گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَجَارَةٌ = سوداگری۔ (اسم مصدر)

تَجْتَرُونَ = تم چلاتے ہو۔ تم چلاؤ گے۔ تم

گزرگڑاتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تُجَاهِدُونَ = تم جہاد کرتے ہو یا کرو گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

(ان) تَجْتَنِبُونَ = اگر تم بچتے رہو۔ اگر تم بچتے

رہو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَجِدُ = وہ پاتی ہے یا پائے گی۔ تو پاتا ہے یا

پائے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد مونث

غائب)

تَجِدُونَ = تم پاتے ہو یا پاؤ گے۔ (مضارع۔

جمع مذکر حاضر)

تُجْرِمُونَ = تم گناہ کرتے ہو یا کرو گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَجْرِي = وہ بہتی ہے۔ جاری ہے۔ (مضارع۔

واحد مونث غائب)

تَجْرِيَانِ = دونوں بہتی ہیں۔ (مضارع۔ تثنیہ

مونث غائب)

تُجْرَى = تو بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو بدلہ دیا

جائے گا۔ وہ بدلہ دی جاتی ہے۔ وہ بدلہ دی

جائے گی۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر حاضر/ واحد

(لَا) تَتَنَاجَوْنَ = تم مت سرگوشی کرو۔ (فعل

نہی۔ جمع مذکر حاضر)

تَتَنَزَّلُ = وہ اترتی ہے یا اترے گی۔ (مضارع۔

واحد مونث غائب)

(ان) تَتَوَبَا = تم دونوں توبہ کرلو۔ (مضارع۔

تثنیہ مونث حاضر)

تَتَوَفَّى = وہ مارتی ہے۔ وہ پوری طرح لیتی

ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

(لَا) تَتَوَلَّوْا = تم مت پھرد۔ (فعل نہی۔ جمع

مذکر حاضر)

ت-ث

تَثْبِيتٌ = ثابت کرنا۔ برقرار رکھنا۔ (اسم

مصدر)

تَثْرِيْبٌ = الزام۔ ملامت کرنا۔ (اسم مصدر)

تَثَقَّفُ = تو پاتا ہے۔ تو پائے گا۔ (مضارع۔

واحد مذکر حاضر/ واحد مونث غائب)

تُثِيْزٌ = وہ ابھارتی ہے یا ابھارے گی۔

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر/ واحد مونث غائب)

ت-ج

تُجَادِلُ = تو جھڑتا ہے۔ وہ جھڑتی ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد مونث غائب)



ت-ح

مونث غائب)

تَجْزُونَ = تم بدلہ دیئے جاؤ گے (مضارع

مجمول۔ جمع مذکر حاضر

تَجْزِي = وہ کام آئے گی۔ (مضارع۔ واحد

مونث غائب)

(لَا) تَجَسَّسُوا = تم مت جاسوسی کرو۔ (فعل

نہی۔ جمع مذکر حاضر

تَجْعَلُ = تو ٹھہراتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر

تَجْعَلُونَ = تم ٹھہراتے ہو۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر

تَجَلَّى = وہ روشن ہوا۔ ظاہر ہوا۔ (ماضی۔

واحد مذکر غائب)

(أَنْ) تَجْمَعُوا = یہ کہ تم جمع کرتے ہو یا

کرو گے۔ (مضارع منصوب۔ جمع مذکر حاضر)

تَجُوعُ = تو بھوکا ہوتا ہے۔ تو بھوکا رہے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

(لَا) تَجْهَرُوا = تو مت پکار۔ تو مت ظاہر کر۔

(فعل نہی۔ واحد مذکر حاضر)

(لَا) تَجْهَرُوا = تم اونچی آواز سے نہ پکارو۔

(فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)

تَجْهَلُونَ = تم جہالت کرتے ہو یا کرو گے۔

(مضارع مجہول۔ جمع مذکر حاضر)

تَحَاجُونَ = تم بگھڑتے ہو۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر

تَحَاضُّ = تاکید کرنا۔ آپس میں خواہش دلانا۔

(اسم مصدر)

تَحَاضُّونَ = تم آپس میں تاکید کرتے ہو۔

(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَحَاوُزٌ = سول جواب کرنا۔ (اسم مصدر)

تُحْبِرُونَ = تم خاطر تواضع کئے جاؤ گے۔

(مضارع مجہول۔ جمع مذکر حاضر)

تَحْسِبُونَ = تم بند کرتے ہو یا کرو گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَحْبِطُ = ضائع ہو جائے گی۔ تو ضائع ہو جائے

گا۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب / واحد مذکر حاضر)

تُحِبُّونَ = تم پسند کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر)

إِحْتِبَابٌ = دوست رکھنا۔ (اسم مصدر)

تَحْتٌ = نیچے۔ (اسم۔ ظرف مکان)

تُحَدِّثُ = وہ بیان کرتی ہے یا کرے گی۔ تو

بیان کرتا ہے یا کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مونث

غائب / واحد مذکر حاضر)

تُحَدِّثُونَ = تم باتیں کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع



مذکر حاضر

تَحَذَرُونَ = تم ڈرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر

حاضر)

تَحْزِنُونَ = تم کھتی باڑی کرتے ہو۔

(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَحْرِصُ = تو حریص ہوتا ہے یا ہوگی۔ وہ

حریص ہوتی ہے یا ہوگی۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر/ واحد مونث غائب)

(لَا) تَحْزِرُكَ = تو حرکت نہ کر۔ (فعل نہی۔

واحد مذکر حاضر)

تُحَرِّمُ = تو حرام کرتا ہے یا کرے گا۔ وہ حرام

کرتی ہے یا کرے گی۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر/ واحد مونث غائب)

(لَا) تُحَرِّمُوا = تم مت حرام کرو۔ (فعل نہی۔

جمع مذکر حاضر)

تَحْزَرُوا = انہوں نے قصد کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

تَحْرِيرُ = آزاد کرنا۔ (اسم مصدر)

تَحْزَنُ = تو غم کھاتا ہے یا کھائے گا۔ وہ غم

کھاتی ہے یا کھائے گی۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر/ واحد مونث غائب)

تَحْزِنُونَ = تو غم کھاؤ گے۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر)

(لَا) تَحْزِنِي = تو غم نہ کھا۔ (فعل نہی۔ واحد

مونث حاضر)

تُحِشُ = تو آہٹ پاتا ہے۔ تو آہٹ پائے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر/ واحد مونث غائب)

تَحْسِبُ = تو خیال کرتا ہے۔ تو جانتا ہے۔ تو

گمان کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر/ واحد

مونث غائب)

تَحْسِبُونَ = تم گمان کرتے ہو یا کرو گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَحْسِدُونَ = تم حسد کرتے ہو یا کرو

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَحْسِسُوا = تم تلاش کرو۔ (امر۔ جمع مذکر

حاضر)

(إِنْ) تَحْسِنُوا = اگر تم نیکی کرو گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر حاضر۔ اِنْ شرطیہ سے مجزوم

ہے۔)

تَحْسُونَ = تم کاٹتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر

حاضر)

تُحْشِرُونَ = تم جمع کئے جاؤ گے۔ (مضارع

مجمول۔ جمع مذکر حاضر)

تَحْصِنُ = قید سے رہنا۔ (اسم مصدر)

تُحْصِنُ = وہ بچاتی ہے۔ تو بچاتا

ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب۔ واحد مذکر حاضر)

تُحْصِنُونَ = تم روک رکھتے ہو۔ تم روک رکھو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

(لَا) تُحْصِنُوا = تم نہ بناہ کر سکو گے۔ تم نہ سمن سکو گے۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)

(لَمْ) تُحِطْ = تو نے احاطہ نہیں کیا۔ (فعلی بِلَمْ - واحد مذکر حاضر/ واحد مونث غائب)

تَحْكُمُ = تو حکم کرتا ہے یا کرے گا۔ وہ حکم کرتی ہے یا کرے گی۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر/ واحد مونث غائب)

تَحْكُمُونَ = تم حکم کرتے ہو یا کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَحِلُّ = وہ حلال ہوتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب/ واحد مذکر حاضر)

(لَا) تُحِلُّوا = تم مت حلال سمجھو۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَحْلِقُوا = تم نہ منڈواؤ۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)

تَحِلَّةٌ = کھولنا۔ (اسم مصدر)

(لَا) تَحْمِلُ = تو نہ ڈال۔ (نہی۔ واحد مذکر حاضر)

تَحْمِلُ - وہ اٹھاتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

(لَا) تُحْمِلُ = تو بوجھ نہ ڈال۔ (نہی۔ واحد مذکر حاضر)

مذکر حاضر

تُحْمَلُونَ = تم لاوے جاتے ہو۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَتَحَنَّنُ = تو قسم نہ توڑ۔ (فعل نہی۔ واحد مذکر حاضر)

تَحْوِيلٌ = بدلنا۔ (اسم مصدر)

تَحِيَّةٌ = دعا۔ سلام کرنا۔ (اسم مصدر)

تَحِيدٌ = تو کنارہ کرتا ہے۔ تو کنارہ کرے گا۔ تو بھاگتا ہے۔ تو بھاگے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَحِيظُونَ = تم گھیرتے ہو یا گھیرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَحْيَوْنَ = تم زندہ رہو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تُحْيِي = تو جلاتا ہے (مضارع۔ واحد مذکر حاضر/ واحد مونث غائب)

ت-خ

تَخَاضَمٌ = آپس میں جھگڑنا۔ (اسم مصدر)

(لَا) تُخَاطَبُ = تو نہ مخاطب ہو۔ (فعل نہی۔ واحد مذکر حاضر/ واحد مونث غائب)

تَخَافُ = تو ڈرتا ہے۔ تو ڈرے گا۔ وہ ڈرتی ہے۔ وہ ڈرے گی۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

واحد مونث غائب)

(لَا) تَخَافَا = تم دونوں مت ڈرو۔ (فعل نسبی۔

تثنیہ مذکر حاضر)

(لَا) تَخَافْتُ = تو آہستہ نہ پڑھ۔ (فعل نسبی۔

واحد مذکر حاضر)

تَخَافُونَ = تم ڈرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر

حاضر)

(لَا) تَخَافِنِي = تو نہ ڈر۔ (فعل نسبی۔ واحد

مونث حاضر)

(إِنْ) تَخَافِلُونَا = اگر تم ملا لو۔ (مضارع مجزوم

۔ جمع مذکر حاضر)

تُخْبِتُ = وہ نرم ہوتی ہے۔ (مضارع۔ واحد

مونث غائب)

تَخْتَانُونَ = تم خیانت کرتے ہو۔ تم خیانت

کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَخْتَصِمُوا = تم جھڑا مت کرو۔ (فعل

نسبی۔ جمع مذکر حاضر)

تَخْتَصِمُونَ = تم جھڑا کرتے ہو۔ تم جھڑا

کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَخْتَلِفُونَ = تم اختلاف کرتے ہو۔ (مضارع۔

جمع مذکر حاضر)

تَخِرُّ = تو گر پڑے گا۔ وہ گر پڑے گی۔

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر/واحد مونث غائب)

تُخْرِجُ = وہ نکلتی ہے۔ تو نکلتا ہے۔ (مضارع۔

واحد مونث غائب/واحد مذکر حاضر)

تُخْرِجُ = تو نکالتا ہے۔ وہ نکالتی ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر/واحد مونث غائب)

تُخْرِجُونَ = تم نکالتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر

حاضر)

تُخْرِجُونَ = تم نکالے جاؤ گے۔ (مضارع

مجمول۔ جمع مذکر حاضر)

تَخْرُصُونَ = تم تجویز کرتے ہو۔ تم اندازہ

لگاتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

(لَنْ) تَخْرُقُ = تو ہرگز نہیں پھاڑ سکے گا۔

(فعل نسبی بلنّ۔ واحد مذکر حاضر)

(لَا) تُخْرَوْنَ = تم مجھے رسوا نہ کرو۔ (نسبی۔ جمع

مذکر حاضر)

(لَا) تُخْرِزُ = تو رسوا نہ کر۔ (فعل نسبی۔ واحد

مذکر حاضر)

تُخْسِرُونَ = تم کم کرو گے۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر)

تَخْسِيرٌ = نقصان دہنا۔ (اسم مصدر)

تَحْشَى = تو ڈرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر)

تَخْشَعُ = وہ گڑگڑاتی ہے۔ وہ خشوع کرتی

ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

(لَا) تَخْشَوْنَا = تم مت ڈرو۔ (فعل نسبی۔ جمع

مذکر حاضر)

(لَا) تَخْضَعْنَ = تم نرمی مت کرو۔ (فعل
نہی۔ جمع مونث حاضر)

تَخْطُ = تو لکھتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر
حاضر)

تَخْطُفُ = وہ اچک لے جاتی ہے۔ (مضارع۔
واحد مونث غائب)

تَخْفِي = وہ چھپے گی۔ (مضارع۔ واحد مونث
غائب)

تُخْفُونَ = تم چھپاتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر
حاضر)

تُخْفِي = تو چھپاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر
حاضر)

تَخْفِيفٌ = ہلکا کرنا۔ (اسم مصدر)
تَخَلَّتْ = وہ خالی ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث
غائب)

تَخْلُدُونَ = تم ہمیشہ رہو گے۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)

تُخْلِفُ = تو خلاف کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد
مذکر حاضر)

تَخْلُقُ = تو پیدا کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر
حاضر)

تَخْلُقُونَ = تم پیدا کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)

تَخْوَفٌ = ڈرنا۔ (اسم مصدر)

(لَا) تَخُونُوا = تم خیانت نہ کرو۔ (فعل نہی۔
جمع مذکر حاضر)

تَخْوِيفٌ = ڈرانا۔ (اسم مصدر)
تَخْيِرُونَ = تم اختیار کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)

ت-د

تَدَارِكُ = اس نے سنبھالا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
غائب)

تَدَايَنْتُمْ = تم نے باہم ادھار لیا۔ (ماضی۔ جمع
مذکر حاضر)

تَدَخَّرُونَ = تم جمع کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)

تَدْخُلُونَ = تم داخل ہوتے ہو یا ہو گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَدْخُلُوا = تم مت داخل ہو۔ (فعل نہی۔
جمع مذکر حاضر)

تَدْرُسُونَ = تم پڑھتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر
حاضر)

تُدْرِكُ = وہ پاتی ہے یا پائے گی۔ (مضارع۔
واحد مونث غائب)

تَدْرُونَ = تم جانتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر
حاضر)

تَذِيرُونَ = تم پھیراتے ہو۔ تم لین دین کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

ت-ذ

(أَنْ) تَذْبَحُوا = تم ذبح کرو۔ (مضارع بمعنی امر۔ جمع مذکر حاضر)

تَذَرُ = وہ چھوڑتی ہے۔ وہ چھوڑے گی۔ تو چھوڑتا ہے۔ تو چھوڑے گا۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب۔ جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَذَرُ = وہ نہ چھوڑے گی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

تَذَرُونَ = تم چھوڑتے ہو۔ تم چھوڑو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَذْكُرُ = تو یاد کرتا ہے یا کرے گا۔ وہ یاد کرتی ہے یا کرے گی۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد مونث غائب)

تَذْكِرُ = وہ یاد دلائے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تَذْكِرَةٌ = نصیحت۔ سبھوتا۔ (اسم مشتق)

تَذْكُرُونَ = تم یاد کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَذْكُرُونَ = تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تم نصیحت پکڑو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَذَرِي = تو جانتا ہے۔ وہ جانے گی۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر/ واحد مونث غائب)

(لَا) تَذْعُ = تو مت پکار۔ (فعل نسبی۔ واحد مذکر حاضر)

تَذْعِي = وہ بلائی جاتی ہے یا بلائی جائے گی۔ (مضارع مجہول۔ واحد مونث غائب)

تَذْعُوا = تو پکارتا ہے۔ تو پکارے گا۔ وہ پکارتی ہے۔ وہ پکارے گی۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد مونث غائب)

تَذْعُونَ = تم پکارتے ہو۔ تم پکارو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَذْعُونَ = تم چاہتے ہو۔ تم منگواتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

الِإِدْعَاءُ = چاہنا۔ (اسم مصدر)

تَدَلِّي = وہ لٹک آیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَدْلُوا = تم مت پہنچاؤ۔ (لام نسبی مقدر ہے۔ مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَدْمِيْرُ = وہ اکھاڑے گی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

تَدْمِيْرًا = اکھاڑنا۔ پھینکانا۔ (اسم مصدر)

تَدْوُرُ = وہ پھرتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تَدْهِنُ = تو ڈھیلا ہوگا دین میں۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَذَكِّيرٌ = یاد دلاتا۔ (اسم مصدر)

تُذِلُّ = تو ذلت دیتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَذْلِيلٌ = خراب کرنا۔ جھکانا۔ (اسم مصدر)

تَذْوَدَانٍ = دو عورتیں روکتی تھیں۔ (مراد حضرت شعیب رضی اللہ عنہ کی دو بیٹیاں) (مضارع۔ تثنیہ مونث غائب)

تَذُوقُونَ = تم چکھتے ہو۔ تم چکھو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَذْهَبُ = وہ جاتی ہے۔ وہ جائے گی۔ تو جاتا ہے۔ تو جائے گا۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب۔ واحد مذکر حاضر)

تَذْهَبُوا = تم جاتے ہو۔ تم جاؤ گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَذْهَلُ = وہ بھول جائے گی۔ تو بھولتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب۔ واحد مذکر حاضر)

ت-ر

تَرَى = تو دیکھتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَرَائِيٌّ = وہ مقابل ہوا۔ ایک دوسرے کو دیکھا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَرَائِبٌ = چھاتی کی ہڈیاں۔ (اسم جمع) (واحد

تَرِيبٌ ہے)

تَرَاءَتْ = وہ سامنے نظر آئی۔ وہ مقابل ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

تُرَابٌ = مٹی۔ (اسم واحد) (جمع الترابہ ہے)

تُرَاثٌ = مردے کا مال۔ میراث۔ ترکہ۔ (اسم مشتق)

تَرَضِيٌّ = آپس میں راضی ہونا۔ (اسم مصدر)

تَرَضَوْا = وہ ایک دوسرے سے راضی ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

تَرَضَيْتُمْ = تم آپس میں راضی ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

تَرَاقِيٌّ = بانس پر گردن۔ ہنسی۔ یعنی گردن کی ہڈیاں۔ (اسم جمع) (واحد ترقوة ہے)

تُرَاوِدُ = وہ چاہتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تُرَبُّصٌ = ٹھہرنا۔ (اسم مصدر)

تَرَبَّصْتُمْ = تم نے انتظار کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

تَرَبَّصُوا = تم انتظار کرو۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

تَرَبَّصُونَ = تم انتظار کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَرْتَابُوا = تم شبہ مت کرو۔ (فعل منہی۔ جمع مذکر حاضر)

تَرْحَمُ = تو رحم کرتا ہے۔ تو رحم کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)	لَا تَرْتَدُّوا = تم مت پلٹو۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)
تُرْحَمُونَ = تم رحم کئے جاؤ گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)	تُرْتَبِلْ = ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ (اسم مصدر)
تُرَدُّ = وہ پھیری جائے گی۔ وہ روکی جائے گی۔ (مضارع مجہول۔ واحد مونث غائب)	تَرْتُوا = تم وارث ہو جاؤ۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
تَرْدِي = تو ہلاک ہوگا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)	لَا تَرْتُوا = تم وارث مت بنو۔ (مضارع نہی۔ جمع مذکر حاضر)
تَرْدِي = گڑھے میں گرا۔ وہ ہلاک ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)	تَرْجِعُ = وہ پھیری جاتی ہے۔ تو پھیرا جاتا ہے۔ (مضارع مجہول۔ واحد مونث غائب۔ واحد مذکر حاضر)
(إِنْ) تُرْدِنَ = تم چاہتی ہو۔ تم ارادہ رکھتی ہو۔ (مضارع۔ جمع مونث حاضر)	تُرْجَعُونَ = تم پھیرے جاؤ گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر حاضر)
تُرْدُونَ = تم پھیرے جاؤ گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر حاضر)	تَرْجِعُونَ = تم پھیرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
تُرْدِينِ = تو مجھ کو پھینکتا ہے۔ تو مجھ کو پھینکے گا۔ تو مجھ کو ہلاک کرتا ہے۔ تو مجھ کو ہلاک کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)	تَرْجِفُ = وہ کانپے گی۔ تو کانپتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب۔ واحد مذکر حاضر)
تُرْزُقُ = تو روزی دیتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)	تَرْجُمُونَ = تم سنگسار کرتے ہو۔ تم سنگسار کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
تُرْزِقَانِ = تم دونوں روزی دیئے جاؤ گے۔ (مضارع مجہول۔ تثنیہ مذکر حاضر)	تَرْجُوا = تو امید رکھتا ہے۔ تو امید رکھے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)
تُرْضِي = تو راضی ہوتا ہے۔ تو راضی ہوگا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)	تَرْجُونَ = تم امید رکھتے ہو۔ تم امید رکھو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
تُرْضِعُ = وہ دودھ پلاتی ہے۔ وہ دودھ پلائے مذکر حاضر)	تُرْجِي = تو پیچھے رکھ دے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

گی۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تَرْضَوْنَ = تم پسند کرتے ہو۔ تم پسند کرو

گے۔ تم راضی ہوتے ہو یا ہو گے۔ (مضارع۔ جمع)

مذکر حاضر

تَرْغَبُونَ = تم خواہش کرتے ہو۔ تم رغبت

کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تُرْفَعُ = تو بلند کیا جاتا ہے۔ تو بلند کیا جائے

گا۔ وہ بلند کی جاتی ہے۔ وہ بلند کی جائے گی۔

(مضارع مجہول۔ واحد مذکر حاضر)

(لَا) تَرْفَعُوا = تم نہ بلند کرو۔ (فعل نہی۔ جمع)

مذکر حاضر

تَرْفِي = تو پڑھے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر)

(لَمْ) تَرْقُبْ = تو نے نہیں انتظار کیا۔ (فعلی

بلم۔ واحد مذکر حاضر)

تَرَكَ = اس نے چھوڑا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

تَرَكَبْ = پہنچتا ہے۔ تو سوار ہوتا ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَرَكَبُونَ = تم سوار ہوتے ہو۔ تم سوار ہو

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَرَكَتُ = میں نے چھوڑا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

تَرَكَتُمْ = تم نے چھوڑا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

تَرَكَتُمُوهَا = تم نے چھوڑا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

(لَا) تَرَكَضُوا = مت ایڑ لگاؤ۔ (فعل نہی۔ جمع

مذکر حاضر)

تَرَكَنَ = انہوں نے چھوڑا۔ (ماضی۔ جمع مونث

غائب)

تَرَكَنُ = تو بھٹکا ہے۔ تو بھٹکے گا۔ (مضارع۔

واحد مذکر حاضر)

تَرَكَنَا = ہم نے چھوڑا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

(لَا) تَرَكَنُوا = تم مت بھگو۔ (فعل نہی۔ جمع

مذکر حاضر)

تَرَكَوْا = انہوں نے چھوڑا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

تَرَهِبِي = وہ تیر چلاتی ہے۔ وہ چلائے گی۔ وہ

پھیکنے ہے۔ وہ پھینکے گی۔ (مضارع۔ واحد مونث

غائب)

تَرَوْنِ = تو مجھے دیکھتا ہے۔ تو مجھے دیکھے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ مجزوم حذف بیائے

متکلم)

تَرَوْنِ = تم دیکھتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَرَوْنُ = تم ضرور دیکھو گے۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر)

تَرَهَبُونُ = تم ڈراتے ہو۔ تم ڈراؤ گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَرْهَقُ = وہ چڑھتی ہے یا چڑھے گی۔

(مضارع- واحد مونث غائب)

(لَا) تَرْهَقُ = تو مت ڈال۔ (فعل نسی- واحد

مذکر حاضر)

تُرِي = تو دکھاتا ہے۔ تو دکھلائے گا۔ (مضارع-

واحد مذکر حاضر)

تُرِيحُونَ = تم شام کو چرا کر پھیر لاتے ہو۔

(مضارع- جمع مذکر حاضر)

تُرِيدُ = تو چاہتا ہے۔ تو چاہے گا۔ (مضارع-

واحد مذکر حاضر)

تُرِيدُونَ = تم چاہتے ہو۔ تم چاہو گے۔

(مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَوِينٌ = تو دیکھتی ہے۔ تو دیکھے گی۔ (مضارع-

واحد مونث حاضر- بانون تاکید ثقیلہ)

تُرِينٌ = تو دکھلائے۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر-

بانون تاکید ثقیلہ)

ت-ز

(لَا) تَزَالُ = تو زائل نہ ہوگا۔ تو ہمیشہ رہے گا۔

(مضارع- واحد مذکر حاضر)

تَزَاوَرُ = وہ چھوڑ دیتی ہے۔ وہ کترا جاتی ہے۔

(مضارع- واحد مونث غائب)

(لَا) تَزِدُ = تو مت بڑھا۔ (فعل نسی- واحد مذکر

حاضر)

تَزِدَادُ = وہ بڑھتی ہے۔ وہ اضافہ کرتی ہے۔

(مضارع- واحد مونث غائب)

تَزْدِرِي = وہ حقیر جانتی ہے۔ وہ حقیر جانے

گی۔ (مضارع- واحد مونث غائب)

تَزِرُ = وہ اٹھاتی ہے۔ وہ اٹھائے گی۔ (مضارع-

واحد مونث غائب)

تَزْرَعُونَ = تم اگتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر

حاضر)

تَزْعُمُونَ = تم گمان کرتے ہو۔ (مضارع- جمع

مذکر حاضر)

(لَا) تَزِرُغُ = تو نہ ٹیڑھا کر۔ (نسی- واحد مذکر

حاضر)

تَزَكِّي = وہ سنورا۔ وہ پاک ہوا۔ (ماضی- واحد

مذکر غائب)

(لَا) تَزَكُّوا = تم مت پاک قرار دو۔ (مضارع-

جمع مذکر حاضر)

تُزَكِّي = تو پاکیزہ کرتا ہے۔ تو پاکیزہ کرے گا۔

(مضارع- واحد مذکر حاضر)

تَزِلُّ = تو پھسل جاتا ہے۔ تو پھسل جائے گا۔

(مضارع- واحد مذکر حاضر)

تَزَوَّدُوا = تم راہ کا خرچ لو۔ (امر- جمع مذکر

حاضر)

تَزُولُ = تو زائل ہوتا ہے۔ تو زائل ہوگا۔

(مضارع- واحد مذکر حاضر)

تَزُولًا = وہ دونوں گر پڑتے ہیں۔ وہ دونوں گر پڑیں گے۔ (مضارع۔ تشبیہ مذکر غائب)

تَزَهُقُ = وہ نکلتی ہے۔ وہ نکلے گی۔ تو کھینچتا ہے۔ تو کھینچے گا۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب / واحد مذکر حاضر)

تَزِيدُونَ = تم بڑھاتے ہو۔ تم بڑھاؤ گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَزِيلُوا = وہ ایک طرف ہوئے۔ جدا ہوئے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

ت - س

تَسَاءَلُونَ = تم آپس میں سوال کرتے ہو۔ تم آپس میں سوال کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَسَاقِطُ = وہ گراتی ہے۔ وہ گرائے گی۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تَسْأَلُ = تو پوچھتا ہے۔ تو پوچھے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تُسْأَلُ = تو پوچھا جاتا ہے۔ تو پوچھا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر حاضر)

تَسْأَلُونَ = تم پوچھتے ہو۔ تم پوچھو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تُسْأَلُونَ = تم پوچھے جاتے ہو۔ تم پوچھے جاؤ

گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر حاضر)

تَسْأَمُونَ = تم سستی کرتے ہو۔ تم اداس ہوتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تُسَبِّحُ = وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وہ اللہ کی پاکی بیان کرے گی۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تُسَبِّحُونَ = تم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہو۔ تم اللہ کی پاکی بیان کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تُسَبِّقُ = وہ سبقت لے جاتی ہے۔ وہ سبقت لے جائے گی۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

(لَا) تَسْتَبُوا = تم گل مت دو۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)

تَسْبِيحُ = پاکی بیان کرنا۔ (اسم مصدر)

تَسْتَأْخِرُونَ = تم دیر کرتے ہو۔ تم دیر کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

(حَتَّى) تَسْتَأْنِسُوا = تم مانوس ہوتے ہو۔ یہاں تک کہ تم اجازت لو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر۔ "نون" محذوف حَتَّى کی وجہ سے)

تَسْتَبْدِلُونَ = تم بدلتے ہو۔ تم بدلو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَسْتَبِينُ = وہ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ ظاہر کرے گی۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تَسْتَجِزُونَ = تم چھپتے ہو۔ تم چھپو گے۔

(مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْتَجِيبُونَ = تم جواب دیتے ہو۔ تم جواب دو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْتَخْرِجُونَ = تم نکالتے ہو۔ تم نکالو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْتَحْفُونَ = تم ہلکا جانتے ہو۔ تم ہلکا جانو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

(أَنْ) تَسْتَرْضِعُونَ = تم دودھ پلواؤ۔ (مضارع بمعنی امر- جمع مذکر حاضر)

(لَمْ) تَسْتَطِيعَ = تو نے طاقت نہ رکھی۔ (نفی جحد- واحد مذکر حاضر)

(لَنْ) تَسْتَطِيعَ = تو ہرگز طاقت نہ رکھ سکے گا۔ (نفی بہ لن- واحد مذکر حاضر)

تَسْتَطِيعُونَ = تم طاقت رکھتے ہو۔ تم طاقت رکھو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْتَعْجِلُ = تو جلدی کرتا ہے۔ تو جلدی کرے گا۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)

تَسْتَعْجِلُونَ = تم جلدی کرتے ہو۔ تم جلدی کرو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْتَغْفِرُ = تو بخشش مانگتا ہے۔ تو بخشش مانگے گا۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)

تَسْتَغْفِرُونَ = تم بخشش مانگتے ہو۔ تم بخشش مانگو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْتَفْرِضُونَ = تم فریاد کرتے ہو۔ تم فریاد کرو

گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَسْتَفْتِ = تو مت پوچھ۔ (فعل نہی- واحد مذکر حاضر)

(إِنْ) تَسْتَفْتِحُونَ = اگر تم فتح طلب کرتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر- اِنْ شرطیہ کی وجہ سے "نون" حذف ہے۔)

تَسْتَفْتِيَانِ = تم دونوں فتویٰ چاہتے ہو۔ تم دونوں فتویٰ چاہو گے۔ (مضارع- تثنیہ مذکر حاضر)

تَسْتَقْدِمُونَ = تم جلدی کرتے ہو۔ تم جلدی کرو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

(أَنْ) تَسْتَقْسِمُوا = یہ کہ تم قسمت معلوم کرو۔ تم بانٹتے ہو۔ تم بانٹو گے۔ تم تقسیم کرتے ہو۔ تم تقسیم کرو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْتَكْبِرُونَ = تم غرور کرتے ہو۔ تم غرور کرو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْتَكْثِرُونَ = تو بہت طلب کرتا ہے۔ تو بہت طلب کرے گا۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)

تَسْتَمِعُونَ = تم خوب سنتے ہو۔ تم خوب سنو گے۔ کان لگا کر سنتے ہو۔ کان لگا کر سنو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْتَوِا عَالِي = تم سوار ہو جاؤ۔ (مضارع بمعنی امر- جمع مذکر حاضر)

تَسْتَوِي = وہ برابر ہوتی ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب)

تَسْتَهْزِئُ وَنْ = تم ٹھٹھا کرتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْجُدُ = تو سجدہ کرتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)

تَسْجُدُوا = تم سجدہ کرتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْحَرُ = تو جادو کرتا ہے۔ تو جادو کرے گا۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)

تَسْحَرُونَ = تم جادو کرتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْحَرُونَ = تم ہنستے ہو۔ تم مذاق اڑاتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْرُ = وہ خوش کرتی ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب)

تَسْرَحُونَ = تم صبح کے وقت چرانے کے لئے لے جاتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَسْرِفُوا = تم اسراف مت کرو۔ فضول خرچی مت کرو۔ (فعل نہی- جمع مذکر حاضر)

تَسْرِوْنَ = تم چھپاتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْرِيحُ = رخصت کرنا۔ (اسم مصدر)

تَسْعُ = نو۔ (9) (اسم عدد- مذکر)

تَسْعَةٌ = نو۔ (9) (اسم عدد- مونث)

تِسْعَةَ عَشَرَ = اٹیس۔ (19) (اسم عدد)

تَسْعُونَ = نوے۔ (90) (اسم عدد)

تَسْعَى = تو دوڑتا ہے۔ وہ کوشش کرتی ہے۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر/ واحد مونث غائب)

تَسْفِكُونَ = تم خوزیزی کرو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَسْقُطُ = وہ گرتی ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب)

تُسْقِطُ = تو گرائے گا۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)

تُسْقَى = وہ پلائی جائے گی۔ (مضارع مجہول- واحد مونث غائب)

تَسْقَى = وہ پلائی ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب)

(لَمْ) تُسْكِنُ = وہ نہیں بسائی گئی۔ (فعلی بلم مجہول- واحد مونث غائب)

تَسْكُنُوا = تم آرام پاؤ۔ (مضارع منصوب- جمع مذکر حاضر)

تَسْكُنُونَ = تم آرام پکڑتے ہو۔ تم سکون حاصل کرتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

(لِ) تَسْلُكُوا = چلو پھرو۔ (مضارع منصوب- جمع مذکر حاضر)

(حَتَّى) تُسَلِّمُوا = یہاں تک کہ تم سلام کرو۔ (مضارع منصوب- جمع مذکر حاضر- حَتَّى کی

وجہ سے نون حذف ہے۔)

تَسْلِيْمَةٌ = سلام کرنا۔ فرمانبرداری بجا لانا۔

(اسم مصدر)

تَسْمَعُ = تو سنتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر)

تُسْمِعُ = تو سناتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر)

تَسْمَعُونَ = تم سنتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر

حاضر)

تُسَمَّى = اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ (مضارع

مجمول۔ واحد مونث غائب)

تَسْمِيَةٌ = نام رکھنا۔ (اسم مصدر)

تَسْنِيْمٌ = جنت کے ایک چشمے کا نام۔ جس کا

پانی نہایت لذیذ اور خوشبودار ہے۔ (اسم۔ ظرف

مکان)

تَسْوَأٌ = وہ بری لگتی ہے۔ (مضارع۔ واحد

مونث غائب)

تَسْوَى = وہ برابر کر دی جاتی ہے۔ وہ برابر

کردی جائے گی۔ (مضارع مجمل۔ واحد مونث

غائب)

تَسْوَدُّ = وہ سیاہ ہوگی۔ (مضارع۔ واحد مونث

غائب)

تَسْوَرُوا = وہ دیوار پر چڑھے۔ (ماضی۔ جمع

مذکر غائب)

تَسِيْرٌ = وہ چلے گی۔ تو چلے پھرے۔ (مضارع۔

واحد مونث غائب۔ واحد مذکر حاضر)

تَسِيْمُونَ = تم چراتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر

حاضر)

ت - ش

تَشَاءُ = تو چاہتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر)

تَشَاءُونَ = تم چاہتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر

حاضر)

تَشَابَهٌ = وہ شبہ میں پڑا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

تَشَابَهْتُ = وہ مشابہ ہوئی۔ (ماضی۔ واحد

مونث غائب)

تَشَاقُّوْنَ = تم ضد کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر)

تَشَاوَرُ = آپس میں مشورہ کرنا۔ (اسم مصدر)

(لَا) تَشْتَرُوا = تم نہ مول لو۔ تم مت خریدو۔

(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَشْتَكِي = وہ شکوہ کرتی ہے۔ (مضارع۔ واحد

مونث غائب)

تَشْتَهِي = وہ چاہتی ہے۔ (مضارع۔ واحد

مونث غائب)

تَشْخِصٌ = پتھرا جائیں گے۔ تکلی بندھے

تَشِينُغُ = وہ پھیلتی ہے۔ یہ کہ پھیلے۔ (مضارع۔
واحد مونث غائب)

ت-ص

(لَا) تَصَاحِبُ = تو نہ ساتھ رہ۔ (نہی۔ واحد
مذکر حاضر)

تُصْبِحُ = تو صبح کو ہو جائے۔ (مضارع۔ واحد
مذکر حاضر)

تُصْبِحُونَ = تم صبح کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)

تَصْبِرُ = تو صبر کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر
حاضر)

تَصْبِرُونَ = تم صبر کرو گے۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)

تَصَدَّى = تو روکتا ہے۔ تو درپے ہوتا ہے۔
(مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَصَدَّقَ = اس نے صدقہ کیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

تَصَدَّقْ = تو صدقہ کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

تَصَدَّقُوا = تم صدقہ کرو۔ (امر۔ جمع مذکر
حاضر)

تُصَدِّقُونَ = تم تصدیق کرتے ہو۔ (مضارع۔
جمع مذکر حاضر)

گی۔ کھوئے گی۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)
تَشْرَبُونَ = تم پیتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر
حاضر)

(لَا) تَشْرِكُ = تو مت شریک ٹھہرا۔ (نہی۔ واحد
مذکر حاضر)

تُشْرِكُونَ = تم شریک بناتے ہو۔ (مضارع۔
جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَشْطِطُ = تو زیادتی نہ کر۔ (نہی۔ واحد
مذکر حاضر)

تَشْعُرُونَ = تم شعور رکھتے ہو۔ سمجھتے ہو۔
(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَشْفَى = تو مشقت میں پڑے گا۔ (مضارع۔
واحد مذکر حاضر)

تَشْفُقُ = وہ پھنسنے لگی۔ (مضارع۔ واحد مونث
تَشْهَدُونَ = تم گواہی دیتے ہو۔ (مضارع۔
جمع مذکر حاضر)

تَشْكُرُونَ = تم شکر کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)

(لَا) تَشْمِثُ = تو دشمن کو خوش مت کر۔
(فعل نہی۔ واحد مذکر حاضر)

تَشْهَدُ = وہ حاضر ہوتی ہے۔ تو حاضر ہوتا
ہے۔ وہ گواہی دیتی ہے۔ تو گواہی دیتا ہے۔
(مضارع۔ واحد مونث غائب۔ واحد مذکر حاضر)

تَصَلَّى = وہ پنیے گی۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

(إِنْ) تُصَلِّحُوا = تم صلح کراؤ۔ (مضارع بمعنی امر۔ جمع مذکر حاضر۔ إِنْ کی وجہ سے ”نون“ محذوف ہے۔)

تَصَلَّى = تو نماز پڑھتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَصَلِّيَّة = پینچنا۔ (اسم مصدر)

تَصْنَعُ = تو کرتا ہے۔ تو بناتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَصْنَعُونَ = تم کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

(أَنْ) تَصُومُوا = تم روزہ رکھو۔ (مضارع بمعنی امر۔ جمع مذکر حاضر)

تَصِيبُ = وہ پہنچتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تَصِيبُوا = یہ کہ تم جا پڑو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر۔ إِنْ کی وجہ سے ”نون“ محذوف ہے۔)

تَصِيْرٌ = وہ پھرتی ہے۔ تو پھرتا ہے۔ وہ چلتی ہے۔ تو چلتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب۔)

واحد مذکر حاضر

تُصَدُّونَ = تم روکتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَصْدِيَّة = تالی بجانا۔ (اسم مصدر)

تَصْدِيقٌ = تصدیق کرنا۔ (اسم مصدر)

تَصْرِفٌ = تو پھیرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تُصْرِفُونَ = تم پھیرے جاؤ گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر حاضر)

تَصْرِيفٌ = پھیرنا۔ (اسم مصدر)

تَصْطَلُونَ = تم تاپتے ہو۔ تم تاپو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تُضْعِدُونَ = تم چڑھتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

(لَا) تُضْعِعُوا = تو مت پھلا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَصْغِيٌّ = ٹیڑھی ہوئیں۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تَصِفُ = وہ بیان کرتی ہے۔ وہ وصف کرتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

(إِنْ) تَصْفَحُوا = اگر تم در گزر کرو۔ (مضارع بمعنی امر۔ جمع مذکر حاضر۔ إِنْ کی وجہ سے ”نون“ محذوف ہے۔)

تَصِفُونَ = تم بیان کرتے ہو۔ تم وصف کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

ت-ض

(لَا) تَضَارَّ = نہ نقصان پہنچایا جائے۔ (فعل نسبی)
 مجول۔ واحد مونث غائب)

(لَا) تَضَارَّوْا = تم ایذا مت دو۔ (فعل نسبی)
 جمع مذکر حاضر

(لَا) تَضْحَى = تو دھوپ نہ کھائے گا۔
 (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَضْحَكُونَ = تم ہنستے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر)
 حاضر

(لَا) تَضْرِبُوا = مت بیان کرو۔ (مضارع۔ جمع)
 مذکر حاضر

تَضَرَّعَ = گڑگڑاتا۔ (اسم مصدر)
 تَضَرَّعَ = وہ گڑگڑایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَضَرَّعُوا = وہ گڑگڑائے۔ (ماضی۔ جمع مذکر)
 غائب

(لَا) تَضُرُّونَ = تم نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔
 (مضارع نسبی۔ جمع مذکر حاضر)

تَضَعُ = وہ رکھتی ہے۔ وہ جنتی ہے۔
 (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تَضَعُونَ = تم رکھتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر)
 حاضر

(أَنْ) تَضِلَّ = تو بھول جائے۔ وہ بھول جائے۔
 وہ بھگ جائے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر/ واحد)

مونث غائب) حاضر
 تَضِلُّ = تو گمراہ کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر)

(أَنْ) تَضِلُّوا = یہ کہ تم بھگے جاؤ۔ تم گمراہ
 ہو جاؤ۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَضَيَّقُوا = تم تنگ کرو گے۔ (مضارع)
 منصوب۔ جمع مذکر حاضر

تَضَلَّلِ = گمراہ کرنا۔ غلطی میں ڈالنا۔ (اسم)
 مصدر

ت-ط

تَطْفُؤُوا = تم کچلتے ہو۔ تم پیس ڈالتے ہو۔ تم
 جماع کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر۔ اِنِّ کی)

وجہ سے "نون" محذوف ہے۔

الْوَطْأُ = کھلنا۔ جماع کرنا۔ (اسم مصدر)
 تَطَاوَلَ = وہ لبا ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَطَلَّوْا = تو ہانکتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر)
 حاضر

(لَا) تَطَلَّوْا = تو نہ دفع کر۔ (نسبی۔ واحد مذکر)
 حاضر

(أَنْ) تُطِغَ = تو تابعداری کرے۔ (مضارع)
 مجزوم۔ واحد مذکر حاضر۔ اِنِّ کی وجہ سے "نون"

ساکن ہے۔

(لَا) تُطِغَ = تو مت اطاعت کر۔ (نسبی۔ واحد)
 مذکر حاضر

تُطْعَمُونَ = تم کھلاتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر)
 حاضر

(لَا) تَطْعَمُوا = تم سرکشی مت کرو۔ (فعل نفی۔

(مضارع۔ تثنیہ مذکر حاضر) جمع مذکر حاضر

تَطَّلَعُ = وہ جھانکے گی۔ تو خبردار ہوتا ہے۔

(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَطْمَئِنُّ = وہ آرام پکڑتی ہے۔ (مضارع۔

تَطَاهِرُونَ = تم ٹھہار کرتے ہو۔ یعنی عورت

واحد مونث غائب۔ واحد مذکر حاضر)

کو ماں بہن کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو۔ اس سے

عورت مرد کے لئے حرام ہو جاتی ہے اور کفارہ

دینے بغیر حلال نہیں ہوتی۔

تُظْمَعُونَ = تم طمع رکھتے ہو۔ تم طمع کرتے

تُظَلِّمُ = وہ ظلم کی جائے گی۔ تو ظلم کیا جائے

ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مونث غائب۔ واحد مذکر

تَطَوَّعَ = اس نے اپنی خوشی سے کیا۔ (اعمال

حاضر)

حسن) (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

لَمْ) تَطْلِمُ = اس نے ظلم نہیں کیا۔ اس

تُظَهِّرُ = تو پاک کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر

نے نہیں گھٹایا۔ (نفی بلم۔ واحد مونث غائب)

حاضر)

تُظَلِّمُونَ = تم ظلم کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع

تَطَهَّرْنَ = وہ پاک ہوئیں۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر)

مونث غائب)

تُظَلِّمُونَ = تم ظلم کئے جاؤ گے۔ (مضارع

تُظَهِّرِ = پاک کرنا۔ (اسم مصدر)

مجہول۔ جمع مذکر حاضر)

تَطَيَّرْنَا = ہم نے بدگلوئی سمجھی۔ (ماضی۔ جمع

مستکم)

(إِنْ) تُطِيعُوا = تم اطاعت کرو گے۔ (مضارع۔

تَطْمَأُنُّ = تو پیاسا نہ ہوگا۔ (فعل نفی۔ واحد

جمع مذکر حاضر۔ اِنْ شرطیہ کی وجہ سے "نون"

ساقط ہے۔)

تُظَنُّ = تو گمان کرتا ہے۔ وہ گمان کرتی ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر / واحد مونث غائب)

تُظَهِّرُونَ = تم ظہر کرتے ہو۔ تم دوپہر کرتے

ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

ت-ظ

تَظَاهَرَا = تم دونوں نے آپس میں مدد کی۔

ت-ع

(ل) تَعَارَفُوا = تم آپس میں ایک دوسرے کو

پچانوں۔ (مضارع منصوب۔ جمع مذکر حاضر)

تَعَاَسَرْتُمْ = تم نے ایک دوسرے سے ضد

کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

تَعَاطَى = اس نے ہاتھ چلایا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

تَعَالَى = وہ اونچا ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَعَالَوْا = تم سب مرد آؤ۔ (امر۔ جمع مذکر

حاضر)

تَعْلُونَ = تم زور کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر)

تَعَالَيْنَ = تم سب عورتیں آؤ۔ (امر۔ جمع

مونث حاضر)

تَعْبَثُونَ = تم کھیلتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر

حاضر)

تَعْبُدُ = وہ پوجتی ہے۔ تو پوجتا ہے۔ (مضارع۔

واحد مونث غائب۔ واحد مذکر حاضر)

تَعْبُدُونَ = تم پوجتے ہو۔ تم پوجو گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَعْبُرُونَ = تم تعبیر کرتے ہو۔ تم بیان کرتے

ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَعْتَدُونَ = تم حد سے بڑھتے ہو۔ (مضارع۔

جمع مذکر حاضر)

تَعْتَدُونَ = تم عدت میں بیٹھواتے ہو۔ تم

عدت پوری کرو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَعْتَذِرُونَ = تم عذر کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر)

تَعْتَفُوا = تم فساد کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر

حاضر)

(لَا) تَعْتَفُوا = تم فساد مت کرو۔ (نہی۔ جمع مذکر

حاضر)

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ = زمین میں خرابی

کرتے ہوئے مت پھرو۔ (صفت تجرید ہے یعنی

تَعْتَفُوا کے معنی صرف پھرنے کے لئے) تم زمین

میں فساد نہ کرو۔ مُفْسِدِينَ حال ہے جو کہ

لَا تَعْتَفُوا کی تاکید کرتا ہے۔ (اسم جمع سالم۔ بحالت

نصی و جری)

(إِنْ) تَعَجَّبَ = اگر تو تعجب کرتا ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تُعْجِبُ = تو تعجب میں ڈالتا ہے۔ وہ خوش

کرتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد مونث

غائب)

تَعَجَّبُونَ = تم تعجب کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر)

تَعَجَّيْبِنَ = تو تعجب کرتی ہے۔ (مضارع۔

واحد مونث حاضر)

تَعَجَّلَ = اس نے جلدی کی۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

(لَا) تَعَجَّلْ = تو جلدی مت کر۔ (فعل نہی۔

واحد مذکر حاضر)

(لَا) تَعَدُّ = وہ نہ پھرے۔ وہ نہ دوڑے۔ (فعل

نہی۔ واحد مونث غائب)

تَعَدُّ = تو وعدہ کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر)

تَعْدَانِ = تم دونوں وعدہ دیتے ہو۔ (مضارع۔

تثنیہ مذکر حاضر)

تَعْدِلْ = اس نے فدیہ دیا۔ تو انصاف کرنا

ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب۔ واحد مذکر

حاضر)

تَعْدِلُوا = تم انصاف کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر۔

اِن کی وجہ سے ”نون“ محذوف ہے۔)

(لَا) تَعْدُوا = تم مت زیادتی کرو۔ (فعل نہی۔

جمع مذکر حاضر)

تَعْدُونَ = تم گنتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر

حاضر)

تُعَذِّبُ = تو عذاب کرتا ہے۔ تو عذاب کرے

گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَعْزَى = تو ننگا ہوگا۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر)

تَعْزُجُ = وہ چڑھتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث

غائب)

تُعْرِضُ = تو منہ پھیرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر حاضر)

تُعْرِضُوا = تم منہ پھیرو گے۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر) عامل کی وجہ سے ”نون“ گرا ہوا

ہے۔)

تُعْرِضُونَ = تم حاضر کئے جاؤ گے۔ تم روبرو

پیش کئے جاؤ گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر حاضر)

تَعْرِفُ = تو پہچانتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر)

تَعْرِفُونَ = تم پہچانتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر

حاضر)

تَعْرِيفُ = خبردار کرنا۔ معلوم کرنا۔ (اسم

مصدر)

تُعِزُّ = تو عزت دیتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر)

تُعِزُّوْا = تم مدد کرو گے۔ (مضارع منصوب۔

جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَعْرِضُوا = تم مت قصد کرو۔ تم مت

ارادہ کرو۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)

تَعْسًا = ہلاک ہونا۔ منہ کے بل گرتا۔ (اسم

مصدر)

(لَا) تَعْضُلُوا = تم مت روکو۔ (فعل نہی۔ جمع

مذکر حاضر)

تَعِظُونَ = تم نصیحت کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر)

تَعْمَلُونَ = تم کام کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)

تَعُوذُونَ = تم پھرتے ہو۔ تم لوٹتے ہو۔
(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

أَنْ لَا تَعُولُوا = تم مت ناانصافی کرو۔ (فعل
نہی۔ جمع مذکر حاضر)

تَعْبَى = وہ یاد رکھے۔ تو نگاہ رکھے۔ (مضارع۔
واحد مؤنث غائب / واحد مذکر حاضر)

ت-غ

تَعَابُنْ = ہار جیت۔ (اسم مصدر)

يَوْمَ التَّعَابُنْ = روز قیامت۔ (مركب اضافی)
حَتَّى تَغْتَسِلُوا = تم غسل کرتے ہو۔

(مضارع منصوب۔ جمع مذکر حاضر۔ نون ساقط ہے۔)
تَغْرُبُ = تو فریب دیتا ہے۔ وہ فریب دیتی ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر / واحد مؤنث غائب)
تَغْرُبُ = تو ڈوبتا ہے وہ ڈوبتی ہے۔ (مضارع۔

واحد مذکر حاضر / واحد مؤنث غائب)
تُغْرِقُ = تو غرق کرے گا۔ وہ غرق ہوئی۔

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر / واحد مؤنث غائب)
تَغْشَى = تو ڈھانپے گا۔ وہ ڈھانک لیتی ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر)
تَغْشَى = اس نے ڈھانپا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

تَعَفُّفٌ = پرہیزگاری۔ سوال کرنے سے پرہیز
کرنا۔ (اسم مصدر)

وَ إِنْ تَعَفُّوا = اگر تم معاف کرو۔ (مضارع
مجزوم۔ جمع مذکر حاضر)

تَعْقِلُونَ = تم عقل رکھتے ہو۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)

تَعْلَمُ = وہ جانتی ہے۔ تو جانتا ہے۔ (مضارع۔
واحد مؤنث غائب۔ واحد مذکر حاضر)

تُعَلِّمُ = تو سکھاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر
حاضر)

تَعْلَمُونَ = تم جانتے ہو۔ تم جانو گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تُعَلِّمُونَ = تم سکھاتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر
حاضر)

تُعْلِنُونَ = تم ظاہر کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)

(لَا) تَعْلُوا = تم مت سرکشی کرو۔ (فعل نہی۔
جمع مذکر حاضر)

تَعْمَى = وہ اندھی ہوتی ہے۔ (مضارع۔ واحد
مؤنث غائب)

تَعَمَّدَتْ = اس نے ارادے سے کیا۔ اس
نے عملاً کیا۔ (مضارع۔ واحد مؤنث غائب)

تَعْمَلُ = وہ کام کرے گی۔ تو کام کرے گا۔
(مضارع۔ واحد مؤنث غائب۔ واحد مذکر حاضر)

ت-ف

حاضر

تَغْفِرُ = تو معاف کرتا ہے۔ (مضارع- واحد)

مذکر حاضر

تَغْفِرُوا = تم بخش دو۔ (مضارع بمعنی امر- جمع)

مذکر حاضر- نون مجزوم یا منصوب ہونے کی وجہ

سے ساقط ہے۔)

تَغْفُلُونَ = تم غافل ہو گے۔ (مضارع- جمع مذکر

حاضر)

تَغْلِبُونَ = تم غالب ہو گے۔ (مضارع- جمع

مذکر حاضر)

(لَا) تَغْلُوا = تم زیادتی مت کرو۔ (فعل نہی-

جمع مذکر حاضر)

(أَنْ) تَغْمِضُوا = تم بند کرو۔ تم چشم پوشی

کرو۔ (مضارع منصوب- جمع مذکر حاضر)

تُغْنِ = تو کام آیا۔ تو کام آئے گا۔ وہ کام آتی

ہے۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر- واحد مونث غائب)

(لَمْ) تُغْنِ = وہ نہ تھی۔ وہ نہیں آباد ہوئی۔

(مضارع- واحد مونث غائب- بوجہ لَمْ "ی" گر

گئی۔)

تُغْنِي = وہ کام آئے گی۔ (مضارع- واحد

مونث غائب)

تَغِيضُ = وہ کم کرتی ہے۔ وہ گھٹاتی ہے۔

(مضارع- واحد مونث غائب)

تَغِيظُ = جھنجھلاانا۔ (اسم مصدر)

تَفَاخُرٌ = فخر کرنا۔ بڑائی کرنا۔ (اسم مصدر)

تَفَادُونَ = تم فدیہ دیتے ہو۔ (مضارع- جمع

مذکر حاضر)

تَفَاوُتٌ = فرق- قیاس۔ (اسم مصدر)

تَفْتُوْا = تو ہمیشہ رہے گا۔ (فعل ناقص- واحد

مذکر حاضر)

تُفْتَحُ = وہ کھولی جائے گی۔ (مضارع مجہول-

واحد مونث غائب)

تَفْتَرُونَ = تم بتان باندھتے ہو۔ (مضارع- جمع

مذکر حاضر)

تَفْتَرِيْ = تو بتان باندھتا ہے۔ (مضارع-

واحد مذکر حاضر)

(لَا) تَفْتِنُ = تو فتنے میں نہ ڈال۔ (فعل نہی-

واحد مذکر حاضر)

تُفْتَنُونَ = تم آزمائے جاؤ گے۔ (مضارع

مجہول- جمع مذکر حاضر)

تَفْتٌ = میل۔ (اسم مشتق)

تَفْجُرُ = تو چیر ڈالے گا۔ (مضارع- واحد مذکر

حاضر)

تَفْجِرُ = تو بہالے جائے۔ (مضارع- واحد مذکر

حاضر)

تَفَجَّيْرًا = بنا۔ (اسم مصدر)	تَفَسَّلُوا = تم نامردی کرو گے۔ تم پھسل جاؤ گے۔ (مضارع منصوب۔ جمع مذکر حاضر)
(لَا) تَفْرُحْ = تو مت خوش ہو۔ (فعل نہی۔ واحد مذکر حاضر)	تَفْصِيلُ = بیان کرنا۔ (اسم مصدر)
(لَا) تَفْرَحُوا = تم نہ اترادو۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)	تَفْصِيلٌ = بزرگی دینا۔ بڑائی دینا۔ (اسم مصدر)
تَفْرِضُوا = تم ٹھہراؤ۔ تم مقرر کرو۔ (مضارع منصوب۔ جمع مذکر حاضر)	تَفَعَّلُ = تو کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)
تَفَرَّقْ = وہ پر اگندہ ہو۔ وہ پھوٹ پڑا (ماضی۔ واحد مذکر غائب)	تَفْعَلُونَ = تم کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
(لَا) تَفَرَّقُوا = الگ الگ مت ہو جاؤ۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)	تَفَقَّدَ = اس نے تلاش کیا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
تَفَرُّونَ = تم بھاگتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)	تَفَقِّدُونَ = تم تلاش کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
تَفَرِّقْ = جدا کرنا۔ (اسم مصدر)	تَفَقَّهُونَ = تم سمجھتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
تَفَسَّحُوا = کھل کر بیٹھو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)	تَفَكَّهُونَ = تم باتیں بناتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
تُفْسِدُونَ = تم فساد کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)	تُفْلِحُونَ = تم کامیاب ہو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
تَفْسِقُونَ = تم فسق کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)	لَوْ لَا أَنْ تَفْتَدُونَ = اگر تم نہ سمجھو مجھ کو بکا ہوا۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر۔ یائے مکمل گری ہوئی ہے۔)
تَفْسِيرٌ = کھول کر کہنا۔ (اسم مصدر)	تَفْوُزٌ = وہ جوش مارتی ہے۔ وہ اہلی ہے۔
(أَنْ) تَفْسَلًا = وہ دونوں نامردی کریں گے۔ (مضارع۔ تنزیہ مونث غائب۔ أَنْ کی وجہ سے "نون" ساقط ہے۔)	

(مضارع- واحد مونث غائب)

تَفَيَّحَ = وہ پھر آئے۔ رجوع کرے گی۔

(مضارع- واحد مونث غائب)

تَفَيَّحُصُّ = وہ بہتی ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب)

(غائب)

تَفَيَّحُضُونُ = تم بات شروع کرتے ہو۔ تم

باتوں میں بیٹھتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

ت-ق

تَقَاةٌ = بچنا۔ (اسم مصدر)

تُقَاتِلُ = وہ لڑائی کرتی ہے۔ قتال کرتی ہے۔

(مضارع- واحد مونث غائب)

تُقَاتِلُونَ = تم لڑائی کرو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

(مضارع- واحد مونث غائب)

تُقَاسِمُوا = تم آپس میں قسم کھاؤ۔ (امر- جمع مذکر حاضر)

(مضارع- واحد مونث غائب)

تُقْبَلُ = وہ قبول کی جائے گی۔ (مضارع- مجہول- واحد مونث غائب)

(مضارع- واحد مونث غائب)

تُقَبَّلَ = اس نے قبول کیا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

(مضارع- واحد مونث غائب)

تُقْبَلِ = اسے قبول کیا گیا۔ (ماضی مجہول- واحد مذکر غائب)

(مضارع- واحد مونث غائب)

تُقَبَّلُ = تو قبول کر۔ (امر- واحد مذکر حاضر)

(لَا) تُقْبَلُوا = تم مت قبول کرو۔ (نہی- جمع)

جمع مذکر حاضر

تَقْتُلُ = تو قتل کرے گا۔ وہ قتل کرے گی۔

(مضارع- واحد مذکر حاضر/ واحد مونث غائب)

تَقْتُلُونَ = تم قتل کرتے ہو۔ تم قتل کرو گے۔

(مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَقْتِيلٌ = جان سے مار ڈالنا۔ (اسم مصدر)

تَقْدِرُوا = تم قادر ہو گے۔ (مضارع منصوب- جمع مذکر حاضر)

(مضارع- واحد مونث غائب)

تَقْدِيرٌ = ثابت کرنا۔ اندازہ کرنا۔ (اسم مصدر)

تَقَدَّمَ = وہ آگے ہوا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

(لَا) تَقَدَّمُوا = تم مت آگے بڑھو۔ (نہی- جمع مذکر حاضر)

(مضارع- واحد مونث غائب)

تَقَرَّبَ = وہ قرار پکڑتی ہے۔ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب- کئی کی وجہ سے آخر منصوب ہے۔)

(مضارع- واحد مونث غائب)

تَقَرَّبُوا = تو نزدیک کرو۔ (مضارع- واحد مونث غائب)

تَقَرَّبُ = تو پڑھتا ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب)

(مضارع- واحد مونث غائب)

تَقَرَّبْتُ = تو نزدیک کی جاتی ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب)

(مضارع- واحد مونث غائب)

(لَا) تَقَرَّبْنَا = تم دونوں مت نزدیک جاؤ۔ (نہی- جمع)

(مضارع- واحد مونث غائب)

تَقَرَّبْنَا = تم دونوں مت نزدیک نہ جاؤ۔ (نہی- جمع)

(مضارع- واحد مونث غائب)

(لَا) تَقَرَّبُوا = تم نزدیک نہ جاؤ۔ (نہی- جمع)

ذکر حاضر

تَقْرِيضٌ = وہ کاشتی ہے۔ وہ کتراجاتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

(أَنْ) تُقْرِضُونَا = تم ادھار دو۔ تم قرض دو۔ (مضارع مجزوم۔ جمع مذکر حاضر)

(أَنْ) تُقْسِمُوا = تم انصاف کرو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر۔ نون گر گیا بوجہ منصوب ہونے کے۔)

تُقْسِمُونَا = تم قسم کھاؤ۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر۔ نون گر گیا بوجہ مجزوم یا منصوب کے۔)

تُقَشِّعِرُوْا = بال کھڑے ہوتے ہیں۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

(أَنْ) تَقْضُرُوا = تم کم کر دو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر۔ اُن کی وجہ سے ”نون“ گر گیا۔)

(لَا) تَقْضُصْ = تو مت بیان کر۔ (فعل نہی۔ واحد مذکر حاضر)

تَقْصِرُ = کام میں کمی کرنا۔ بال چھوٹے کرنا۔ نماز کم کرنا۔ یعنی سفر میں بجائے چار رکعت کے دو رکعت پڑھنا۔ (اسم مصدر)

تَقْضِيْ = تو حکم کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تَقْطَعُ = وہ کٹ گیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَقَطَّعُ = وہ کھڑے کھڑے ہو جائے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب۔ اصل میں تَتَقَطَّعُ)

تھا۔ ایک ”ت“ حذف ہوگئی)

تَقَطَّعَتْ = وہ کٹ گئی۔ کھڑے کھڑے ہو گئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

تَقَطَّعُوا = انہوں نے کٹا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

تَقَطَّعُونَ = تم کاتے ہو۔ تم کٹو گے۔ تم راہزنی کرتے ہو۔ تم راہزنی کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَقَطِّعُونَ = تم کھڑے کھڑے کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَقْفَعُ = وہ گر پڑی۔ تو گر پڑا۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب۔ واحد مذکر حاضر)

تَقْعُدُ = تو بیٹھے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

(لَا) تَقْعُدُوا = تم مت بیٹھو۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَقْفُفْ = تو پیچھے نہ پڑ۔ (فعل نہی۔ واحد مذکر حاضر)

تَقَلَّبُ = وہ اوندھی کی جائے گی۔ (مضارع مجہول۔ واحد مونث غائب)

تَقَلَّبُ = اٹلنا پلٹنا۔ (اسم مصدر)

تَقْلِبُونَ = تم پھیرے جاؤ گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر حاضر)

(لِ) تَقْتُمُ = وہ کھڑی ہو۔ (مضارع بمعنی امر۔ واحد مونث غائب)

ت-ک

(لَا) تَقْنَطُوا = تم ناامید مت ہو جاؤ۔ (نہی۔
جمع مذکر حاضر

(اِنْ) تَكُ = اگر وہ ہوئی۔ (مضارع۔ واحد
مونث غائب۔ ”نون“ گر گیا ہے۔)

تَقْوَى = پرہیز گاری۔ ارب۔ ڈر۔ (اسم مشتق)
تَقْوَل = وہ بنا لایا۔ جھوٹ باندھا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

تَكَاتُر = مال کی زیادتی۔ (اسم مصدر)
تَكَادُ = تو نزدیک ہے۔ وہ نزدیک ہے۔
(مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد مونث غائب)

تَقُولُ = وہ کہتی ہے۔ تو کہتا ہے۔ (مضارع۔
واحد مونث غائب۔ واحد مذکر حاضر)

(اِ) تَكْتَبُوا = تاکہ تم بڑائی کرو۔ (مضارع۔
جمع مذکر حاضر۔ لام کئی کی وجہ سے نون گر گیا
ہے۔)

تَقُولُونَ = تم کہتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر
حاضر)
تَقْرُؤُ = تو کھڑا ہوتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر
حاضر)

تَكْتَبِر = بڑائی کرتا۔ (اسم مصدر)
تُكْتَبُ = وہ لکھی جائے گی۔ (مضارع مجہول۔
واحد مونث غائب)

(اَنْ) تَقْوُمُوا = تم کھڑے ہو۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر۔ اَنْ کی وجہ سے ”نون“ گر گیا ہے۔)

تَكْتَبُوا = تم لکھو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر
حاضر۔ منصوب کی وجہ سے ”نون“ گر گیا ہے۔)

تَقْوِيمٌ = سیدھا کرتا۔ جوڑ بند۔ اندازے کے
ساتھ۔ (اسم مصدر)

تَكْتُمُوا = تم چھپاتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر
حاضر)

(لَا) تَقْهَر = تو مت ڈانٹ۔ (نہی۔ واحد مذکر
حاضر)

تَكْتُمُونَ = تم چھپاتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر
حاضر)

تَقَى = وہ بچاتی ہے۔ تو بچائے گا۔ (مضارع۔
واحد مونث غائب / واحد مذکر حاضر)

تَكْدِبَان = تم دونوں (جن و انس) جھٹلاؤ گے۔
تم دونوں چھپاؤ گے۔ (مضارع۔ تثنیہ مذکر حاضر)

تَقَى = پرہیز گار۔ (اسم واحد۔ جمع اتقیاء ہے)
تَقِيمُوا = تم قائم کرو۔ (مضارع۔ جمع مذکر
حاضر۔ منصوب یا مجزوم کی وجہ سے ”نون“ ساقط
ہے۔)

تَكْدِيبٌ = جھٹلانا۔ (اسم مصدر)
تُكْرِمُونَ = تم عزت کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)



تُكِنُّ = وہ چھپاتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تُكِنُّوْنَ = تم خزانہ کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تُكْوِي = وہ داغی جائے گی۔ (مضارع مجہول۔ واحد مونث غائب)

تُكُونُ = تو ہوگا۔ وہ ہوگی۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ واحد مونث غائب)

(أَنْ) تُكُونَا = تم دونوں ہوگے۔ (مضارع۔ تثنیہ مذکر حاضر۔ تثنیہ کا نون ناصب کی وجہ سے گر گیا ہے۔)

تُكُونُوْنَ = تم سب ہو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

ت-ل

تَلَّ = اس نے پچھاڑا۔ دے مارا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

تَلَّى = وہ پیچھے آیا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

تَلَّاقٍ = ملاقات کرنا۔ (اسم مصدر)

تِلَاوَةٌ = پڑھنا۔ (اسم مصدر)

تَلْبِثٌ = ٹھہرنا۔ (اسم مصدر)

تَلْبِثُوا = وہ ٹھہرے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

تَلْبِسُونَ = تم پہنتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تُكْرِهُ = تو مجبور کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تُكْرِهُوْنَ = تم مجبور کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تُكْرِهُوْنَ = تم برا جانتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تُكْسِبُ = وہ کماتی ہے۔ تو کماتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب۔ واحد مذکر حاضر)

تُكْسِبُونَ = تم کماتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

(لَا) تُكْفَرُ = تو منکر مت ہو۔ (نہی۔ واحد مذکر حاضر)

تُكْفَرُونَ = تم منکر ہوتے ہو۔ تم کفر کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

(لَا) تُكَلِّفُ = نہیں تکلیف دیا جاتا۔ نہیں تکلیف دی جاتی۔ (مضارع مجہول منفی۔ واحد مذکر حاضر)

تُكَلِّمُ = تو باتیں کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

تُكَلِّمُونَ = تم بات کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تُكَلِّمُوا = بات کرنا۔ (اسم مصدر)

تُكْمِلُوا = تم پورا کرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر۔ منصوب بوجہ آن)

حاضر

تَلْبَسُونَ = تم ملاتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر

مذکر حاضر

تَلْقَوْنَ = تم دیئے جاؤ گے۔ (مضارع مجہول۔

حاضر

تَلَذُّ = وہ لذت پائے گی۔ (مضارع۔ واحد

جمع مذکر حاضر

تَلْقَى = تو ڈالے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر

مونث غائب)

تَلَطَّى = وہ شعلہ مارتی ہے۔ (ماضی۔

حاضر

تَلِكْ = یہ۔ (اسم اشارہ بعید) واحد مونث کے

لئے۔

واحد مونث غائب)

تَلَطَّى = آگ کا شعلہ مارتا۔ (اسم مصدر)

تَلِكَمَا = یہ دو۔ (اسم اشارہ) شیبہ کے لئے۔

تَلِكُمْ = یہ سب۔ (اسم اشارہ) جمع کے لئے۔

تَلْفِتُ = تو پھیرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر

تَلْمِزُوا = تم مت عیب لگاؤ۔ (نہی۔ جمع

مذکر حاضر)

تَلْفُحُ = وہ جلائے گی۔ (مضارع۔ واحد مونث

غائب)

تَلَوْتُ = میں نہ پڑھتا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

تَلَوْهُوا = تم مت ملامت کرو۔ (فعل نہی۔

جمع مذکر حاضر)

تَلْقَاءَ = طرف۔ (اسم ظرف)

تُلْقَى = تو ڈالا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد

مذکر حاضر)

تَلَوْوا = تم مت موڑو زبان کو۔ (فعل

نہی۔ جمع مذکر حاضر)

تَلْقَى = اس نے سیکھا۔ اس نے ملاقات کی۔

(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَلَهَّى = تو کھیلتا ہے۔ تو غفلت کرتا ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ اصل میں تَتَلَهَّى تھا۔

تُلْقَى = تو سکھایا جاتا ہے۔ (مضارع مجہول۔

واحد مذکر حاضر)

ایک "ت" کو حذف کر دیا گیا)

تَلَهَّى = غافل نہیں کرتی۔ (فعل نہی۔ واحد

تَلْقَفُ = وہ ٹھکتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث

غائب)

مونث غائب)

تَلَيْتُ = وہ پڑھی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد

مونث غائب)

(لَا) تَلْقُوا = تم مت ڈالو۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر

حاضر)

تَلِينُ = وہ نرم ہوتی ہے۔ (مضارع۔ واحد

تَلْقُونَ = تم۔ پیغام بھیجتے ہو۔ (مضارع۔ جمع

مونث غائب

ت-م

تَمَّ = وہ پورا ہوا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

تَمَّائِيل = مورتیں۔ صورتیں۔ (اسم جمع)
(واحد تَمَّائِل ہے)

(لَا) تَمَّار = تو جھگڑا نہ کر۔ (نہی۔ واحد مذکر حاضر)

تَمَّارُوا = انہوں نے جھگڑا کیا۔ وہ شک میں پڑے ہوئے تھے ڈرانے میں۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

تَمَّارُونَ = تم شک کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَمَّام = پورا۔ (اسم مشتق)

تَمَّ = وہ پورا ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَمَّت = وہ پوری ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

تَمَّتَرُونَ = تم شک کرتے ہو۔ شبہ کرتے تھے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَمَّتَعَ = اس نے فائدہ اٹھایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَمَّتَع = تو فائدہ اٹھا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

تَمَّتَعُوا = تم فائدہ اٹھاؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

تَمَّتَعُونَ = تم فائدہ دینے جاؤ گے۔ (مضارع)

مجمول۔ جمع مذکر حاضر

تَمَثَّل = اس نے صورت حاصل کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

تَمَثَّد = تو دراز کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)

(لَا) تَمَثَّدَنَّ = نہ تم لمبا کرو۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر۔ بانون تاکید ثقیلہ)

تَمَثَّر = وہ چلتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تَمَثَّرُونَ = تم اتراتے ہو۔ تم اعراض کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَمَثَّرُونَ = تم گزرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَمَسَّ = وہ چھوتی ہے۔ تو چھوتا ہے۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب / واحد مذکر حاضر)

(لَنْ) تَمَسَّ = ہرگز نہ چھوئے گی۔ (نہی موكد معلوم۔ واحد مونث غائب)

تَمَسَّس = وہ چھوتی ہے۔ (مضارع مجزوم۔ واحد مونث غائب)

(لَا) تَمَسَّكُوا = تم نہ بند کرو۔ قبضے میں نہ رکھو۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)

تَمَسَّسُوا = تم چھوتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تَمَسَّسُونَ = تم شام کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع)

تَمْنُونٌ = تم منی ٹپکتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)	تَمَشُونٌ = تم چلتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)
تَمَوْتُ = وہ مرتی ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب)	تَمَشِي = تو چلتا ہے۔ وہ چلتی ہے۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر- واحد مونث غائب)
تَمَوْتُوْنَ = تم مرو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)	تَمَكُرُونَ = تم مکر کرتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)
تَمُورٌ = وہ کانپتی ہے۔ لرزتی ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب)	تُمَلِي = وہ لکھوائی جاتی ہے۔ (مضارع مجہول- واحد مونث غائب)
تَمَهِيذٌ = تیار کرنا۔ کام درست کرنا۔ (اسم مصدر)	تَمَلِكٌ = تو مالک ہوگا۔ وہ حکومت کرتی ہے۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر/ واحد مونث غائب)
تَمِيذٌ = وہ جھکے گی۔ (مضارع- واحد مونث غائب)	تَمَلِكُونَ = تم مالک ہو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)
تَمَيِّرٌ = وہ پھٹ پڑے۔ کھڑے کھڑے ہو جائے۔ (مضارع- واحد مونث غائب- اصل میں تَتَمَيِّرُ تھا۔ ایک "ت" کو حذف کر دیا گیا)	تُمْنِي = وہ ٹپکائی جاتی ہے۔ (مضارع مجہول- واحد مونث غائب)
(لَا) تَمِيْلُوْا = تم نہ مائل ہو جاؤ۔ تم مت جھکو۔ (نہی- جمع مذکر حاضر)	قَمِي = اس نے آرزو کی۔ احسان رکھا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)
ت-ن	
(لَا) تَنَابَرُوْا = تم نہ پکارو برے القاب سے۔ (نہی- جمع مذکر حاضر)	تَمَنَعٌ = تو منع کرے گا۔ وہ منع کرتی ہے۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر/ واحد مونث غائب)
تَنَاجَوْا = تم کان میں سرگوشی کرو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)	(لَا) تَمَنَّيْ = تو احسان نہ جتا۔ (نہی- واحد مذکر حاضر)
	تَمَنُّوْا = تم آرزو کرو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)
	تَمْنُونٌ = تم احسان کرتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَنَابُؤُكُمْ = تم نے کان میں سرگوشی کی۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)	تَنَبَّأْتُ = وہ اگتی ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب)
تَنَادَوْا = پکارنا۔ (اسم مصدر)	تَنَبَّأْتُ = وہ اگاتی ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب)
تَنَادَوْا = انہوں نے پکارا۔ مجلس میں بیٹھے۔ (ماضی- جمع مذکر غائب)	تَنَبَّأْتُمْ = تم اگاتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)
تَنَارَعْتُمْ = تم نے جھگڑا کیا۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)	تَنَبَّأْتُمْ = تم پھرتے ہو۔ تشر کرتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)
تَنَارَعُونَ = تم جھگڑتے ہو۔ تم جھگڑو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)	تَنَبَّأْتُمْ = تم دونوں بدلہ لو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)
(لَا) تَنَارَعُوا = تم مت جھگڑو آپس میں۔ (نہی- جمع مذکر حاضر)	تَنَبَّأْتُمْ = تم باز آ جاؤ۔ (مضارع بمعنی امر- جمع مذکر حاضر)
(لَا) تَنَاصَرُوا = تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو۔ (مضارع نفی- جمع مذکر حاضر)	لَسِنٌ (لَمْ) تَنْتَهَ = البتہ اگر تو باز نہ آیا۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)
تَنَالُ = وہ پہنچتی ہے۔ تو پہنچتا ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب)	تَنْتَهَوْا = تم باز نہیں آئے۔ (نہی مجد- جمع مذکر حاضر)
(لَنْ) تَنَالُوا = تم ہرگز نہ پہنچ سکو گے۔ (نہی بہ لَنْ نامب- جمع مذکر حاضر)	تَنْجِيٌّ = تو نجات دیتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)
تَنَاطُوشٌ = پہنچنا۔ (اسم مصدر)	تَنْجِيٌّ = تم تراشتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)
تَنَاهَوْا = انہوں نے آپس میں منع کیا۔ (ماضی- جمع مذکر غائب)	تَنْجِيٌّ = تو ڈراتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)
تَنَبَّأْتُ = تو خبردار کرے گا۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)	تَنْزِعٌ = تو چھینتا ہے۔ تو اکھاڑتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)
تَنَبَّأْتُ = تم خبردار کرو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)	

تَنْزِلُ = وہ اترتی ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب)

تَنْزِلُ = تو اترتا ہے یا اتارے گا۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)

تَنْزِلُ = تو اترتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)

تَنْزَلْتُ = وہ اتری۔ (ماضی- واحد مونث غائب)

تَنْزِيلُ = تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ (اسم مصدر)

(لَا) تَنْسِي = تو نہ بھولے گا۔ وہ بھولتی ہے۔ وہ بھولے گی۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر / واحد مونث غائب)

تَنْسِي = تو بھلایا جائے گا۔ وہ بھلائی جائے گی۔ (مضارع مجہول- واحد مذکر حاضر / واحد مونث غائب)

(لَا) تَنْسُوا = تم نہ بھولو۔ (نہی- جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَنْسَ = تو نہ بھول۔ (نہی- واحد مذکر حاضر)

تَنْسُونَ = تم بھولتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَنْشَقُّ = وہ پھٹے گی۔ (مضارع- واحد مونث غائب)

تَنْصُرُ = تو مدد کرتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)

(لَا) تَنْصُرُوا = تم مدد نہ کرو۔ (فعل نہی- جمع مذکر حاضر)

تَنْصُرُونَ = تم مدد دینے جاؤ گے۔ (مضارع مجہول- جمع مذکر حاضر)

تَنْصُرُونَ = تم بولتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

تَنْظُرُ = تو دیکھتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)

تَنْظُرُونَ = تم دیکھتے ہو۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَنْظُرُونَ = تم نہ ڈھیل دو مجھ کو۔ (نہی- جمع مذکر حاضر- یائے متکلم محذوف ہے۔)

تَنْفُخُ = تو پھونکتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر حاضر)

(أَنْ) تَنْفَدَ = وہ ختم ہو جائے۔ (مضارع- واحد مونث غائب- مضارع کا آخر منصوب بوجہ ان)

تَنْفُذُونَ = تم نکل بھاگو گے۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَنْفُذُوا = تم مت نکلو۔ (نہی- جمع مذکر حاضر)

(لَا) تَنْفُرُوا = تم کوچ نہ کرو۔ (فعل نہی- جمع مذکر حاضر)

تَنْفَسُ = سفید صبح ظاہر ہوئی۔ پو پھوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)	(لَا) تَنْكِحُوا = تم نکاح میں نہ دو۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)
تَنْفَعُ = وہ نفع کرے گی۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)	تُنَكِرُونَ = تم انکار کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
تُنْفِقُونَ = تم خرچ کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)	تَنْكِصُونَ = تم اٹکے پھرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
تُنْقِذُ = تو خلاص کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)	تُنَكِّيلُ = عذاب۔ سزا۔ عذاب دینا۔ (اسم صدر)
تَنْقُصُ = تو گھٹا لے۔ وہ گھٹاتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر / واحد مونث غائب)	تَنْوُءُ = وہ تھکاتی ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)
(لَا) تَنْقُضُوا = تم نہ گھٹاؤ۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)	تَنْوُرُ = نان و شیر مال پکانے کا چولہا۔ (اسم واحد)
(لَا) تَنْقُضُوا = تم نہ توڑو۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)	(لَا) تَنْهَرُ = تو مت جھڑک۔ (فعل نہی۔ واحد مذکر حاضر)
تَنْقَلِبُوا = تم پھر جاؤ گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر۔ عامل کی وجہ سے "نون" ساقل ہے۔)	تَنْهَوْنَ = تم منع کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)
تَنْقِمُ = تو عداوت رکھتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر)	تَنْهَوْنَ = تم منع کئے جاتے ہو۔ (مضارع مجمول۔ جمع مذکر حاضر)
تَنْقِمُونَ = تم دشمنی رکھتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)	تَنْهِي = تو روکتا ہے۔ وہ روکتی ہے (مضارع۔ واحد مذکر حاضر / واحد مونث غائب)
تَنْكِيحُ = وہ نکاح کرے۔ (مضارع منصوب۔ واحد مونث غائب)	(لَا) تَنْيَا = تم دونوں سستی نہ کرو۔ (فعل نہی۔ تشبیہ مذکر حاضر)
(لَا) تَنْكِحُوا = تم نکاح نہ کرو۔ (فعل نہی۔ جمع مذکر حاضر)	

تَوَابٌ = توبہ قبول کرنے والا۔ توبہ کرنے والا۔
(اسم فاعل۔ واحد مذکر)

تَوَائِبِينَ = بہت توبہ کرنے والے۔ (اسم مبالغہ۔
جمع مذکر)

(لَا) تَوَاجِدُ = تو نہ پکڑ۔ (نہی۔ واحد مذکر حاضر)
تَوَارَتْ = وہ چھپ گئی۔ (مضارع۔ واحد

مونث غائب)
تَوَاصَوْا = انہوں نے باہم وصیت کی۔ (ماضی۔

جمع مذکر غائب)
تَوَاعَدْتُمْ = تم نے باہم وعدہ کیا۔ (ماضی۔ جمع

مذکر حاضر)
(لَا) تَوَاعَدُوا = تم باہم وعدہ نہ کرو۔ (نہی۔ جمع

مذکر حاضر)
تَوَابٌ = گناہوں سے جانب خدا رجوع کرنا۔

(اسم مصدر)
تَوَابَةٌ = گناہوں سے جانب خدا رجوع کرنا۔

(اسم مصدر)
تَوَابَةُ التَّصْوُوحِ = سچی توبہ۔ صاف دل کی

توبہ۔ (مركب اضافی)
تَوَابُوا = تم توبہ کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

تَوَاتَوْنَ = تم دیتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر
حاضر)

تَوَاتَى = وہ دیتی ہے۔ تو دیتا ہے۔ (مضارع۔
واحد مونث غائب / واحد مذکر حاضر)

تَوَثَّرُونَ = تم اختیار کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)

(لَا) تَوَجَّلْ = تو نہ ڈر۔ (نہی۔ واحد مذکر حاضر)
تَوَجَّهَ = اس نے منہ پھیرا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)
تَوَدَّ = تو دوست رکھے گا۔ وہ دوست رکھے

گی۔ (مضارع۔ واحد مذکر حاضر / واحد مونث
غائب)

تَوَدُّونَ = تم دوست رکھتے ہو۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)

تَوَدُّونَ = تم تکلیف دیتے ہو۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)

تَوَزُّونَ = تم سلگاتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر
حاضر)

تَوَزَاتٌ = توریت۔ جو کتاب حضرت موسیٰ ﷺ
پر اتری۔ (اسم علم)

تَوَسَّوَسَ = وہ وسوسہ کرتی ہے۔ وسوسہ ذاتی
ہے۔ (مضارع۔ واحد مونث غائب)

تَوَصَّوْنَ = تم وصیت کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع
مذکر حاضر)

تَوَصِيَّةٌ = وصیت۔ (اسم مصدر)
تَوَعَّدُونَ = تم ڈراتے ہو۔ (مضارع۔ جمع مذکر

حاضر)
تَوَعَّدُونَ = تم وعدہ دیئے جاتے ہو۔ (مضارع

مجمول۔ جمع مذکر حاضر

تَوَعَّظُونَ = تم نصیحت کئے جاتے ہو۔

واحد متکلم

(مضارع مجمل۔ جمع مذکر حاضر)

تَوَفَّ = تو مار ڈال۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

تُوَفِّي = پورا دیا جائے گا۔ (مضارع مجمل۔

واحد مؤنث غائب)

تُوَفِّي = اس نے مارا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

تَوَفَّتْ = وہ مارتی ہے۔ (ماضی۔ واحد مؤنث

غائب)

تُؤَفِّكُونَ = تم پھیرے جاتے ہو۔ (مضارع

مجمول۔ جمع مذکر حاضر)

تُؤَفِّونَ = تم پورا دیئے جاؤ گے۔ (مضارع

مجمول۔ جمع مذکر حاضر)

تَوَفَّيْتْ = تو نے مارا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

تُوَفِّقُ = قدرت دینا۔ (اسم مصدر)

تُؤَفِّدُونَ = تم سلگاتے ہو۔ تم جلاتے ہو۔

(مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

تُؤَفِّرُوا = تم ادب کرو۔ (مضارع۔ جمع مذکر

حاضر۔ منصوب بوجہ آن)

تُؤَفِّونَ = تم یقین کرتے ہو۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر)

تَوَكَّلْ = تو بھروسا کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

تَوَكَّلْتُ = میں نے بھروسا کیا۔ (ماضی۔

حاضر)

تَوَكَّلْنَا = ہم نے بھروسا کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

تَوَكَّلُوا = تم بھروسا کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

تَوَكِّيدٌ = مضبوط کرنا۔ (اسم مصدر)

تَوَلَّى = تو پھر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

تَوَلَّى = منہ موڑا۔ پھرا۔ اٹھایا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

تَوَلَّوْا = تم پھرو۔ دوستی کرو۔ (مضارع بمعنی

امر۔ جمع مذکر حاضر)

تَوَلَّوْا = وہ پھرے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

تَوَلَّوْنَ = تم پیٹھ پھيرو گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر

حاضر)

تَوَلَّيْتُمْ = تم نے پیٹھ پھیری۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

تَوَمَّزَ = تو حکم کیا جاتا ہے۔ (مضارع مجمل۔

واحد مذکر حاضر)

تَوَمَّزُونَ = تم حکم کئے جاتے ہو۔ (مضارع

مجمول۔ جمع مذکر حاضر)

(لَمْ) تَوَمَّنْ = تو ایمان نہیں لایا۔ (نفی جحد۔

واحد مذکر حاضر)

تَوَمَّنُونَ = تم ایمان لاتے ہو۔ (مضارع۔ جمع

مذکر حاضر)

تَوَوَّجَ = تو جگہ دیتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر

حاضر)

الْأَيَّاءُ - جگہ دینا۔ (اسم مصدر)

مذکر حاضر

تَهْلِكُ - تو ہلاک کرے گا۔ (مضارع- واحد)

مذکر حاضر

تَهْلِكَةُ = ہلاکی۔ تباہی۔ (اسم مصدر)

(لَا) تَهْنُؤًا = تم نہ سستی کرو۔ (فعل نہی- جمع)

مذکر حاضر

تَهْوَى = وہ چاہتی ہے۔ (مضارع- واحد مونث)

غائب

تَهْوَى = وہ جھکتی ہے۔ (مضارع- واحد مونث غائب)

ت-ی

(لَا) تَيْسَسُوا = تم ناامید نہ ہونا۔ (فعل نہی- جمع)

مذکر حاضر

تَيْسَسُ = وہ آسان ہوا۔ (مضارع- واحد مذکر)

غائب

تَيْسِيرٌ = آسانی کرنا۔ (اسم مصدر)

تَيْسَمُّوًا = تم قصد کرو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)

تَيْسٍ = انجیر۔ (اسم جمع) (واحد تینہ ہے)

ت-ہ

تَهَاجِرُوا = تم وطن چھوڑ جاؤ۔ (مضارع)

منصوب- جمع مذکر حاضر

تَهْتَدُونَ = تم ہدایت پاؤ گے۔ (مضارع- جمع)

مذکر حاضر

تَهْتَدِي = وہ ہدایت پاتی ہے۔ (مضارع- واحد)

مونث غائب

تَهْتَرُ = وہ دوڑتی ہے۔ وہ حرکت کرتی ہے۔

(مضارع- واحد مونث غائب)

تَهَجَّدُ = تو نماز تہجد پڑھ۔ جاگتا رہ۔ (امر- واحد)

مذکر حاضر

تَهْجُرُونَ = تم چھوڑتے ہو۔ (مضارع- جمع)

مذکر حاضر

تَهْتَدُوا = تم ہدایت پاؤ۔ (مضارع- جمع مذکر حاضر)

حاضر

تَهْلِيئِي = تو ہدایت دیتا ہے۔ (مضارع- واحد)

(ث)

ثَاقِبٌ = روشن ستارہ۔ (اسم فاعل- واحد مذکر)

ثَالِثٌ = تیسرا۔ (اسم عدد- مذکر)

ثَالِثَةٌ = تیسرا۔ (اسم عدد- مونث)

ث-ا

ثَابِتٌ = استوار (اسم فاعل- واحد مذکر)

ثُعْبَان = اژدہا۔ (اسم واحد) (جمع ثُعَابِين ہے)

ث - ق

ثِقَال = بھاری چیزیں۔ (اسم جمع) (واحد ثَقِيل ہے)

ثَقِفْتُمُوْا = تم نے پایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
ثَقِفُوْا = وہ پائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)

ثِقْلَانِ = دو بھاری چیزیں۔ (اسم تثنیہ۔ واحد ثِقْل)
ثِقْلَانِ = دو بھاری ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

ثَقِيْلٌ = بھاری۔ دشور۔ (اسم مصدر)
ثَقِيْلٌ = بھاری۔ دشور۔ (اسم مصدر)

ث - ل

ثُلُث = تین تین۔ (اسم مصدر۔ مذکر و مؤنث)
ثَلَاث = تین۔ (عورتیں) (اسم عدد۔ مؤنث)

ثَلَاثَةٌ = تین (مرد) (اسم عدد۔ مذکر)
ثَلَاثُوْنَ = تیس (اسم عدد۔ بحالت رفعی)
ثَلَاثِيْنَ = تیس۔ (اسم عدد۔ بحالت نصبی و جری)

ثُلَّةٌ = انبوہ۔ جماعت۔ (اسم عدد)
ثُلَّةٌ = تہائی۔ (اسم عدد)

ثَامِن = آخوال۔ (اسم عدد۔ مذکر)

ثَانِي = موڑنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

ثَانِي = دوسرا۔ (اسم عدد)

ثَاوِي = رہنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

ث - ب

ثَبَات = گروہ گروہ۔ (اسم جمع) (واحد ثَبْتٌ ہے)

ثَبِتْ = تو قائم رکھ۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

ثَبَّتْنَا = ہم نے قائم رکھا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ثَبْتُوا = تم قائم رکھو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

ثَبَّطْ = اس نے بوجھل کر دیا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

ثُبُوْتُ = ٹھہرا۔ (اسم مصدر)

ثُبُوْزٌ = ہلاک ہونا۔ تباہ ہونا۔ (اسم مصدر)

ث - ج

ثَبَّاحٌ = پانی کا ریلا۔ (اسم مشتق۔ اسم مبالغہ۔

واحد مذکر)

ث - ر

ثَرِي = نیچے کی زمین۔ (اسم مکان)

ث - ع

ثُلثَان = دو تہائی۔ (اسم عدد۔ بحالت رفعی)

ثُلثَى = دو تہائی۔ (اسم عدد۔ بحالت نسی و جری "ن" بوجہ اضافت گر گیا۔)

اِثْمَان-اِثْمِنَة اور اِثْمِن ہے

ثُمَّنٌ = آٹھواں حصہ۔ (اسم واحد) (جمع اِثْمَان اور ثَمِین ہے)

ثَمُوْد = حضرت صالح عَلَيْهِ السَّلَام کی قوم کا نام۔ (اسم علم)

ث-م

ثُمَّ = پھر۔ (حرف عطف)

ثُمَّ = اس جگہ۔ وہاں۔ یعنی عالم عقبی۔ (اسم حرف مکان)

ثَمَانِي = آٹھ۔ (اسم عدد)

ثَمَانِيَّة = آٹھ۔ (اسم عدد)

ثَمَانِيْنَ = اسی۔ (اسم عدد)

ثَمْر = پھل۔ (اسم واحد) (جمع اِثْمَار ہے)

ثَمْرَة = پھل۔ میوہ۔ (اسم واحد) (جمع ثَمْرَات ہے)

ثَمْنٌ = قیمت۔ مول۔ (اسم واحد) (جمع ثَمَن ہے)

ث-و

ثَوَاب = نیکی کا بدلہ۔ (اسم مشتق)

ثَوْبٌ = وہ بدلہ دیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

تَثْوِيْبٌ = بدلہ دینا۔ (اسم مصدر)

ث-ی

ثِيَاب = کپڑے۔ (اسم جمع) (واحد ثَوْب ہے)

ثِيَابَات = بیاباں عورتیں۔ (اسم جمع) (واحد ثِيْب ہے)



(ج)

ج-ا

جَاءَ = وہ آیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

جَاءَ بِهِ = وہ اس کو لایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

جَاءَتْ = وہ آئی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)


جَائِرٌ = ظاہر حق سے پھرنے والا۔ (اسم فاعل)

جَاءَ وَآ = وہ آئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

جِئْتُ = تو آیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)


جَعَلُونَ = بنانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)	جِئْتُ = میں آیا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)
جَالُوتَ = ایک کافر بادشاہ کا نام ہے۔ جو بنی اسرائیل کا دشمن تھا۔ (اسم علم)	جِئْتُمْ = تم آئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
جَامِدَةٌ = ٹھہری ہوئی۔ (اسم مصدر)	جِئْتُمُوا = تم آئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
جَامِعٌ = اکٹھا کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)	جَابُوا = انہوں نے پھاڑا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
جَانٌّ = جن۔ باریک سانپ۔ (اسم علم)	جَائِيَةٌ = زانو پر بیٹھی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
جَانْنَا = ہم آئے۔ (ماضی۔ جمع متکلم)	جَائِمِينَ = سینے کے بل پڑے ہوئے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
جَانِبٌ = کنارہ۔ (اسم واحد) (جمع جوانب ہے)	جَائِمٍ = جمع مذکر (واحد جَائِمٌ ہے۔ بحالت نصی)
جَاوَزٌ = وہ آگے بڑھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)	جَادِلٌ = تو لڑائی کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
جَاوَزَا = دونوں نے تجاوز کیا۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)	جَادَلْتِ = تو نے جھگڑا کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)
جَاوَزْنَا = ہم نے تجاوز کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)	جَادَلْتُمْ = تم جھگڑے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
جَاهِدٌ = وہ راہ خدا میں لڑا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)	جَادَلُوا = انہوں نے جھگڑا کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
جَاهِدُوا = تو جہاد کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)	جَاؤُا = ہمسایہ۔ (اسم واحد) (جمع جیران ہے)
جَاهِدَا = ان دونوں نے کوشش کی۔ ان دونوں نے جہاد کیا۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)	جَارِيَاتٌ = چلنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث) (واحد جاریہ ہے)
جَاهِدُوا = وہ لڑے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)	جَارِيَةٍ = کشتی چلنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
جَاهِدُوا = تم جہاد کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)	جَارِيٌ = بدلا دینے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
جَاهِلٌ = نادان۔ (اسم واحد) (جمع جہلاء ہے)	جَاسُوا = وہ پریشان ہوئے۔ وہ گھس گئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
	جَاعِلٌ = بنانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

جَهِشِيٌّ = گھنٹوں پر گرنے والے۔ (اسم فاعل۔
جمع مذکر)



جَحَدُوا = انہوں نے انکار کیا۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)

جَحِيمٌ = آگ جلانے والی۔ دوزخ کے
پانچویں طبقہ کا نام۔ (اسم واحد) (جمع جحیم ہے)



جَدُّ = بزرگی۔ بزرگ ہونا۔ (اسم مصدر)

جَدَاؤُ = دیوار۔ (اسم واحد) (جمع جدر ہے)


جَدَالٌ = جھگڑا کرنا۔ (اسم مصدر)

جُدُدٌ = راہیں۔ گھاٹیاں۔ (اسم جمع) (واحد جد
ہے)

جُدُرٌ = دیواریں۔ (اسم جمع) (واحد جدار ہے)

جَدَلٌ = جھگڑنا۔ (اسم مصدر)

جَدِيدٌ = نیا۔ (اسم واحد) (جمع جدد ہے)




جُدَادًا = ککڑے ککڑے۔ (اسم جمع)

جَذَعٌ = بڑبڑانا۔ (اسم واحد) (جمع جذوع اور
اجذاع ہے)

جَذْوَةٌ = آگ۔ انگارہ۔ (اسم واحد) (جمع
جذوع ہے)

جَاهِلُونَ = نادان لوگ۔ (اسم جمع) (واحد
جاهل ہے)

جَاهِلِيَّةٌ = نادانی۔ اسلام سے پہلے کا زمانہ۔
(اسم شتن)



جَبٌّ = اندھیرا کنواں۔ (اسم واحد) (واحد
اجباب اور جباب ہے)

جَبَّارٌ = اللہ تعالیٰ کا نام۔ زبردست۔ زور آور۔
(اسم شتن)

جَبَّارِينَ = زبردست۔ زور آور۔ (اسم جمع۔
واحد جبار ہے)

جَبَالٌ = پہاڑ۔ (اسم جمع) (واحد جبل ہے)

جَبَاهٌ = پیشانیاں۔ (اسم جمع) (واحد جبہ ہے)
جِبْتٌ = جو بت خدا کے سوا پوجا جائے۔
(اسم صفت)


جَبْرِيْلٌ = نام فرشتہ جو وحی لاتے تھے۔ (اسم
علم)

جَبَلٌ = پہاڑ۔ (اسم واحد) (جمع جبال ہے)

جَبَلٌ = بڑا گردہ۔ (اسم واحد)

جَبِيْلَةٌ = خلقت۔ پیدائش۔ (اسم شتن)

جَبِيْنٌ = پیشانی۔ (اسم جمع)



جذی اور جذاء ہے)

جُذُوع = درخت کے تے۔ (اسم جمع- واحد
جذع ہے)

ج-ر

جَزَادٌ = ٹڈیاں۔ (اسم جمع- واحد جوادۃ ہے)

جَزَحْتُمْ = تم نے زخم کیا۔ تم نے
کلیا۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)

جُزُزٌ = بخر زمین۔ ایسی زمین جس پر گھاس نہ
ہو۔ (اسم واحد) (جمع اجواز ہے)

جُرُفٌ = غار۔ کھائی۔ وہ جگہ جہاں پانی بار بار
نکرائے۔ (اسم واحد) (جمع جروفۃ ہے) (اسم مکان)

جَزَمَ = شک۔ چارہ۔ (اسم)

لَا جَزَمَ = ناچار۔ بے شک۔ لازمی۔ (لا کا اسم)

جُرُوفٌ = زخم۔ (اسم جمع) (واحد جرح ہے)

جَزَيْنَ = وہ جاری ہوئیں۔ (ماضی- جمع مونث
غائب)

ج-ز

جُزْءٌ = ٹکڑا۔ (اسم واحد) (جمع اجزاء ہے)

جَزَاءٌ = بدلہ۔ (اسم مصدر)

جَزَعْنَا = ہم بے قرار ہوئے۔ (ماضی- جمع
متکلم)

جُزُوعٌ = بے قرار ہونا۔ گھبراتا۔ (اسم صفت)

جَزَيْتُ = میں نے بدلا دیا۔ (ماضی- واحد متکلم)

جَزِيَّةٌ = خراج جو کافروں سے لیتے ہیں۔ (اسم

واحد) (جمع جزى و جزاء ہے)

جَزَيْتَنَا = ہم نے بدلہ دیا۔ (ماضی- جمع متکلم)

ج-س

جَسَدٌ = جسم۔ (اسم واحد) (جمع اجساد ہے)

جِسْمٌ = بدن۔ (اسم واحد) (جمع اجسام ہے)

ج-ع

جَعَلٌ = اس نے بنایا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

جُعِلٌ = وہ مقرر کیا گیا۔ (ماضی- جمع
مذکر غائب)

جَعَلَاً = ان دونوں نے ٹھہرایا۔ (ماضی- تثنیہ
مذکر غائب)

جَعَلْتُ = اس نے کیا۔ (ماضی- واحد مونث
غائب)

جَعَلْتُ = میں نے کیا۔ (ماضی- واحد متکلم)

جَعَلْتُمْ = تم نے ٹھہرایا۔ (ماضی- جمع مذکر
حاضر)

جَعَلْنَا = ہم نے کیا۔ (ماضی- جمع متکلم)

جَعَلُوا = انہوں نے کیا۔ (ماضی- جمع
مذکر غائب)

ج - ف

جُفَاءً = کوڑا کرکٹ۔ ردی۔ (اسم)

جِفَانٍ = بڑے پیالے۔ کھ۔ (اسم جمع) (واحد جفن ہے)

ج - ل

جَلَاءٌ = اجڑنا۔ (اسم مصدر)

جَلَى = اس نے روشن کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

جَلَابِيْبٌ = چادریں۔ (اسم جمع) (واحد جلاب ہے)

جَلَالٌ = بزرگی۔ عظمت۔ (اسم مشتق)

جَلْدَةٌ = کوڑا مارنا۔

جُلُودٌ = کھالیں۔ (اسم جمع) (واحد جلد ہے)

ج - م

جَمًّا = جی بھر کر۔ زیادہ ہونا۔ (اسم مصدر)

جَمَالٌ = خوبصورتی۔ (اسم صفت)

جَمَالَةٌ = اونٹوں کی قطار۔ (اسم جمع) (واحد جمل ہے)

جَمَعَ = اس نے جمع کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

جُمِعَ = وہ جمع کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

جَمَعَ = جماعت۔ فوج۔

جَمَعَانٌ = دو فوجیں۔ (اسم تشنیہ) (جمع جموع ہے)

جُمُعَةٌ = روز جمعہ۔ مسلمانوں کا مقدس دن ہے۔ (اسم واحد) (جمع جمع اور جمعات ہے)

جَمَعْنَا = ہم نے اکٹھا کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

جَمَعُوا = انہوں نے اکٹھا کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

جَمَلٌ = اونٹ۔ (اسم واحد) (جمع جمال ہے)

جُمْلَةٌ = ایک بارگی۔ (اسم واحد) (جمع جمل ہے)

جَمِيعٌ = سب۔ (اسم واحد۔ جمع أَجْمَعُونَ ہے)

جَمِئِلٌ = خوبصورت۔

ج - ن

جَنٌّ = اس نے ڈھانپا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

جَنًّا = میوہ چٹا ہوا۔

جَنَاتٌ = باغ۔ باغات۔ (اسم جمع۔ واحد جَنَّةٌ ہے)

جُنَاحٌ = گناہ۔ (اسم واحد)

جَنَاحٌ = بازو۔ ہاتھ۔ (اسم واحد) (جمع أَجْنِحَةٌ ہے)

جَنَاحِيٌّ = دو بازو۔ (اسم تشنیہ۔ "نون" تشنیہ)

بوجہ اضافت گر گیا۔ (واحد جناح اور جمع

اجنحة ہے)

جُنُبٌ = ناپاک۔ دُور۔ (اسم مشتق)

جَنْبٌ = پہلو۔ (اسم واحد) (جمع جنوب ہے)

جَنْبِ اللّٰهِ = اللہ کی اطاعت۔ (مکرب
اضانی)

جِنَّةٌ = جن۔ پریاں۔ دیوانگی۔ (اسم جمع) (واحد
جنی ہے)

جُنَّةٌ = ڈھال۔ (اسم واحد) (جمع جنن ہے)

جَنَّةٌ = باغ۔ (اسم واحد) (جمع جنات ہے)

جَنَّتَانٍ = دو باغ۔ (اسم تثنیہ۔ بحالت رفعی۔
واحد جنۃ جمع جنات ہے)

جَنَّتُحُوا = وہ بھگے۔ (ماضی۔ جمع مذكر غائب)

جُنْدٌ = فوج۔ لشکر۔ (اسم واحد۔ جمع جنود
ہے)

جَنْفٌ = وہ الگ ہوا۔ وہ ایک طرف ہوا۔
(ماضی۔ واحد مذكر غائب)

جُنُوبٌ = پہلو۔ (اسم جمع۔ واحد جنب ہے)

جُنُودٌ = فوجیں۔ (اسم جمع۔ واحد جند ہے)

جَنِيٌّ = تازہ پھل چنا ہوا۔ (اسم مصدر بمعنی
مفعول)

ج - و

جَوٌّ = آسمان اور زمین کے درمیان۔ نفا (اسم

واحد) (جمع جواء اور اجواء ہے)

جَوَابٌ = بولنا۔ تالاب۔ (اسم واحد) (جمع

اجوبة اور جوابات ہے)

جَوَارٌ = کشتیاں۔ (اسم جمع۔ واحد جارۃ ہے)

جَارِيَةٌ = واحد جوار کی اصل جواری تھی۔

”ی“ آخر سے گر گئی۔ (اسم واحد)

جَوَارِحٌ = شکاری جانور۔ (اسم جمع۔ واحد
جراح اور جارحة ہے)

جُودِيٌّ = وہ پاڑ جو ملک شام میں ہے۔ جس

پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی۔ (اسم۔
طرف مکان)

جُوعٌ = بھوک۔ (اسم واحد)

جَوْفٌ = پیٹ۔ (اسم واحد) (جمع اجواف
ہے)

ج - ه

جِهَادٌ = اللہ کے واسطے کافروں سے لڑنا۔

(اسم مصدر)

جِهَارٌ = برطا۔ ظاہر بات پکار کر۔ (اسم مصدر)

جِهَازٌ = اسباب۔ سامان۔ (اسم واحد۔ جمع

اجهزة ہے)

جِهَالَةٌ = نادانی۔ (اسم مصدر)

جَهْدٌ = کوشش کرنا۔ (اسم مصدر)

جَهْرٌ = پکارنا۔ (اسم مصدر)

ج - ی

جِيَاد - تیز رو گھوڑے۔ (اسم شتن)
 جِيَب - گریبان۔ (اسم واحد) (جمع جیبوں)
 جِينِد - گردن۔ (اسم واحد) (جمع اجیاد ہے)
 جِيُوْب - گریبان۔ (اسم جمع) (واحد جیب)
 جِيِيْءَ - وہ لایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد
 مذکر غائب)

جَهَّزَ - اس نے پکارا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 جَهْرَةٌ - کھلم کھلا۔
 جَهَّزَ - اس نے تیار کرویا۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)
 جَهَنَّمَ - دوزخ کے ایک طبقہ کا نام ہے۔
 (اسم علم)
 جَهْوَلٌ - ناتجربہ کار۔ جاہل۔ (اسم مبالغہ۔ جمع
 جہلاء ہے)



(ح)

حَاجُّوْا - انہوں نے جھگڑا کیا۔ (ماضی۔ جمع
 مذکر غائب)
 حَادٌّ - اس نے مخالفت کی۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)
 حَادِرُوْنَ - ڈرنے والے۔ (اسم جمع۔ واحد
 حاذر ہے)
 حَارَبَ - اس نے لڑائی کی۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)
 حَاسِبِنَا - ہم نے محاسبہ کیا۔ (ماضی۔ جمع
 متکلم)
 حَاسِبِيْنَ - گننے والے۔ حساب لینے والے۔
 (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ واحد حاسب ہے)

ح - ا

حَاجٌّ - حج کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
 حَاجٌّ - اس نے جھگڑا کیا۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)
 حَاجَةٌ - ضرورت۔ (اسم واحد) (جمع حوائج
 ہے)
 حَاجَجْتُمْ - تم نے جھگڑا کیا۔ (ماضی۔ جمع
 مذکر حاضر)
 حَاجِزٌ - روکنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
 حَاجِرِيْنَ - روکنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع
 مذکر)

حَاسِدٌ = بدخواہ۔ برا چاہنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر	فاعل۔ جمع مذکر
حَاشَ لِلَّهِ = پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے۔ (کلمہ تعجب ہے)	حَاقٌّ = گھیر لیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
حَاشِرِينَ = جمع کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر	حَاقَّةٌ = ثابت ہونے والی۔ قیامت کا حادثہ۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
حَاصِبٌ = ایسی سخت ہوا جس سے سنگریاں اڑنے لگیں۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر	حَاكِمِينَ = فیصلہ کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ بجالت نصی و جری۔ جمع مذکر۔ واحد حاکم ہے)
حَاصِرَةٌ = روبرو ہونے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)	حَالٌ = وہ حائل ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
حَاصِرِيٌّ = رہنے والے۔ (اسم فاعل۔ نصی جری حالت میں "نون" اضافت کی وجہ سے حذف ہے۔	حَامٌ = اونٹ۔ جس کی پشت سے دس بچے پیدا ہو چکے ہوں کہ دسوں سواری کے لائق ہوں وہ اونٹ سواری اور لادنے سے بچ جاتا ہے اس سے گھاس اور پانی منع نہیں کرتے اور کہتے ہیں حمی ظہرہ اس نے اپنی پیٹھ کو سواری اور لادنے سے بچایا۔
حَافِرَةٌ = پہلی حالت۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)	حَامٌ = نوح ﷺ کے بیٹے کا نام۔
حَافِظٌ = نگہبان۔ (فرشتے) (اسم فاعل۔ واحد مذکر	حَامِدُونَ = تعریف کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر (واحد حامد ہے)
حَافِظَاتٌ = حفاظت کرنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)	حَامِلَاتٌ = اٹھانے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)
حَافِظُوا = تم حفاظت کرو۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)	حَامِلِينَ = اٹھانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر
حَافِظُونَ = حفاظت کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر	حَامِيَةٌ = گرم ہونے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
حَافِيْنٌ = گردا گرد کھڑے رہنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر	

ح - ث

حَثِيث = جلد۔ تیزی سے۔ (اسم صفت مشبہ)

ح - ج

حَجَّج = ارادہ کرنا۔
 حَجَّج = حج کرنا۔ (اسم مصدر)
 حَجَّج = اس نے حج کیا۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)

حِجَابٌ = پردہ (اسم واحد۔ جمع حِجَابٌ ہے)
 حِجَارَةٌ = کنگریاں۔ پتھر۔ (اسم جمع۔ واحد
 حجر ہے)
 حُجَّةٌ = دلیل۔ جھگڑا۔ شبہ۔ (اسم واحد۔ جمع
 حجج ہے)

حِجَّج = برس۔ سال۔ (واحد حِجَّةٌ ہے۔)
 حَجَرٌ = پتھر۔ (اسم واحد۔ جمع حِجَارَةٌ ہے)
 حِجْرٌ = ممنوع چیز۔ منع کردہ۔ عقل۔ ایک
 بستی کا نام ہے جہاں قوم ٹھہر رہتی تھی۔ (اسم
 مصدر۔ اسم علم)

حُجْرَاتٌ = کونٹھڑیاں۔ دیواریں۔ (اسم جمع)
 (واحد حِجْرَةٌ ہے)

حُجُورٌ = گودیں۔ آغوش۔ (اسم جمع) (واحد
 حجر ہے)

ح - د

حَبًا = اناج۔ دانہ۔ (اسم واحد۔ واحد حبوب
 ہے)

حُبٌّ = دوستی۔
 حَبٌّ = اس نے دوستی کی۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)

حُبَّاجِمًا = جی بھر کر۔ (مركب تومینفی)
 حِبَالٌ = رسیاں۔ (اسم جمع) (واحد حبل ہے)
 حَبِيبٌ = اس نے محبت ڈالی۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)

حَبَّةٌ = دانہ۔ (اسم واحد) (جمع حبات ہے)
 حَبِطٌ = وہ ضائع ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 حَبِطْتُ = وہ ضائع ہوئی۔ (ماضی۔ واحد
 مؤنث غائب)

حُبْكٌ = راستے۔ (اسم جمع) (واحد حباک
 ہے)

حَبْلٌ = رسی۔ رگ۔ (اسم واحد) (جمع حبال
 ہے)

حَبْلُ الْوَرِيدِ = رگ۔ جان۔ (مركب اضافی)

ح - ت

حَتَّى = جب تک۔ (حرف جر ہے۔ حَتَّى
 مضارع پر داخل ہو تو اس کے بعد اَنْ مقدر

ہوتا ہے لہذا یہ فعل کو منصوب کرتا ہے۔)
 حَتْمٌ = لازم۔ ضرور۔ (اسم مشتق)

حَرَجٌ = گناہ۔ تنگی۔ (اسم صفت)

حَرَدٌ = منع کرنا۔ (جمع حواد و حرید ہے)

حَرَاسٌ = تمکبان۔ چوکیدار۔ (واحد حارس)

حَرَاسٌ = تمکبانی۔ چوکیداری۔ (اسم مصدر)

حَرَصَتٌ = تو نے آرزو کی۔ (ماضی۔ واحد

مذکر حاضر)

حَرَصْتُمْ = تم نے آرزو کی۔ (ماضی۔ جمع

مذکر حاضر)

حَرَضٌ = بیمار۔ بے کار

حَرَضٌ = تو تیز کر۔ تو ابھار۔ (امر۔ واحد

مذکر حاضر)

حَرْفٌ = کنارہ۔ (جمع حُرُوفٌ ہے)

حَرْقُوا = تم جلاؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

حُرْمٌ = حرام چیزیں۔ احرام باندھنے والے۔

(اسم جمع) (واحد حوام ہے)

حَرَمٌ = اس نے منع کیا۔ اس نے حرام کیا۔

(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

حُرْمٌ = وہ منع کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد

مذکر غائب)

حَرَمٌ = مکہ شریف۔ مخصوص علاقہ۔ (اسم

مکان)

حُرْمَاتٌ = عزت کی چیزیں۔ (اسم جمع) (واحد

حرمة ہے)

حُرْمَتٌ = وہ منع کی گئی۔ حرام کی گئی۔

حَدَائِقُ = گھرے ہوئے باغات۔ (اسم جمع۔
واحد حَدِيقَةٌ ہے)

حِدَادٌ = تیز چیزیں۔ (اسم جمع۔ واحد حدید
ہے)

حَدْبٌ = زمین کی اونچی جگہ۔ (اسم مصدر)

حَدِثٌ = تو بیان کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

حُدُودٌ = قاعدے۔ ہر چیز کی انتہاء۔ حدیں۔

(اسم جمع۔ واحد حد ہے)

حَدِيثٌ = بات۔ خبر۔ (جمع احادیث ہے)

حَدِيدٌ = لوہا۔ تیز چیز۔ (اسم واحد۔ جمع احداہ

و حداد ہے)

ح - ذ

حَدَرٌ = ڈرنا۔ (اسم مصدر)

حَدْرٌ = مکان۔ محفوظ۔ بچاؤ۔ (اسم مصدر)

ح - ر

حُرٌّ = آزاد۔ آزاد کیا ہوا۔ (اسم واحد۔ جمع

احرار ہے)

حَرٌّ = گرمی۔ (خلاف قیاس) (اسم واحد۔ جمع

حرور و احاریر ہے)

حَرَامٌ = ناروا۔ نادرست۔ (جمع حرم ہے)

حَرَبٌ = لڑائی۔ (جمع حروب ہے)

حَرَبٌ = کھیت۔ (اسم)

(ماضی- واحد مونث غائب)

حَوْرَمْنَا = ہم نے منع کیا۔ (ماضی- جمع متکلم)

حَوْرَمُوا = انہوں نے حرام کیا۔ (ماضی- جمع مذکر غائب)

حَوْرُورٌ = لو- گرم ہوا۔ (اسم مصدر)

حَوْرِيُو = ریشمی باریک کپڑا۔ ریشمی پوشاک۔ (اسم)

حَوْرِيَصٌ = بڑا لالچی۔ (واحد مذکر- جمع حرصاء و حرصا ہے۔ صفت مشبہ)

حَوْرِيَقٌ = جلانے والا۔ (صفت مشبہ- واحد مذکر)

ح - ز

حِزْبٌ = جماعت۔ جتھا۔ (جمع احزاب ہے)

حِزْبِيَيْنِ = دو گروہ۔ (اسم تشبیہ۔ بحالت نصی و

جری- واحد حِزْبٌ جمع احزاب ہے)

حُزْنٌ = غم۔ رنج۔ (جمع احزان ہے)

حُزْنٌ = غمگین ہونا۔ (اسم مصدر- جمع أَحْزَانٌ ہے۔)

ح - س

حِسَابٌ = شمار کرنا۔ گنتا۔ (اسم مصدر)

حِسَابِيَةٌ = میرا حساب۔ اپنا حساب۔ (مرکب

اضافی) "ہ"۔ "ی" سے بدلی ہوئی ہے۔ حسابی

تھا حساب یائے متکلم کی طرف مضاف آخر

میں "ہ" ساکن ہے۔

حِسَانٌ = نفیس۔ خوش ترین۔ عمدہ چیزیں۔ (اسم مشتق)

حَسْبٌ = کفایت کرنا۔ (اسم فعل)

حَسِبٌ = اس نے خیال کیا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

حُسْبَانٌ = اندازہ۔ آفت۔ (اسم مذکر مونث حسبانہ)

حَسِبْتُ = اس نے گمان کیا۔ (ماضی- واحد مونث غائب)

حَسِبْتُ = تو نے خیال کیا۔ (ماضی- واحد مذکر حاضر)

حَسِبْتُمْ = تم نے خیال کیا۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)

حَسِبُوا = وہ سمجھے۔ (ماضی- جمع مذکر غائب)

حَسَدٌ = حسد کرنا۔ کسی کی نعمت کے زوال اور خود اپنے لئے اس کے حصول کی تمنا کرنا۔ (اسم مصدر)

حَسْرَاتٌ = افسوس۔ حسرتیں۔ (جمع- واحد حسرة ہے)

حَسْرَةٌ = افسوس۔ (اسم واحد)

(يَا) حَسْرَتِي = ہائے افسوس میرے۔ (اصل

میں حَسْرَتِي تھا۔ "ی" متکلم کو الف سے بدلا۔

حُسْنٌ = خوبصورتی۔ (اسم واحد) جمع

(محاسن ہے)

حَسَنٌ = نیک۔ اچھا۔ (اسم صفت شبہ)

حُسْنٰی = نیک۔ بہشت۔ (اسم واحد) (جمع)

حسِنات و حسن ہے۔ اسم تفضیل۔ واحد

(مونث)

حَسَنَات = نیکیاں۔ (واحد حسنة ہے)

حَسَنَةٌ = نیکی۔ (اسم واحد) (جمع حسنات

ہے)

حُسْنَتْ = وہ نیک ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث

غائب)

حُسْنِيَّينَ = دو نیکیاں۔ (اسم تثنیہ۔ بحالت

نسی و جری)

حَسُوم = نامبارک۔ لگا تار۔ کاٹنے والا۔ (اسم

فاعل)

حَسِيْب = حساب لینے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد

مذکر)

حَسِيْر = عاجز ہوا۔ تھکا ماندہ۔ (اسم واحد) (جمع

حسری ہے)

حَسِيْس = نرم آواز۔ آہٹ۔

ح - ش

حَشْر = بھیڑ ہونا۔ جمع کرنا۔ (اسم مصدر)

حَشْرٌ = اس نے جمع کیا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

حُشِمُوْ = وہ جمع کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد

مذکر غائب)

حَشْرُوْ = تو نے جمع کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

حاضر)

حُشِرُوْ = وہ جمع کی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد

مونث غائب)

حَشْرُوْنَا = ہم نے جمع کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ح - ص

حَصَاد = کھیتی کاٹنا۔ (اسم مصدر)

حَصَبٌ = ایندھن۔ آگ کے سلگانے کی چیز۔

(اسم آلہ)

حَصْحَصٌ = وہ ظاہر ہوا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

حَصَدْتُمْ = تم نے کاٹا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

حَصِرْتُ = وہ تنگ ہوئی۔ (ماضی۔ واحد

مونث غائب)

حَصِلٌ = وہ حاصل کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔

واحد مذکر غائب)

حَصُوْر = وہ روکا گیا۔ وہ مرد جو عورت کے

پاس نہ جائے۔ یہ صفت حضرت یحییٰ ؑ کی

ہے۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

ح - ف

حَفَدَةٌ = پوتے۔ دوست۔ (اسم جمع) (واحد
حفید ہے)

حُفْرَةٌ = گڑھا۔ (واحد حفر ہے)

حِفْظٌ = نگہبانی۔ (اسم مصدر)

حَفِظَ = اس نے حفاظت کی۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

حَفِظَةٌ = نگہبان۔ حفاظت کرنے والے۔ (واحد
حافظ ہے)

حَفِظْنَا = ہم نے حفاظت کی۔ (ماضی۔ جمع
متکلم)

حَفَفْنَا = ہم نے چھپایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

حَفِيفًا = مہربان۔ (اسم صفت)

حَفِيفٌ = بڑا مہربان۔ (صفت مشبہ)

حَفِيفٌ = نگہبان۔ (اسم واحد) (جمع حفظة
ہے)

ح - ق

حَقٌّ = لازم۔ ثابت۔ قائم۔

حَقٌّ = وہ سچ ثابت ہوا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

حَقُّ الْيَقِينِ = یقین کرنے کے قابل۔

حُصُونٌ = قلعہ۔ کوٹ۔ (واحد حصن ہے)
حَصِيدٌ = کٹا ہوا کھیت۔ جڑ سے کاٹ دینا۔
(اسم مشتق)

حَصِيرٌ = قید خانہ۔ بندھا ہوا۔ (اسم مشتق)

ح - ض

حَضَرَ = وہ حاضر ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

حَضَرُوا = وہ حاضر ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

ح - ط

حُطَامٌ = ریزہ ریزہ۔ روندی ہوئی۔ (بمعنی
مفعول)

حَطَبٌ = ایندھن۔ (اسم واحد) (واحد
احطاب ہے)

حِطَّةٌ = اترنا۔ (اسم مصدر)

حُطْمَةٌ = روندنے والا۔ جنم کے اس طبقے
کا نام جو یودیوں کا ٹھکانا ہے۔ (اسم مکان)

ح - ظ

حَظٌّ = نصیب۔ حصہ۔ (جمع حظوظ و حظاظ
ہے)

(مرکب اضافی)

حُقُبٌ = قرن۔ مدت غیر معینہ۔ (جمع احقاب

ہے)

حُقْبَةٌ = بروایت حضرت علیؓ ستر ہزار

برس کا ہوتا ہے جس کا ایک برس بارہ مہینے کا

اور ہر مہینہ تین دن کا اور ہر دن دنیا کے ایک

برس کے برابر (اسم واحد) (جمع حقباب ہے)

حَقَّتْ = وہ ثابت ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث

غائب)

حَقَّتْ = وہ اس لائق ہے۔ وہ ثابت کی گئی۔

(ماضی مجہول۔ واحد مونث غائب)

حَقِيقٌ = سزاوار۔ (لائق) (جمع احقفاء ہے)

ح-ک

حُكَّامٌ = حاکم۔ (واحد حاکم ہے)

حُكْمٌ = حکومت کرنا۔ (اسم مشتق)

حُكْمٌ = منصف۔ (صفت شبہ۔ واحد مذکر)

حُكْمٌ = اس نے حکم کیا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

حِكْمَةٌ = دانائی۔ عقلمندی۔ (جمع حکم ہے)

حَكَمْتُ = تو نے حکم کیا۔ تو نے فیصلہ کیا۔

(ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

حَكَمْتُمْ = تم نے حکم کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

حَكِيمٌ = دانائے عقلمند۔ (جمع حکماء ہے)

ح-ل

حِلٌّ = اترنا۔ حلال ہونا۔ کھلنا۔ (اسم مصدر)

حَلَائِلٌ = غیر کی نکاح کی ہوئی عورتیں۔

(واحد حلیل و حلیلة ہے)

حَلَّافٌ = بڑا قسم کھانے والا۔ (اسم مبالغہ۔

واحد مذکر۔)

حَلَّالٌ = جائز۔ مباح۔ (اسم مشتق)

حَلَفْتُمْ = تم نے قسم کھائی۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

حُلُقُومٌ = گلاب۔ (اسم واحد) (جمع حلاقیم ہے)

حَلَلْتُمْ = تم حلال ہوئے۔ احرام سے فارغ

ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

حَمَّ حَمَعَسَقٌ = حروف مقطعات ہیں۔ ان

کے معنی اللہ کو ہی معلوم ہیں۔

حُلْمٌ = عقل۔ خواب۔ بلوغ۔ (اسم جمع) (واحد

جِلْمٌ ہے)

حَلُّوْا = وہ زیور پہنائے گئے۔ (ماضی مجہول۔

جمع مذکر غائب)

حَلِيٌّ = زیورات۔ (اسم جمع۔ واحد حلیة۔

حلی ہے)

حَلِيمٌ = بروبار۔ (صفت شبہ)

ح-م

حَمًا = گارا۔ کچڑ۔ (اسم مشتق)

حَمَازٌ = گدھا۔ (اسم واحد۔ جمع حمزہ حمیر ہے)

حَمَالَةٌ = خوب بوجھ اٹھانے والی۔ (اسم مبالغہ۔ واحد مونث)

حَمِيَّةٌ = گرم چشمہ۔ کچڑ والا۔ (اسم۔ ظرف مکان)

حَمْدٌ = سراہنا۔ شکر۔ تعریف۔ (اسم مصدر۔ اسم مشتق)

حُمُرٌ = گدھے۔ لال چیزیں۔ (اسم جمع) (واحد حمار اور احمر ہے)

حَمَلٌ = اٹھانا۔ پیٹ کا بچہ۔ درخت کا پھل۔ (اسم واحد) (جمع أَحْمَالٌ ہے)

حِمْلٌ = بوجھ۔ (جمع أَحْمَالٌ و حمولة ہے)

حَمَلٌ = اس نے اٹھایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

حَمَلٌ = وہ لادا گیا۔ وہ اٹھوایا گیا۔ (ماضی مہول۔ واحد مذکر غائب)

حَمَلْتُ = اس نے اٹھایا۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

حَمَلْتُ = تو نے اٹھایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

حَمَلْتُ = وہ اٹھائی گئی۔ (ماضی مہول۔ واحد مونث غائب)

حَمَلْتُمْ = تم اٹھوائے گئے۔ (ماضی مہول۔ جمع مذکر حاضر)

حَمَلْنَا = ہم نے اٹھایا۔ (ماضی۔ جمع شکم)

حَمَلُوا = وہ لادے گئے۔ (ماضی مہول۔ جمع مذکر غائب)

حَمُولَةٌ = لادنے والا جانور۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

حَمِيَّةٌ = نفرت۔ کدورت۔ (اسم مشتق)

حَمِيْدٌ = تعریف کیا ہوا۔ (اسم بمعنی مفعول۔ واحد مذکر)

حَمِيْرٌ = گدھے۔ (واحد حمار ہے)

حَمِيْمٌ = گہرا دوست۔ گرم پانی۔ (صفت۔ واحد مذکر)

ح-ن

حَنَاجِرٌ = زرخہ۔ گلے۔ (اسم جمع) (واحد حنجر ہے)

حَنَانٌ = شوق دینے والا۔ رحمت والا۔ نام اللہ۔ (اسم فاعل۔ مبالغہ)

حَنْثٌ = قسم توڑنا۔ گناہ۔ (اسم مصدر)

حُنَفَاءٌ = مسلمان۔ بچے۔ دین والے۔ اللہ کی طرف ہونے والے۔ (واحد حنیف ہے)

حَنِیْذٌ - تلا ہوا۔ بھنا ہوا۔ (اسم مشتق)

حَنِیْفٌ = یک سو۔ نرالا دین ابراہیم ﷺ والا۔
(اسم واحد) (جمع حنفاء ہے)

حُنَیْنٌ = نام مقام جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے۔ (اسم۔ ظرف مکان)

ح - و

حَوَارِیٌّ = وصولی۔ مدد کرنے والا۔ حضرت
عیسیٰ ﷺ کے ساتھیوں کا لقب ہے۔ (جمع
حواریون ہے)

حَوَایَا = چڑی کی آنتیں۔ (اسم جمع) (واحد
حویۃ۔ حوی ہے)

حُوبٌ = گناہ۔ (اسم مشتق)

حُوتٌ - مچھلی۔ (اسم واحد) (جمع حیتان ہے)

حُورٌ = گوریاں۔ یعنی حوریں وہ گوری عورتیں
جن کی آنکھ کی سیاہی اور بال بہت سیاہ ہوں۔

(اسم جمع) (واحد حوراء ہے)

حَوْلٌ = بدلنا۔ (اسم مصدر)

حَوْلٌ = آس پاس۔ قریب۔ (جمع احوال ہے)

حَوْلَیْنِ = دو برس۔ دو سال۔ (اسم تثنیہ۔
بحالت نسبی و جری۔ واحد حول جمع احوال ہے)

ح - ی

حَیٌّ - زندہ۔ باقی۔ (جمع احياء)

حَیٌّ = وہ زندہ ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذكر غائب)

حَیْوةٌ = زندگی۔ (اسم مشتق)

حَیْةٌ = اڑنا۔ بچھو۔ (جمع حیات ہے)

حَیْثَانٌ = مچھلیاں۔ (واحد حوت ہے)

حَیْثٌ = جس جگہ۔ جہاں۔ (اسم ظرف)

حَیْثَمَا = جس جگہ۔ جہاں (اسم ظرف۔ اسم
شرط)

حَیْرَانٌ = پریشان۔ بہکا ہوا۔ (اسم صفت)

حَیْلٌ = انکایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مذكر غائب)

حَیْلَةٌ = کرا۔ تدبیر۔ (اسم مشتق)

حَیْنٌ = وقت۔ (اسم۔ جمع احيان ہے)

حَیْنِیْذٌ = اس وقت۔ (مركب اضافی)

حَیْوًا = تم دعا دو۔ زندہ کرو۔ سلام کرو۔ تم
تحفہ دو۔ (امر۔ جمع مذكر حاضر)

حَیْوَانٌ = زندہ جانور۔ (اسم واحد) (جمع
حيوانات ہے)

حَیْوَاکَ = تجھ کو دعا دیں۔ (ماضی۔ جمع مذكر
غائب) ("ک" ضمیر مخاطب کی)

حَیْثُمُ = تم زندہ کئے گئے۔ تم دعا دیئے گئے۔
تم تحفہ دیئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذكر حاضر)

(خ)

خ-۱

مذکر۔ بحالت نصی و جری)

خَاذِنِينَ = جمع کرنے والے۔ خزانچی۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)

خَاوِسِي = تھکنے والا۔ ذلیل و خوار (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

خَاوِسِيْنَ = تھکنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)

خَاوِسِرَةً = خسارہ پانے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

خَاوِسِرُونَ = نقصان پانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت رفعی)

خَاوِشِعٌ = عاجزی کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

خَاوِشِعَاتٌ = ڈرنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث۔ بحالت رفعی)

خَاوِشِعَةٌ = ڈرنے والی۔ خوار۔ ذلیل۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

خَاوِشِعُونَ = عاجزی کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت رفعی)

خَائِبِينَ = ناامید ہونے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)

خَائِضِينَ = گھسنے والے۔ بحث کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)

خَائِفٌ = ڈرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

خَائِنَةٌ = دغا۔ خیانت کرنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

خَائِبِينَ = خیانت کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)

خَابٌ = وہ نامراد ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

خَاتَمٌ = مہر۔ (فتح التاء)

خَاتِمٌ = مہر ختم کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

خَاتَمُ النَّبِيِّنَ = نبیوں کے آخری۔ یعنی محمد رسول اللہ ﷺ (اسم۔ مرکب اضافی)

خَادِعٌ = دھوکا دینے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

خَارِجٌ = نکلنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

خَارِجِينَ = نکلنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع)

خَالِصٌ = خالص۔ بغیر ملاوٹ کے۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)	خَاصَّةٌ = جتنی ہوئی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث۔ جمع خواص ہے)
خَالِصَةٌ = صرف۔ خاص۔ خالص کرنے والی (اسم فاعل۔ واحد مونث)	خَاصِعِينَ = جھکنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)
خَالِفِينَ = پیچھے رہنے والے۔ (اسم فاعل بحالت نصی و جری۔ جمع مذکر)	خَاضُوا = گھے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
خَالِقٌ = بنانے والا۔ پیدا کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)	خَاطِنَةٌ = قصداً گناہ کرنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
خَالِقُونَ = پیدا کرنے والے۔ (واحد خالق فاعل۔ واحد مذکر)	خَاطِئُونَ = گنہگار۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر (واحد خَاطِئٌ))
خَالِيَةٌ = گزرنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)	خَاطَبٌ = اس نے بات کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
خَامِدُونَ = بجھے ہوئے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)	خَافٌ = وہ ڈرا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
خَاهِسَةٌ = پانچویں۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)	خَافَتْ = وہ ڈری۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)
خَانَتَا = دونوں نے چوری کی۔ خیانت کی۔ (ماضی۔ تثنیہ مونث غائب)	خَافِضَةٌ = اتارنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
خَانُوا = انہوں نے خیانت کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)	خَافُوا = وہ ڈر گئے۔ تم ڈرو۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
خَاوِيَةٌ = خالی۔ کھوکھلا۔ ویران پڑنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)	خَافِيَةٌ = چھپنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
	خَالٌ = ماموں۔ (اسم۔ جمع احوال ہے)
	خَالَاتٌ = خالائیں۔ (اسم۔ واحد خالۃ ہے)
	خَالِدٌ = سدا رہنے والا۔ ہمیشہ رہنے والا۔ (جمع خَالِدِينَ 'خَالِدُونَ' ہے)
	خَالِدِينَ = سدا رہنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

خ-ب

خَبَأٌ = چھپی ہوئی۔ (اسم بمعنی مفعول)

خَبَائِثٌ = گندے کام۔ (اسم جمع) (واحد)

خَدَّ = رخسار۔ گال۔ (اسم۔ جمع خداد ہے)

خ-ذ

خُدَّ = تو پکڑ۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

خُدُّوا = تم پکڑو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

خُدُول = ذلیل۔ رسوا۔ (اسم مبالغہ)

خ-ر

خَرَّ = وہ گرا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

خَرَّاب = ویران۔ اجاز۔ (اسم مصدر)

خَرَّاج = محصول۔ ٹیکس۔ (اسم مصدر)

خَرَّاصُونَ = اٹکل کرنے والے۔ تخمینہ کرنے

والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

خَرَّج = محصول۔ حاصل۔ (اسم واحد) (جمع

خروج ہے)

خَرَّجَ = وہ نکلا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

خَرَّجَتْ = تو نکلا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

خَرَّجْتُمْ = تم نکلا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

خَرَّجْنَ = وہ سب نکلیں۔ (ماضی۔ جمع مؤنث

غائب)

خَرَّجْنَا = ہم نکلا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

لَوْ خَرَّجْنَا = گر ہم نکلا۔ (لو شرطیہ۔ ماضی۔

جمع متکلم۔ ”ہا“ ضمیر متکلم کی۔)

خَرَّجُوا = وہ نکلا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

خَيْفَةٌ ہے)

خَبْتُ = وہ مجھی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

خَبَّال = تباہی۔ بربادی۔ (اسم مصدر)

خَبْتُ = وہ پلید ہوا۔ ناپاک ہوا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

خَبْرٌ = حال۔ خبر۔ (جمع اخبار ہے)

خُبْر = آگاہی۔ (اسم مصدر)

خُبْرٌ = روٹی۔ (اسم واحد) (جمع خبز ہے)

خَبِيثٌ = ناپاک۔ (اسم صفت شبہ)

خَبِيثَةٌ = گندی۔ (اسم فاعل۔ واحد مؤنث)

(جمع خَبِيثَات ہے)

خَبِيثُونَ = گندے رہنے والے۔ (اسم فاعل

بجائے رفق۔ جمع مذکر)

خَبِيرٌ = اللہ تعالیٰ کا نام۔ خبردار۔ دانہ۔ (اسم

صفت۔ مبالغہ)

خ-ت

خَتَّار = بڑا جھوٹا۔ (اسم مبالغہ)

خَتَام = مہر بنانے کی چیز (موم وغیرہ)۔ (اسم

ختم۔ مہر۔ (اسم۔ جمع خواتیم ہے)

خَتَمَ = اس نے مہر لگائی۔ اس نے مکمل کیا۔

(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

خ-د

خَزْدَلٌ = رائی۔ (اسم مشتق)

خَزَطْلُومٌ = سوٹھ۔ ہاتھی کی ناک۔ (اسم۔ جمع)

خَزَاطِيمٌ ہے)

خَزَقٌ = اس نے پھاڑا۔ (ماضی۔ واحد)

مذکر غائب)

خَزَقَتْ = اس عورت نے پھاڑا۔ (ماضی۔

واحد مؤنث غائب)

خَزَقَتْ = تو نے پھاڑا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

حاضر)

خَزَقُوا = انہوں نے تراشا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

خَزَوًا = وہ گرے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

خَزُوجٌ = نکلتا۔ (اسم مصدر)

خ-ز

خَزَائِنٌ = خزانے۔ (اسم جمع۔ واحد خزائنة

ہے)

خَزَنَةٌ = خزانچی۔ چوکیدار (اسم۔ واحد خازن

ہے)

خِزْيٌ = رسوائی۔ زلت (اسم مصدر)

خ-س

خَسَارٌ = نقصان۔ گھٹا۔ (اسم مصدر)

خُسْرٌ = ٹوٹا۔ گھٹا۔ (اسم مصدر)

خَسِرَ = اس کو گھٹا ہوا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

خُسِرَانٌ = خسارہ۔ نقصان۔ (اسم مصدر)

خَسِرُوا = انہوں نے گھٹا پایا۔ (ماضی۔ جمع

مذکر غائب)

خُسْفٌ = چاند گرہن لگنا۔ تاریکی میں دھنسا۔

(اسم مصدر)

خَسَفْنَا = ہم نے دھنسایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم۔

بصلہ "با")

خُسُوفٌ = چاند گرہن لگنا۔ (اسم مصدر)

خ-ش

خُشْبٌ = لکڑیاں۔ (اسم جمع) (واحد خشب

ہے)

خُشِعٌ = عاجزی کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر)

خَشَعَتْ = وہ ڈر گئی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث

غائب)

خُشُوعٌ = عاجزی کرنا۔ اکتساری کرنا۔ (اسم

مصدر)

خَشِيٌّ = وہ ڈرا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

خَشِيْتُ = میں ڈرا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

خَشِيَةٌ = ڈر۔ ڈرنا۔ خوف۔ (اسم مصدر)

خَطَاب = بات۔ کلام۔ (اسم مصدر)
 خَطَايَا = گناہ۔ خطائیں۔ (واحد خطا ہے)
 خَطْب = حل۔ مقصد۔ (اسم واحد۔ جمع خُطُوب)
 خُطْبَةٌ = نکاح کا پیغام۔ منگنی۔ (اسم مصدر)
 خَطِيفٌ = اس نے اچک لیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 خُطْفَةٌ = اچک لینا۔ (اسم مصدر)
 خُطُوتٌ = قدم۔ (واحد خُطُوَةٌ ہے)
 خَطِيئَةٌ = گناہ۔ نافرمانی۔ سرکشی۔ (جمع خَطِيئَاتٌ ہے)

خ-ف

خِيفٌ = ہلکے۔ (اسم جمع) (واحد خفيف ہے)
 خِيفٌ = تو ڈری۔ (ماضی۔ واحد مونث حاضر)
 خِيفٌ = میں ڈرا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)
 خِيفٌ = وہ ہلکی ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)
 خِيفْتُمْ = تم ڈرے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
 خَفَّفٌ = اس نے ہلکا کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 خَفِيٌّ = چھپی چیز۔ پوشیدہ۔ نامعلوم۔ (اسم مشتق)
 خَفِيَّةٌ = پوشیدہ ہونا۔ (اسم مصدر)

خَشِيْنَا = ہم ڈرے۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

خ-ص

خَصَاصَةٌ = بھوک۔ محتاجی۔ (اسم مصدر)
 خِصَامٌ = جھگڑا۔ لڑنا۔ (مصدر)
 خَصْمٌ = مدعی۔ جھگڑنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
 خَصِيْمُوْنَ = جھگڑا کرنے والے۔ جھگڑالو۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
 خَصِيْمٌ = سخت جھگڑالو۔ (اسم فاعل)

خ-ض

خُضْمٌ = تم نے بحث کی۔ تم نے قدم ڈالا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
 خُضِرٌ = ہرے۔ سبز۔ (اسم جمع۔ واحد اخضر ہے)
 خَضِرٌ = شاخ سبز۔ (اسم واحد)

خ-ط

خَطَأٌ = چوک۔ گناہ۔ غلطی۔ (اسم واحد) (جمع خطايا ہے)
 خَطَأٌ = چوکنا۔ گناہ کرتا۔ غلطی کرتا۔ (اسم مصدر)

خَلَفَ = وہ جانشین ہوا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

خَلَفَ = پیچھے۔ قرن بعد قرن۔ (اسم مصدر)

خَلَفَ = فرزند تالاق۔ (اسم مشتق)

خُلَفَاءَ = سردار۔ (اسم جمع) (واحد خلیفۃ
ہے)

خِلْفَةَ = ایک کے بعد ایک آنے والی۔ (اسم
جمع) (واحد خلیف ہے)

خَلَفْتُمْوَا = تم نے خلاف کیا۔ تم نے وعدہ
خلافی کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

خَلَفُوا = وہ جانشین ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

خَلَفُوا = وہ پیچھے چھوڑے گئے۔ (ماضی مجہول۔
جمع مذکر غائب)

خَلَقَ = پیدائش۔ مخلوقات بنانا۔ (اسم مشتق)

خَلَقَ = اس نے پیدا کیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

خَلِقَ = وہ پیدا کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مذکر غائب)

خُلُقَ = عادت۔ چلن۔ (اسم واحد) (جمع
اخلاق ہے)

خَلَقْتَ = تو نے پیدا کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
حاضر)

خَلَقْتُ = میں نے پیدا کیا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

خَفِيفٌ = ہلکا ہونا۔ (صفت شبہ۔ جمع اخفاء۔
خفاف اور اخفاف ہے)

خ-ل

خَلَاَ = وہ الگ ہوا۔ وہ ہو چکا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

خَلَايفٌ = جانشین۔ قائم مقام۔ نائب۔ (واحد
خلیفۃ ہے)

خِلَافٌ = ضد۔ الٹا۔ مخالف۔ (اسم مصدر)

خَلَاقٌ = حصہ۔ بھلائی کا پورا حصہ۔

خَلَّاقٌ = پیدا کرنے والا۔ نام اللہ تعالیٰ۔ (اسم
مبالغہ)

خِلَالٌ = دوستی کرنا۔ (اسم مصدر)

خَلَّتْ = وہ گزری۔ وہ آگے ہوئی۔ (ماضی۔
واحد مؤنث غائب)

خُلَّةٌ = دوستی۔ (اسم مصدر)

خُلْدٌ = بیہوشی۔ نام بہشت۔ (اسم واحد) (جمع غیر
لفظ سے آئی ہے مناجذ)

خَلَصُوا = وہ الگ ہوئے۔ وہ تخلص ہوئے۔
(ماضی۔ جمع مذکر غائب)

خُلَطَاءٌ = شریک۔ ساتھی۔ شراکت دار۔
(واحد خلیط ہے)

خَلَطُوا = انہوں نے ملایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

خ-ن

خَنَازِيرُ = سور۔ (اسم جمع) (واحد خنزیر ہے)
خَنَاس = چھپنے والا شیطان۔ پیچھے ہٹنے والا۔
(اسم مشتق)

خِزْبِيرُ = سور۔ (اسم واحد) (جمع خنازیر ہے)
خُنْس = چھپنے والے تارے۔ (اسم فاعل)

خ-و

خَوَار = گائے کی آواز۔

خَوَالِف = پیچھے رہنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع
مونث۔ واحد خالفة)

خَوَان = بڑا خیانت کرنے والا۔ (اسم مبالغہ)

خَوْض = باتیں بنانا۔ (بصلہ فعلی اسم مصدر)

خَوْف = ڈر۔ گھبراہٹ۔ (اسم مصدر)

خَوَلَّ = اس نے بخشا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

خَوَلْنَا = ہم نے بخشا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

خ-ی

خِيَاط = سوئی۔ (اسم آلہ)

خِيَام = ڈیرے۔ خیمے۔ (اسم جمع) (واحد خيمة
ہے)

خِيَانَةٌ = امانت میں خیانت کرنا۔ (مصدر)

خُلِقْتُ = وہ پیدا کی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مونث غائب)

خَلَقْنَا = ہم نے پیدا کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم۔
تشبیہ متکلم۔ مذکر مونث)

خَلَقُوا = انہوں نے پیدا کیا۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)

خُلِقُوا = وہ پیدا کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع
مذکر غائب)

خَلَوْا = وہ گزرے۔ وہ الگ ہوئے۔ (ماضی۔
جمع مذکر غائب)

خَلُّوا = تم چھوڑو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

خُلُود = بیضہ رہنا۔ (اسم مصدر)

خَلِيفَةٌ = نائب۔ (اسم واحد) (جمع خلفاء ہے)

خَلِيل = گہرا دوست۔ (اسم واحد) (جمع اخلاء)

خ-م

خَمْر = شراب۔ نشہ آور چیز۔ (اسم مشتق)

خُمُر = چادریں۔ (اسم جمع) (واحد خمار ہے)

خُمْس = پانچواں حصہ۔ (اسم عدد)

خَمْسَةٌ = پانچ مرد۔ (اسم عدد)

خَمْسِينَ = پچاس۔ (اسم عدد۔ بحالت نصی
دجری)

خَمَط = کڑوا میوہ۔ (اسم صفت)

الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ = سفید ڈورا۔ صبح صادق۔

فجر۔ (مربک تو صینی)

الْخَيْطُ الْأَسْوَدُ = سیاہ ڈورا۔ صبح کاذب۔

(مربک تو صینی)

خَيْفَةٌ = ڈر۔ رعب۔ خوف۔ (اسم مصدر)

خَيْلٌ = گھوڑے۔ گھڑسوار۔ (اسم الجمع)

خَيْبَةٌ = نامراد ہونا۔ مایوس ہونا۔ (اسم مصدر)

خَيْرٌ = نیکی۔ بھلائی۔ بہت مال۔ (جمع خَيْرٌ)

خَيْرَاتٌ = نیکیاں۔ نیک عورتیں۔ خوبصورت

عورتیں۔ (اسم واحد)۔ (جمع خَيْرَةٌ ہے)

خَيْرَةٌ = اختیار۔ (اسم مشتق)

خَيْطٌ = دھاگا۔ (اسم واحد)۔ (جمع خَيْوُطٌ ہے)



(د)

دَابَّةٌ = حیوان۔ چوپایہ۔ چلنے والا۔ (اسم فاعل)

واحد مونث۔ (جمع دو اب ہے)

دَابِئِرٌ = اصل۔ جڑ۔ پیٹھ کرنے والا۔ (اسم فاعل)۔

واحد مذکر

دَاحِضَةٌ = باطل۔ جھوٹ (اسم فاعل)۔ واحد

مونث

دَاخِرُونَ = ذلیل ہونے والے۔ خوار ہونے

والے۔ (اسم فاعل)۔ جمع مذکر۔ بحالت رفقی

دَاخِلُونَ = داخل ہونے والے۔ (اسم فاعل)۔

جمع مذکر۔ بحالت رفقی

دَارٌ = گھر۔ مکان۔ (اسم واحد)۔ (جمع دیار ہے)

دَاعٌ = بلانے والا۔ (اسم فاعل)۔ واحد مذکر

دَاعِيٌّ = بلانے والا۔ (اسم فاعل)۔ واحد مذکر

د - ا

دَائِبِينَ = دونوں۔ ایک دستور۔ ایک عادت۔

(اسم فاعل)۔ تشبیہ مذکر۔ واحد دَائِبٌ)

دَائِرَةٌ = گردش۔ گول لکیر۔ (اسم واحد)۔ (جمع

دوائر ہے)

دَائِمٌ = ہمیشہ رہنے والا۔ آرام پانے والا۔ (اسم

فاعل)۔ واحد مذکر

دَائِمُونَ = ہمیشہ رہنے والے۔ (اسم فاعل)۔ جمع

مذکر۔ بحالت رفقی

دَاوُدٌ = نام پیغمبر۔ جو بنی اسرائیل میں اشعیاء

کے بیٹے یہود کی اولاد سے تھے۔ (اسم علم)

دَابٌّ = رسم۔ عادت۔ متواتر۔ (اسم مصدر)

دَافِعٌ = ہٹانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

دَافِقٌ = اچھلنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مَاءٌ دَافِقٌ = مٹی۔ (مركب توصیفی)

(مَا) دَامَتْ = جب تک رہے۔ (ماضی۔ واحد)

مونث غائب)

(مَا) دَامُوا = جب تک رہیں۔ (ماضی۔ جمع مذکر)

غائب)

دَانٍ = نزدیک ہونے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد)

مذکر

دَانِيَةٌ = نزدیک ہونے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد)

مونث)

د - ب

دُبُرٌ = پیٹھ۔ (اسم واحد) (جمع ادبار ہے)

د - ح

دَحِيٌّ = اس نے درست بچھایا۔ برابر کیا۔

(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

دُحُوْرًا = بھگانا۔ ہانگنا۔ (اسم مصدر)

د - خ

دُحَانٌ = دھواں۔ (اسم واحد) (جمع دواخن ہے)

دَخَلٌ = بہانہ۔ مکر۔ (اسم مشتق)

دُخُوْلٌ = اندر آنا۔ داخل ہونا۔ (اسم مصدر)

دَخَلَ = وہ اندر آیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

دَخَلَتْ = وہ اندر آئی۔ (ماضی۔ واحد مونث)

غائب)

دَخَلْتُ = تو اندر آیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر)

حاضر)

دَخَلْتُ = میں اندر آیا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

دَخِلْتُ = وہ داخل کی گئی۔ (ماضی مجہول۔

واحد مونث غائب)

دَخَلْتُمْ = تم نے جماع کیا۔ (ماضی بصلہ "با"۔

جمع مذکر حاضر)

دَخَلْتُمَا = تم داخل ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

دَخَلُوا = وہ اندر آئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

د - ر

دِرَاسَةٌ = پڑھنا۔ پڑھانا۔ (اسم مصدر)

دِرَاهِمٌ = مال و دولت۔ چاندی کے سکہ۔

(واحد درہم ہے)

دِرَايَةٌ = جانتا۔ علم ہونا۔ (اسم مصدر)

دَرَجَةٌ = درجہ۔ منزل۔ (جمع دَرَجَاتٌ ہے)

دَرَسْتُ = تو نے پڑھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

حاضر)

دَعُوَا = وہ پکارے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)

دَعَوَى = پکار۔ کہنا۔ (اسم مصدر)

دَعْوَةٌ = کھانے پر بلانا۔ (اسم مصدر)

دَعَوْتُمْ = میں نے بلایا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

دَعَوْتُمْ = تم نے بلایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

دَعَوْتُمْوَا = تم نے بلایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

حاضر

دُعِيَ = وہ بلایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد)

مذکر غائب)

دُعِيتُمْ = تم بلائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع)

مذکر حاضر)

د-ف

دَفَّأَ = سردی سے محفوظ رہنے کے لئے

گرم لباس۔ (اسم واحد) (جمع ادفاء ہے)

دَفَّعَ = دور کرنا۔ ہٹانا۔ (اسم مصدر)

دَفَّعْتُمْ = تم نے دور کیا۔ تم نے ہٹایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

جمع مذکر حاضر)

د-ک

دَكَ = نکلے نکلے کرنا۔ ٹپکانا۔ ڈھانا۔ گرا کر

برابر کرنا۔ (اسم مصدر)

دَرَسُوا = انہوں نے پڑھا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

دَرَكٌ = انجام بد۔ ورجہ۔ دوزخ۔ (اسم واحد)

طرف مکان)

دَرَكٌ = پکڑنا۔ حاصل کرنا۔ (اسم مصدر)

دَرِيٌّ = چپکنے والا۔ چمکدار ستارہ۔ (اسم واحد)

(جمع دراری ہے)

د-س

دَسَى = خاک میں ملایا۔ (ماضی۔ واحد)

مذکر غائب)

دُسِّرَ = میٹھیں۔ کیلیں۔ (اسم جمع) (واحد دسسر ہے)

د-ع

دَعُ = تو چھوڑ۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

دَعَا = وھیلانا۔ (مصدر)

دَعَا = اس نے بلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

دُعَاءٌ = پکارنا۔ بلانا۔ (اسم مصدر)

دُعَائِي = میرا بلانا۔ میری دعا۔ (مرکب اضافی)

دَعُوَا = دونوں نے بلایا۔ (ماضی۔ تشبیہ مذکر غائب)

غائب)

دَعُوَا = ان سب نے بلایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

غائب)

دَمَدَمَ = اس نے ہلاک کیا۔ اس نے تباہ کیا۔
(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

دَمَّرَ = اس نے اکھاڑ ڈالا۔ ہلاک کر دیا۔ (ماضی۔
واحد مذکر غائب)

دَمَّرْنَا = ہم نے ہلاک کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
دَمَّعَ = آسود۔ (جمع دموع ہے)

د-ن

دَنَى = وہ نزدیک ہوا۔ وہ قریب ہوا۔ (ماضی۔
واحد مذکر غائب۔ مصدر دُنُوٌّ)

دُنِيَا = دنیا۔ نزدیک تر۔ ذلیل۔ (اسم تفضیل۔
واحد مونث)

د-و

دَوَائِر = گردشیں۔ (اسم جمع) (واحد دائرۃ
ہے)

دَوَابٌّ = چارپائے۔ (اسم جمع) (واحد دابۃ ہے)
دَوْلَةٌ = لین دین۔ مال و دولت جو چیز گردش

میں رہے۔ غنیمت۔ (اسم واحد۔ جمع دَوَلٌّ ہے)
دُونٌ = سوائے۔ حقیر۔ کم۔ مقدار میں کمی یا
درجے میں کمی۔ (اسم ظرف)

د-ه

دِهَاقٌ = چھلکا۔ لبالب۔ (اسم مشتق)

دَمَّكَتٌ = وہ ڈھائی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مونث غائب)

دَمَكَّةٌ = ٹپکتا۔ ریزہ ریزہ کر دینا۔ (اسم مصدر)
دَمَكْنَا = دونوں ڈھائے گئے۔ ریزہ ریزہ کئے
گئے۔ (ماضی مجہول۔ تثنیہ مونث غائب)

د-ل

دَلَّ = اس نے راہ بتائی۔ راہنمائی کی۔ (ماضی۔
واحد مذکر غائب)

دَلَّى = اس نے اتارا۔ اس نے گرایا۔ (ماضی۔
واحد مذکر غائب)

دَلَّوْ = ڈول۔ (اسم واحد) (جمع دلاء' دلی ہے)
دَلْوَكٌ = سورج کا ڈھلنا۔ (اسم مصدر)

دَلِيلٌ = راہ نما۔ جہت (اسم واحد) (جمع دلائل
ہے)

د-م

دَمٌّ = خون۔ (اسم واحد) (جمع دماء ہے)
(مَا) دُمْتُ = جب تک تو رہا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر حاضر۔ فعل ناقص)

(مَا) دُمْتُ = جب تک میں رہا۔ (ماضی۔ واحد
متکلم۔ فعل ناقص)

(مَا) دُمْتُمْ = جب تک تم رہے۔ (ماضی۔ جمع
مذکر حاضر)

دِهَان = سرخ چمڑا۔ وہ چیز جو مالچ کی تہ میں بیٹھ جائے۔ (اسم مشتق)	دِيَةٌ = خون بہا۔ قصاص۔ (اسم واحد) (جمع دِيَاتُ ہے)
دَهْر = زمانہ۔ (اسم واحد) (جمع دهور ہے)	دَيْن = قرض۔ ادھار۔ (اسم واحد) (جمع دیون ہے)
دُهْن = تیل۔ (اسم واحد) (جمع دھان ہے)	دِين = مذہب۔ انصاف۔ (اسم واحد) (جمع ادیان ہے)
دِيَار = گھر۔ مکان۔ (واحد دار ہے)	دِينَار = اشرافی۔ سونے کا سکہ۔ (اسم واحد۔ جمع دنانیر ہے)
دِيَار = رہنے والا۔ بسنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)	

د-ی

(ذ)

ذَا = صاحب۔ والا (اسمائے ستہ کبرہ میں سے ایک بمعنی الَّذِي۔ ذَا حالت نسبی)	ذَائِقَةٌ = چکھنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
ذَات = صاحب۔ والی۔ (اسم واحد مونث۔ جمع ذوات ہے)	ذَائِقُونَ = چکھنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
ذَارِيَات = ہوائیں۔ کھلیان۔ اڑانے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)	ذَائِب = بھیروا۔ (اسم واحد) (جمع ذَائِبَاتُ ہے)
ذَائِقًا = دونوں نے چکھا۔ (ماضی۔ تنہیہ مذکر)	ذَائِبَات = بھیروا۔ (اسم واحد) (جمع ذَائِبَاتُ ہے)
ذَائِقَةٌ = چکھنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)	ذَائِقُونَ = چکھنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
ذَائِب = بھیروا۔ (اسم واحد) (جمع ذَائِبَاتُ ہے)	ذَائِبَات = بھیروا۔ (اسم واحد) (جمع ذَائِبَاتُ ہے)
ذَائِقًا = دونوں نے چکھا۔ (ماضی۔ تنہیہ مذکر)	ذَائِقُونَ = چکھنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
ذَائِقَةٌ = چکھنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)	ذَائِقُونَ = چکھنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
ذَائِب = بھیروا۔ (اسم واحد) (جمع ذَائِبَاتُ ہے)	ذَائِبَات = بھیروا۔ (اسم واحد) (جمع ذَائِبَاتُ ہے)
ذَائِقًا = دونوں نے چکھا۔ (ماضی۔ تنہیہ مذکر)	ذَائِقُونَ = چکھنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

اشارہ بعید باضمیر مخاطب- واحد مذکر

ذَالِكُمْ = یہ ایک مزد- یا سب مزد- (با ضمیر جمع مخاطب)

ذَالِكُمَا = یہ (دو مزد) (با ضمیر تثنیہ مخاطب)

ذَالِكُنَّ = یہ تم سب عورتیں- (با ضمیر مخاطب واحد مؤنث)

ذَانٍ = یہ دو- (اسم اشارہ- بحالت رفعی)

ذَانِكَ = یہ دو- (اسم اشارہ تثنیہ مذکر کے لئے)

ذَاهِبٌ = جانے والا- (اسم فاعل- واحد مذکر)

ذ-ب

ذُبَابٌ = کبھی- (اسم واحد) (جمع ذبابیب ہے)

ذُبِعٌ = ذبح کرنے کی چیز جیسے دنبہ- (اسم)

ذُبِحَ = وہ ذبح کیا گیا- (ماضی مجہول- واحد مذکر غائب)

ذُبِحُوا = انہوں نے حلال کیا- (ماضی- جمع مذکر غائب)

ذ-ر

ذَرٌّ = تو چھوڑ- (امر- واحد مذکر حاضر)

ذَرْنِي = تو مجھ کو چھوڑ- (امر- واحد مذکر حاضر)

ذَرَّ = بکھیرا- (اسم مصدر)

ذَرَّاءٌ = اس نے بکھیرا- (ماضی- واحد مذکر غائب)

ذِرَاعٌ = گز- ہاتھ- (اسم واحد) (جمع اذراع ہے)

ذِرَاعَيْنِ = دو ہاتھ- دو گز- (آخر سے "ن"

بوجہ اضافت گر گیا) (اسم شینہ) (واحد ذِرَاعٌ جمع اَذْرَاعٌ ہے)

ذَرَأْنَا = ہم نے بکھیرا- (ماضی- جمع متکلم)

ذَرَّةٌ = سرخ چوٹی- سرخ- ذرہ ریت، جو اندھیرے گھر میں دھوپ کی شعاع سے چمکتا ہے-

(اسم واحد) (جمع ذرائر ہے)

ذَرَعَ = ناپ کرنا- طاقت- مہنجائش- (اسم مصدر)

ذَرُّوا = تم چھوڑو- (امر- جمع مذکر حاضر)

ذُرِّيَّةٌ = اولاد- (اسم جمع)

ذُرِّيَّاتٌ = اولاد- (اسم جمع) (واحد ذریۃ ہے)

ذ-ق

ذُقُّ = تو چکھ- (امر- واحد مذکر حاضر)

ذ-ک

ذَكَرٌ = یاد- وحی- نصیحت- (اسم واحد- جمع

اذکار ہے)

ذَكَرٌ = ز- (اسم واحد) (جمع ذکور ہے)

ذَكَرَ = اس نے یاد کیا- (ماضی- واحد

ذکر غائب)

ذُكِرَ = وہ یاد کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد

ذکر غائب)

ذُكِرَ = وہ خوب نصیحت دیا گیا۔ (ماضی مجہول۔

واحد ذکر غائب)

ذُكِرَ = تو سمجھا۔ نصیحت کر۔ (امر۔ واحد ذکر

حاضر)

ذُكِرَى = نصیحت۔ سمجھانا۔ یاد کرنا۔ (اسم

مصدر)

ذُكِرَانٍ = دو نر۔ (اسم تشبیہ۔ واحد ذکر اور

جمع ذکور ہے)

ذُكِرَانٍ = سب مرد۔ (اسم جمع۔ واحد ذکر

ہے)

ذُكِرَتْ = تو نے یاد کیا۔ (ماضی۔ واحد ذکر

غائب)

ذُكِرْتُمْ = تم سمجھائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع

ذکر حاضر)

ذُكِرُوا = انہوں نے یاد کیا۔ (ماضی۔ جمع ذکر

غائب)

ذُكِرُوا = وہ سمجھائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع

ذکر غائب)

ذُكِرِينَ = دو نر۔ (اسم تشبیہ) (واحد ذکر اور

جمع ذکور ہے)

ذُكُورٍ = سب نر۔ (اسم جمع) (واحد ذکر اور

تشبیہ ذکرین ہے)

ذُكَيْشُمْ = تم نے ذبح کیا۔ (ماضی۔ جمع ذکر

حاضر)

ذ-ل

ذُلٌّ = ذلیل کرنا۔ رسوا کرنا۔ (اسم مصدر)

ذِلَّةٌ = خواری۔ رسوائی۔ (اسم مشتق)

ذُلٌّ = مطیع۔ فرمانبردار۔ ہموار۔ (اسم جمع) (واحد

ذلول ہے)

ذُلِّلْتُ = وہ جھکائی گئی۔ نیچی کی گئی۔ (ماضی

مجہول۔ واحد مونث غائب)

ذُلِّلْنَا = ہم نے تابعدار کیا۔ ہم نے ماتحت کیا۔

(ماضی۔ جمع متکلم)

ذُلُولٌ = نرم۔ فرمانبردار۔ (جمع ذلل ہے)

ذ-م

ذِمَّةٌ = امان۔ حفاظت۔ (اسم واحد) (جمع ذمم

ہے)

ذ-ن

ذَنْبٌ = گناہ۔ (اسم واحد) (جمع ذنوب ہے)

ذُنُوبٌ = حصہ عذاب کا۔ پانی سے بھر ہوا

ڈول۔ (اسم جمع) (واحد ذَنْبٌ ہے)

ذ-و

ذُو - والا- صاحب- (اسم واحد) (جمع ذوون
ہے۔ بحالت رفعی)

ذُو الْكِفْلِ = پیغمبر کا نام ہے۔ (اسم علم۔ مرکب
اضافی)

ذَوَا - ذَوِی = دو صاحب۔ (اسم تثنیہ۔ واحد
ذو ہے ذَوَا حالت رفعی اور ذَوِی حالت نصی)
ذَوَات = والیاں۔ صاحبات۔ (واحد ذات ہے۔
مونث کے لئے)

ذَوَاتَا = والیاں۔ صاحبتان۔ (تثنیہ کا "نون" مگر
گیا۔ مونث کے لئے۔ بحالت رفعی۔ واحد ذات
اور جمع ذوات ہے)

ذَوَاتَا أَفْئَان = بڑی بڑی شاخوں والے۔
ذُوقُوا = تم چکھو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

ذَوَاتِی = والیاں۔ صاحبتان۔ خلاف قیاس۔
(تثنیہ مونث۔ واحد ذات جمع ذَوَات ہے۔ بحالت

نصی و جری)

ذَوِی = دو صاحب۔ (اسم تثنیہ۔ "ن" بوجہ
اضافت مگر گیا۔ واحد ذُو اور جمع اُوْلُو ہے۔ بحالت

نصی و جری)

ذَوِی عَدْلِ = دو صاحب تقویٰ۔ (مرکب
اضافی)

ذ-ہ

ذَہ = یہ عورت۔ ذَا کا مونث ہے۔ اصل میں
ذی تھا۔ "ی" کو "ہ" سے بدلا (اسم اشارہ)
ذَهَاب = لے جانا۔ (بصلہ "با" مصدر)
ذَهَبٌ = سونا۔ زمین سے نکلنے والی ایک
دھات۔ (اسم)

ذَهَبٌ = وہ گیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

ذَهَبْتُ = وہ گئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

ذَهَبْنَا = ہم گئے۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ذَهَبُوا = وہ گئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

ذ-ی

ذِی = صاحب۔ والا۔ (بحالت جری)

ذِی الْقُرْنَيْنِ = دو سینگوں والا۔ (مرکب
اضافی۔ بحالت جری)



(ر)

ر - ا

رَابِطُوا = تم باندھو۔ گے رہو۔ جے رہو۔
(امر۔ جمع مذکر حاضر)

رَابِعٌ = چوتھا۔ (اسم عدد)

رَابِئِيٌّ = چڑھنے والا۔ زیادہ ہونے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

رَابِئِيَّةٌ = بڑی پکڑ۔ بست ہونے والی۔ مضبوط گرفت۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

رَأَتْ = اس نے دیکھا۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

رَاجِعُونَ = رجوع کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

رَاجِفَةٌ = کانپنے والی۔ ہلنے والی۔ (مراد زمین صور کی پہلی آواز سے کانپنے لگے گی) (اسم فاعل۔ واحد مونث)

رَاجِمِينَ = رحم کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

رَادٌ = پھیرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
رَادِفَةٌ = پیچھے آنے والی۔ صور کی دوسری

آواز۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

رَادُّوْا = پھیرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر بحالت رفعی۔ "نون" گرا ہوا ہے۔)

رَادِّيٌّ = پھیرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر بحالت نصی و جری۔ آخر سے "ن" اضافت کی وجہ سے گرا ہوا ہے۔)

رَازِقِينَ = روزی دینے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر بحالت نصی و جری)

رَاسٌّ = سر۔ (اسم واحد) (جمع رؤس ہے)

رَاسِيُونَ = مضبوط رہنے والے علم میں۔ ثابت رہنے والے۔ بڑے عالم۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر بحالت رفعی)

رَاسِيَاتٌ = جمی رہنے والیاں۔ پہاڑیاں۔ پہاڑ کی مانند دیکھیں۔ (اسم جمع) (واحد راسیة ہے)

رَاسِدُونَ = نیک۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

رَاضِيَةٌ = خوش ہونے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

رَاعِنًا = ہم کو رعایت کر۔ (فعل امر)

رَاعُونَ = نگاہ رکھنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

رَاعٍ = وہ دوڑا (ماضی بصلہ الی۔ واحد

مذکر غائب

رَاغِبٌ = رغبت کرنے والا۔ منہ پھیرنے والا۔

(اسم فاعل بصلہ عن۔ واحد مذکر)

رَاغِبُونَ = رغبت کرنے والے۔ (اسم فاعل۔

جمع مذکر)

رَأْفَةٌ = مہربانی۔ نرمی۔ شفقت۔ (اسم مشتق)

رَافِعٌ = اٹھانے والا۔ بلند کرنے والا۔ (اسم

فاعل۔ واحد مذکر)

رَافِعَةٌ = اٹھانے والی۔ بلند کرنے والی۔ (اسم

فاعل۔ واحد مؤنث)

رَاقٍ = پھونک جھاڑ کرنے والا۔ (اسم فاعل۔

واحد مذکر)

رَاقِعٌ = جھکنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

رَاكِعُونَ = جھکنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

رَانَ = اس نے زنگ پکڑا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

رَأَوْا = انہوں نے دیکھا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

رَاوَدَتْ = اس (عورت) نے چاہا۔ اس نے

پھسلایا۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

رَاوَدْتُ = میں نے پھسلایا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

رَاوَدْتُنَّ = تم نے پھسلایا۔ (ماضی۔ جمع مؤنث

حاضر)

رَاوَدُوا = انہوں نے پھسلایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

رُءُوسٌ = سر۔ (واحد رأس ہے)

رُءُوفٌ = بڑا مہربان۔ نام اللہ تعالیٰ۔ (اسم

مبالغہ)

رَاهِبٌ = عابد۔ پارسا۔ (جمع رُهَبَانٌ ہے)

رَأْيٌ = دیکھنا۔ عقل۔ رائے۔ (اسم مصدر)

رَأَى = اس نے دیکھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

رِئَاءٌ = نمود۔ نمائش۔ (اسم مشتق)

رُءُيَا = خواب دیکھنا۔ (جمع رُؤَى ہے)

رَأَيْتَ = تو نے دیکھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

رَأَيْتُ = میں نے دیکھا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

رَأَيْتُمْ = تم نے دیکھا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

رَأَيْتُمُوْا = تم نے دیکھا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

رَأَيْنَ = انہوں نے دیکھا۔ (ماضی۔ جمع مؤنث

غائب)

ر-ب

رَبٌّ = صاحب۔ پالنے والا۔ اللہ کا صفاتی نام۔

(اسم مصدر)

رَبٌّ = اس نے پالا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

رُبٌّ = بت کم۔ (حرف جر)

رَبُو = سو۔ (اسم مشتق)

رَبَائِبٌ = بیٹیاں جو دوسرے خاندان سے ہوں۔

رَتَّلْنَا = ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ر-ج

رَجَّحَ = ہلانا۔ کانپنا۔ (اسم مصدر)
رِجَالٌ = مرد۔ آدمی۔ (واحد رَجُلٌ ہے)
رُجَّتْ = وہ ہلائی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مونث غائب)

رَجَزٌ = عذاب۔ بلا۔ ناپاکی۔ (اسم مشتق)
رُجِزٌ = بت۔ (اسم مشتق)

رَجِسٌ = آفت۔ ناپاکی۔ پلیدی۔ (اسم مشتق)
رَجَعٌ = مڑنا۔ لوٹنا۔ (اسم مصدر)
ذَاتِ الرَّجْعِ = پھرنے والا۔ چکر کاٹنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

رَجَعٌ = وہ پھرا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
رُجِعِيْ = پھر جانا۔ واپس جانا۔ (اسم مصدر)
رُجِعْتُ = وہ پھیری گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مونث غائب)
رَجَعْتُمْ = تم پھرے۔ (مضارع۔ جمع مذکر حاضر)

رَجَعْنَا = ہم پھرے۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
رَجَعُوا = وہ پھرے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
رَجْفَةٌ = زلزلہ۔ (اسم مشتق)
رِجَالٌ = پاؤں۔ (جمع أَرْجُلٌ ہے)

(واحد رِبِيَّةٌ ہے)

رِبَاطٌ = باندھنا۔ پالنا۔ پرورش کرنا۔ (جس سے کوئی چیز باندھی جائے) (اسم مصدر)
رُبَاعٌ = چار چار۔ (اسم عدد)

رَبَائِيُونٌ = درویش۔ راہب۔ (اسم جمع) (واحد ربانی ہے)
رَبَّتْ = وہ ابھری۔ بلند ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

رَبِيْحَةٌ = وہ فائدہ مند ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

رَبَطْنَا = ہم نے باندھا۔ ہم نے پروان چڑھایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

رُبُعٌ = چوتھائی۔ (اسم عدد)
رُبْمًا = کئی بار۔ زیادہ بار۔ ("رب" حرف جار۔ اور "مًا" کاذب سے مرکب ہے)

رَبْوَةٌ = بلندی۔ ٹیلہ۔ (اسم واحد) (جمع ربی ہے)

رَبِيُونٌ = اللہ کے سپاہی۔ اللہ والے۔ (اسم جمع۔ واحد ربی ہے)

ر-ت

رَتَّقٌ = جڑا ہوا۔ منہ بند۔ (اسم مشتق)
رَتَلٌ = صاف صاف پڑھ۔ آہستہ آہستہ پڑھ۔ (اسم مصدر)
(امر۔ واحد مذکر حاضر)

رَجُلٌ = پیادہ۔ (جمع رُجَالِی ہے)

رَجُلٌ = مرد۔ (جمع رجال ہے)

رَجُلَانٍ = دو مرد۔ (اسم تثنیہ) (واحد رَجُلٌ اور جمع رَجَالٌ ہے۔ بحالت رفعی)

رَجُلَیْنِ = دو مرد۔ (اسم تثنیہ) (واحد رَجُلٌ اور جمع رَجَالٌ ہے۔ بحالت نصی و جری)

رَجْمٌ = سنگسار کرنا۔ (اسم مصدر)

رَجْمْنَا = ہم نے سنگسار کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

رَجْوَعٌ = پھرنا۔ پھیرنا۔ (اسم مصدر)

رَجُومٌ = سنگساری کا سبب۔ (واحد رجم ہے)

رَجِیمٌ = ملعون۔ لعنتی۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

ر-ح

رِحَالٌ = کپاوے۔ ہودج۔ (واحد رِحْلَةٌ ہے)

رِحْبَتٌ = وہ کشادہ ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

رِحْلٌ = کپاؤ۔ (اسم واحد) (جمع رحال ہے)

رِحْلَةٌ = کوچ۔ سفر۔ (اسم واحد) (جمع رحال ہے)

رِحْمٌ = بچہ دانی۔ قربت والا۔ رشتے دار۔

رِحْمٌ = اس نے رحم کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

رُحَمَاءٌ = رحم دل۔ رحم کرنے والے۔ (اسم جمع) (واحد رَجِیمٌ ہے)

رُحْمَةٌ = مہربانی۔ مہر۔ (اسم مشتق)

رَحْمَنٌ = بڑا مہربان۔ (اسم مشتق)

رَحِمْنَا = ہم نے رحم کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

رَحِیقٌ = شراب خالص۔ (اسم مشتق)

رَحِیمٌ = نہایت رحم والا۔ (اسم واحد۔ جمع رُحَمَاءٌ ہے)

ر-خ

رُخَاءٌ = نرم۔ ملائم

ر-د

رَدٌّ = پھیرنا۔ (اسم مصدر)

رَدَّ = اس نے پھیر دیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

رِدْءٌ = یار۔ مددگار۔ ساتھ۔ پشتی بان۔ (صفت مشبہ)

رُدَّتٌ = وہ پھیری گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مؤنث غائب)

رُدِدْتُ = میں پھیرا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد متکلم)

رَدَدْنَا = ہم نے پھیرا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

رَدْفٌ = وہ پیٹھ پیچھے ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

رَدْمٌ = یاہوج ماہوج کی موٹی دیوار۔ رخندہ۔

رَسُولٌ = خبر لانے والا۔ پیغمبر۔ (جمع رسل ہے)

ر-ش

رَشَادٌ = سیدھی راہ۔ نیکی کی راہ۔ (اسم مصدر)

رُشِدٌ = بھلائی۔ سیدھی راہ پر ہونا۔ (اسم مصدر)

رُشْدٌ = بھلائی۔ نیک راہ۔ ہدایت۔ درستی۔ (اسم مصدر)

رَشِيْدٌ = نیک۔ صالح۔ (اسم فاعل)

ر-ص

رَصَدٌ = گھات میں بیٹھنے والے۔ (مصدر بمعنی اسم فاعل۔ واحد راصد ہے)

ر-ض

رَضَاعَةٌ = دودھ پلانے کی مدت۔ دودھ پلانا۔ دو برس۔ (اسم مصدر۔ اسم زمان)

رِضْوَانٌ = خوشنودی۔ رضامندی۔ (اسم مصدر)
رَضِيٌّ = وہ راضی ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

رَضِيٌّ = پسندیدہ۔

رَضِيْتُ = میں نے پسند کیا۔ (ماضی۔

بندش۔ جمع ردوم ہے)

رَدُوٌّ = انہوں نے پھیرا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

رَدُّوْا = وہ پھیرے گئے۔ تم پھیرو۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب۔ امر۔ جمع مذکر حاضر)

ر-ز

رَزَاقٌ = روزی دینے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر) (اسم مبالغہ)

رِزْقٌ = روزی۔ (اسم۔ جمع ارزاق ہے)

رَزَقَ = اس نے روزی دی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

رَزَقْنَا = ہم نے روزی دی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

رُزِقْنَا = ہم رزق دیئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع متکلم)

رُزِقُوا = وہ روزی دیئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)

ر-س

رَسٌّ = ایک کنوئیں کا نام ہے جس میں ایک پیغمبر کو ان کی قوم نے قید کیا تھا۔ (اسم۔ ظرف مکان)

رِسَالَةٌ = پیغام۔ (جمع رسالات ہے)

رُسُلٌ = پیغمبر۔ (واحد رسول ہے)



واحد متکلم

رَضِيْشُمْ = تم نے پسند کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

رُطِبَ = کچی کھجور۔ تازہ کھجور۔ (اسم۔ جمع

رطاب ہے)

رُطِبَ = ہرا۔ تازہ۔ (اسم مشتق)

رِعَاءَ = چرواہے۔ (واحد راعی ہے)

رِعَايَةَ = نباہنا۔ رعایت کرنا۔ حفاظت کرنا۔ (اسم

مصدر)

رُعْبٌ = ڈر۔ دھاک۔ خوف۔ (جمع رُعْبٌ ہے)

رَعْدٌ = گرج۔ دھکم۔ (اسم علم)

رَعَوْا = انہوں نے رعایت کی۔ انہوں نے

نباہا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

ر-ق

رَقِيٌّ = ورق۔ ہرن کا چمڑا۔ (اسم واحد) (جمع

رقوق ہے)

رَقِيٌّ مَنَّشُوْرٌ = لوح محفوظ۔ (مرکب توہمینی،

بحالت جبری)

رِقَابٌ = گردنیں۔ (اسم جمع۔ واحد رقبة ہے)

رَقَبَةٌ = غلام۔ گروں۔ (اسم واحد۔ جمع رقاب

ہے)

رُقُوْدٌ = سونے والے۔ سوتے ہوئے۔ (اسم جمع۔

واحد راقد ہے)

رَقِيٌّ = چڑھنا۔ (اسم مصدر)

ر-غ

رَغِبَ = اس نے خواہش کی۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

رَغَدٌ = جی بھر کر۔

ر-ف

رُفَاتٌ = چورا۔ ریزہ ریزہ۔ کلوے کلوے۔

(اسم مشتق)

رِفْلًا رَفَتْ = بے پردگی۔ (شمس گفتگو) (اسم)

رِفْدٌ = انعام۔ (اسم واحد۔ جمع ارفاد اور

رَقِيبٌ = دیکھنے والا۔ نگہبان۔ (جمع رقباء ہے)
رَقِيمٌ = گاؤں۔ میدان کا نام۔ (اسم علم)

ارکان ہے)

رَكُوْبٌ = سواری۔

ر-ک

ر-م

رِکَابٌ = سواری کا اونٹ۔ (اسم واحد۔ جمع ركب اور رکائب ہے)

رَمَلِيٌّ = اس نے تیر چلایا۔ اس نے پھینکا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

رِمَاحٌ = نیزے۔ (اسم جمع) (واحد رمح ہے)

رُكَامٌ = تہ بہ تہ۔ (اسم مشتق)

رَمَادٌ = راکھ۔ (اسم واحد) (جمع ارمدة ہے)

رَكِيبٌ = قافلے۔ سوار نو سے زیادہ۔ کسی سواری پر سوار ہونا۔

رُمَانٌ = انار۔ (اسم جمع) (واحد رمانة ہے)

رَمَزٌ = ہاتھ۔ سر اور آنکھ سے اشارہ۔ (اسم واحد) (جمع رموز ہے)

رَكْبٌ = شتر سواروں کا قافلہ۔ اونٹ یا گھوڑوں کی تعداد جو دس سے زیادہ ہو۔ (اسم واحد۔ جمع رکوب ہے)

رَمَضَانٌ = روزوں کے مہینہ کا نام۔ (اسم علم)

رَكَبٌ = اس نے جوڑ دیا۔ اس نے ترکیب دی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

رَمِيَتْ = تو نے تیر چلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

رَكِيْبَانٌ = وہ دونوں سوار ہوئے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

رَمِيَتْ = تو نے تیر چلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

رَكِيْبَانٌ = وہ دونوں سوار ہوئے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

رَمِيَتْ = تو نے تیر چلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

رَكِيْبَانٌ = وہ دونوں سوار ہوئے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

رَمِيَتْ = تو نے تیر چلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

رَكِيْبَانٌ = وہ دونوں سوار ہوئے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

رَمِيَتْ = تو نے تیر چلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

رَكِيْبَانٌ = وہ دونوں سوار ہوئے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

رَمِيَتْ = تو نے تیر چلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

رَكِيْبَانٌ = وہ دونوں سوار ہوئے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

رَمِيَتْ = تو نے تیر چلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

رَكِيْبَانٌ = وہ دونوں سوار ہوئے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

رَمِيَتْ = تو نے تیر چلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

رَكِيْبَانٌ = وہ دونوں سوار ہوئے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

رَمِيَتْ = تو نے تیر چلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

رَكِيْبَانٌ = وہ دونوں سوار ہوئے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

رَمِيَتْ = تو نے تیر چلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

رَكِيْبَانٌ = وہ دونوں سوار ہوئے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

رَمِيَتْ = تو نے تیر چلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

رَكِيْبَانٌ = وہ دونوں سوار ہوئے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

رَمِيَتْ = تو نے تیر چلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

رَكِيْبَانٌ = وہ دونوں سوار ہوئے۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

رَهُو = ساکن۔ تھرا رہا۔

رَهِيْن = گروی کیا گیا۔ (بمعنی مفعول)

رَهِيْنَتَه = گروی رکھی ہوئی چیز۔ (اسم واحد۔

بمعنی مفعول)

ر-ی

رِيَاء = دکھلاوا۔ (اسم مصدر)

رِيَاح = ہوائیں۔ (اسم جمع) (واحد ریح ہے)

رَيْب = شک۔ دھوکا۔ گردش۔ (اسم مشتق)

رَيْبَ الْمُنَوْن = گردش زمانہ۔ گردش لیل و

نہار۔

رَيْبَه = شک و شبہ۔ (اسم واحد) (جمع ریب

ہے)

رِيح = بو۔ ہوا۔ (اسم واحد) (جمع ریح ہے)

رِيحَان = روزی۔ فرزند۔ خوشبو دار گھاس

کانام جس کو سپرغم کہتے ہیں۔ (اسم واحد) (جمع

ریاحین ہے)

رِيْش = رونق۔ پرندے کا پر۔ (اسم واحد) (جمع

ریاش ہے)

رِيْع = ٹیلا زمین۔ بلند۔ (اسم واحد) (جمع ریاع

ہے)

رِيَاع = نیلے۔ (اسم جمع) (واحد ریع ہے)

رَوْح = اچھی ہوا۔ آرام۔ رحمت۔ (اسم مشتق)

رَوْضَات = باغات۔ (اسم جمع) (واحد روضه

ہے)

رَوْضَةٌ = باغ۔ (اسم واحد) (جمع ریاض ہے)

رَوْع = خوف۔ (اسم مصدر)

رُوم = رومی لوگ۔ (اسم علم)

رُؤْيْدًا = تھوڑی سی سلت۔ ڈھیل۔ (اسم

زمان)

ر-ہ

رِهَان = گروی رکھنا۔ (اسم مصدر)

رَهْبٌ = ڈرنا۔ (اسم مصدر)

رَهْبٌ = ڈر۔ خوف۔

رُهْبَان = درویش۔ تارک الدنیا۔ (واحد راہب

ہے)

رَهْبَانِيَّة = دنیا چھوڑنا۔ یعنی کھانا پینا لباس اور

نکاح ترک کرنا۔ ایسی ریاضت اسلام میں منع ہے

مگر نصاریٰ کرتے ہیں۔ (اسم مصدر)

رَهْبَةٌ = ڈرنا۔ رعب۔ (اسم مصدر)

رَهْطٌ = قوم۔ بھائی۔ قبیلہ۔ ایسی جماعت جن

کی تعداد تین سے نو تک ہو۔

رَهَقٌ = سرچھنا۔ سرکشی۔ ظلم۔ (اسم مصدر)

(ز)

(ماضی- تشنیہ مونث غائب)

زَانِي = بدکار مرد- (اسم فاعل- واحد مذکر)

زَانِيَةٌ = بدکار عورت- (اسم فاعل- واحد مونث)

زَاهِدِيْنَ = بیزار ہونے والے- (اسم فاعل- جمع مذکر (واحد زاہد ہے))

زَاهِقٌ = نکل بھاگنے والا- (اسم فاعل- واحد مذکر)

ز-ب

زَبَانِيَّةٌ = دوزخ کے انیس فرشتے- پیادے جو عذاب پر متعین ہیں- (اسم جمع) (واحد زبينة ہے)

زَبَدٌ = جھاگ- (اسم واحد) (جمع ازباد ہے)

زَبْرٌ = تختیاں- ورق- (اسم جمع) (واحد زبور ہے)

زَبُورٌ = نام کتاب جو حضرت داؤد عَلَيْهِ السَّلَامُ پر نازل ہوئی- (اسم علم)

ز-ج

زُجَاجَةٌ = شیشہ- (اسم)

ز-ا

زَاجِرَاتٌ = ڈانٹنے والیاں- (اسم جمع) (واحد زاجرة ہے)

زَادٌ = توشہ- زاد راہ- (جمع ازواد)

زَادٌ = اس نے بڑھایا- (ماضی- واحد مذکر غائب)

زَادَتْ = اس نے بڑھایا- (ماضی- واحد مونث غائب)

زَادُوْا = انہوں نے بڑھایا- (ماضی- جمع مذکر غائب)

زَارِعُوْنَ = کھیتی کرنے والے- (اسم فاعل- جمع مذکر)

زَاعٌ = وہ گمراہ ہوا- ٹیڑھا ہوا- (ماضی- واحد مذکر غائب)

زَاعَتْ = وہ گمراہ ہوئی- (ماضی- واحد مونث غائب)

زَاعُوْا = وہ پھر گئے- (ماضی- جمع مذکر غائب)

زَالَتْ = وہ ہمیشہ رہی- (ماضی- واحد مونث غائب)

زَالَتَا = دونوں (زمن و آسمان) زائل ہوئے-

ز-ع

زَعَمَ = گمان (اسم مشتق)

زَعَمَ = اس نے دعویٰ کیا۔ گمان کیا۔ (ماضی)

واحد مذکر غائب

زَعَمْتُمْ = تو نے گمان کیا۔ (ماضی) واحد مذکر

حاضر

زَعَمْتُمْ = تم نے گمان کیا۔ (ماضی) جمع مذکر

حاضر

زَعِيمٌ = ضامن۔ گمان کرنے والا۔ ذمہ دار۔

(اسم فاعل) واحد مذکر

ز-ف

زَفِيرٌ = گدھے کی پہلی آواز۔ باریک آواز (اسم مشتق)

مشتق

ز-ق

زَقُومٌ = دوزخیوں کا کھانا (تھوہرا)۔ (اسم مشتق)

ز-ک

زَكِيٌّ = وہ پاک ہو۔ وہ سنورا۔ (ماضی) واحد

مذکر غائب

زَكَاةٌ = پاک کرنا۔ سال میں مال سے

چالیسواں حصہ دینا جو کہ فرض ہے۔ (اسم مصدر)

زَجْرٌ = جھڑکنا۔ ڈانٹنا (اسم مصدر)

زَجْرَةٌ = جھڑک۔ ڈیٹ۔ (اسم مشتق)

ز-ح

زُحْرِحَ = وہ دور کیا گیا۔ وہ بچا لیا گیا۔ (ماضی)

بجول۔ واحد مذکر غائب

زُحْفٌ = لڑائی۔ بڑا لشکر۔ (اسم مصدر)

زُخْرُوفٌ = سونا۔ آرائش۔ کسی چیز کی ظاہری

خوبصورتی۔ (اسم واحد) (جمع زخارف ہے)

ز-د

زِدٌّ = تو زیادہ دے۔ (امر) واحد مذکر حاضر

زِدْنَا (هَمْ) = ہم نے بڑھایا۔ (ماضی) جمع متکلم

ز-ر

زَرَابِيٌُّّ = عالیچے۔ عمدہ بچھونے۔ (اسم جمع) واحد

زریبی ہے

زُرَّاعٌ = کھیتی بونے والے۔ (اسم جمع) واحد

زارع ہے

زُرْتُمُ = تم نے دیکھا۔ تم نے ملاقات کی۔

(ماضی) جمع مذکر حاضر

زُرْقٌ = نیلا۔ نیلی آنکھوں والا (اسم جمع) واحد

ازرق ہے

زَرَعٌ = کھیتی۔ (اسم واحد) (جمع زروع ہے)

ز - م

زَمْرٌ = جتھے۔ گردہ گردہ۔ (اسم جمع) (واحد زمرة ہے)
زَمَّهْرِيوُ = سرودی۔ ٹھنڈی۔

ز - ن

زِنًا = بدکاری۔ (اسم مصدر)
زَنْجَبِيلٌ = سوٹھ۔ (اسم جامد)
زِنُوًا = تم تولو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
زَيْنِمٌ = زنا سے بدنام۔ حرامزادہ۔ (اسم مشتق)

ز - و

زَوَالٌ = زائل ہو جانا۔ نہ رہنا۔ (اسم مصدر)
زَوْجٌ = خاوند۔ بیوی۔ جوڑا۔ (اسم واحد) (جمع ازواج ہے)
زَوْجَانٌ = دو جوڑے۔ (اسم تشبیہ۔ بحالت رفقی۔ واحد زوج جمع ازواج ہے)
زُوجَتْ = وہ ملائی گئی۔ جوڑی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مونث غائب)
زَوْجُنَا = ہم نے ملایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
زَوْجَيْنِ = میاں بیوی۔ (اسم تشبیہ۔ بحالت نصی و جبری۔ واحد زوج جمع ازواج ہے)
زُورٌ = جھوٹ۔ (اسم مشتق)

زَكِيٌّ = اس نے پاک کیا۔ اس نے سنوارا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

زَكَرِيَّاٌ = نام ایک پیغمبر کا ہے۔ (اسم علم)

زَكِيٌّ = پاک مرد۔ (اسم صفت شبہ۔ جمع ازکیا ہے۔ صفت شبہ)

زَكِيَّةٌ = پاکیزہ عورت۔ (صفت شبہ)

ز - ل

(هَذَا) زِلْتُمْ = تم ہمیشہ رہے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

زَلْزَالٌ = ہلانا۔ زلزلہ۔ حرکت دینا۔ (اسم مصدر)
زَلُولٌ = وہ ہلائی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مونث غائب)

زَلُولَةٌ = زلزلہ۔ بھونچال۔ (اسم واحد)

زَلُولُوا = وہ ہلائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)

زُلْفٌ = رات کا ابتدائی حصہ۔ (اسم واحد) (جمع زلف ہے)

زُلْفِيٌّ = نزدیکی۔ مرتبہ۔ (اسم مشتق)

زُلْفَةٌ = نزدیک۔ اول رات میں ایک حصہ۔ (اسم واحد) (جمع زلف ہے)

زَلَقٌ = چٹیل میدان۔ صاف میدان۔

زَلَلْتُمْ = تم پھسلے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

ز-ہ

زَهْرَةٌ = رونق- تازگی- (اسم واحد- جمع زهر ہے)
 زَهَقَ = وہ ناچیز ہوا- (ماضی- واحد مذکر غائب)
 زَهُوقٌ = مٹ جانے والا- ناچیز ہونے والا- (اسم فاعل- واحد مذکر)

ز-ی

زَيْتٌ = زیتوں کا تیل- (اسم واحد- جمع زیت ہے)
 زَيْتُونٌ = زیتوں- (ایک میوہ دار درخت کا نام ہے) (اسم جمع) (واحد زیتونہ ہے)
 زَيْتُونَةٌ = زیتوں کا درخت- (اسم واحد) (جمع زیتون ہے)

زَيْدٌ = رسول اکرم ﷺ کے متبنی کا نام ہے جو حضرت حارثہ بن ہشام کے بیٹے تھے- (اسم علم)

زَيْعٌ = ٹیڑھا پن- کچی- (اسم مصدر)
 زَيْلْنَا = ہم نے جدا کیا- (ماضی- جمع متکلم)
 زَيْنٌ = اس نے سنوارا- (ماضی- واحد مذکر غائب)
 زَيْنٌ = وہ سنوارا گیا- وہ آراستہ کیا گیا- (ماضی مجہول- واحد مذکر غائب)

زَيْنًا = ہم نے زینت دی- (ماضی- جمع متکلم)
 زَيْتٌ = اس عورت نے سنوارا- (ماضی- واحد مؤنث غائب)
 زَيْنَةٌ = بناؤ سنگار- (اسم مشتق)
 زَيْنُوا = انہوں نے سنوارا- (ماضی- جمع مذکر غائب)
 يَوْمُ الزَّيْنَةِ = عید کا دن- جشن کا دن-



(س)

س-ا

س = عنقریب- جلدی- (حرف استقبال ہے جیسے سَيَصْرِبُ مزارع کی علامت ہے)
 سَاءَ = اس نے برا کیا- (ماضی- واحد)

سَائِبَةٌ = سائینی- (جاہلیت میں اونٹنی کو بتوں کے نام سے منت کر کے آزاد کرتے اور چھوڑ دیتے اور بعض نے کہا ہے کہ جب اونٹنی دس بچے ماہ جنتی تب اس کو چھوڑ دیتے- اس پر

سوار نہ ہوتے اور اس کا دودھ بچہ یا مہمان نہ پیتے اور جب مرتی اس کا گوشت سب مرد

عورتیں کھاتے۔ (جمع سوانب)

سَاءَةٌ = اس نے برا کیا۔ (ماضی۔ واحد
مونث غائب)

سَائِحَاتٌ = روزہ رکھنے والیاں۔ ہجرت
کرنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)

سَائِحُونَ = روزہ رکھنے والے۔ عبارت
کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت رفعی)

سَائِغٌ = مزے دار۔ خوش ذائقہ۔ (اسم
مشتق)

سَائِقٌ = پیچھے سے ہانکنے والا۔ (اسم فاعل۔
واحد مذکر)

سَائِلٌ = پوچھنے والا۔ مانگنے والا۔ (اسم فاعل۔
واحد مذکر)

سَائِلِينَ = مانگنے والے۔ (اسم جمع) (واحد
سائل ہے۔ بحالت نصی جری)

سَائِحَاتٌ = تیرنے والیاں۔ کشتیاں۔ فرشتے۔
ارواح۔ (واحد سائحة ہے۔ جمع مونث سالم)

سَائِغَاتٌ = کشادہ۔ کشادہ زرہیں۔ فراخ۔ پورا
ہونا۔ (اسم جمع) (واحد سائغہ ہے۔ جمع مونث
سالم)

سَائِقٌ = آگے ہونے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر)

سَارِبٌ = گلیوں میں پھرنے والا۔ ظاہر ہونے

سَائِبَاتٌ = آگے بڑھنے والیاں۔ (اسم فاعل۔
جمع مونث)

سَائِقُوا = تم دوڑو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

سَاجِدٌ = سجدہ کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر)

سَاجِدُونَ = سجدہ کرنے والے۔ (اسم فاعل۔
جمع مذکر)

سَاحَةٌ = گھر کے اندر کا صحن۔ آنگن۔ (اسم
واحد) (جمع ساح و سوح و ساحات ہے)

سَاحِرٌ = جادو گر۔ (اسم واحد) (جمع ساحرون
ہے)

سَاحِرَانٌ = دو جادو گر۔ (اسم تشبیہ کی رفعی
حالت) (واحد ساحر اور جمع ساحرون ہے)

سَاحِرُونَ = جادو گر۔ (اسم جمع۔ بحالت رفعی۔
واحد ساحر ہے)

سَاحِلٌ = دریا۔ کنارہ۔ (اسم واحد) (جمع
سواحل ہے)

سَاحِرِينَ = ہنسنے والے۔ مذاق اڑانے والے۔
(اسم فاعل بحالت نصی و جری۔ جمع مذکر)

سَادَاتٌ = سردار۔ (اسم جمع) (واحد سید ہے)
سَادِسٌ = چھٹا۔ (اسم عدد)

سَارٌ = اس نے سیر کی۔ وہ چلا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

سَارِبٌ = گلیوں میں پھرنے والا۔ ظاہر ہونے

والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

سَارِعُونَ = تم دوڑو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

سَارِقٌ = چرانے والا۔ چور۔ (اسم فاعل۔ واحد

مذکر)

سَارِقَةٌ = چرانے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد

مونث)

سَارِقُونَ = چرانے والے۔ (اسم فاعل بحالت

رفعی۔ جمع مذکر)

سَاعَةٌ = گھڑی۔ روز قیامت۔ (اسم مصدر)

سَافِلٌ = نیچے رہنے والا۔ ٹھہرنے والا۔ (اسم

فاعل۔ واحد مذکر)

سَافِلِينَ = نیچے رہنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر۔ نصی جری حالت)

سَاقٌ = پنڈلی۔ تختی۔ (اسم واحد۔ جمع سوق

ہے)

سَاقِطٌ = گرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

سَاقِيٌّ = دو پنڈلیاں۔ (اصل میں ساقین تھا۔

”ن“ اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ اسم تشبیہ۔

بحالت نصی و جری۔ واحد ساق اور جمع سوق

ہے)

سَاكِنٌ = رہنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

سَأَلَ = اس نے پوچھا۔ مانگا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

سُئِلَ = وہ پوچھا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد

مذکر غائب)

سَأَلْتُ = تو نے پوچھا۔ سوال کیا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر حاضر)

سَأَلْتُ = میں نے پوچھا۔ میں نے سوال کیا۔

(ماضی۔ واحد متکلم)

سَأَلْتُ = اس نے پوچھا۔ اس نے سوال

کیا۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

سُئِلْتُ = وہ پوچھی گئی۔ وہ سوال کی گئی۔

(ماضی مجہول۔ واحد مونث غائب)

سَأَلْتُمْ = تم نے پوچھا۔ تم نے سوال کیا۔

(ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

سَأَلْتُمُوْا = تم نے پوچھا۔ تم نے سوال کیا۔

(ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

سَأَلِمُونَ = تندرست۔ صحیح۔ مکمل۔ (جمع مذکر

سالم بحالت رفعی۔ واحد سالم ہے)

سَأَلُوا = انہوں نے سوال کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

سُئِلُوا = وہ سوال کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع

مذکر غائب)

سَاهِدُونَ = کھیلنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر۔ واحد سَاهِد)

سَاهِرٌ = کہانی سنانے والا۔ افسانہ گو۔ (اسم

فاعل۔ واحد مذکر)

سَاهِرِيٌّ = بنی اسرائیل کے ایک شار کا نام

ہے یا کرمان میں ایک گھر تھا اس کا قصہ قرآن میں مفصل ذکر ہے۔ (اسم علم)

سَتُوْل = بت سوال کرنے والا۔ (اسم مبالغہ)
سَاوِي = اس نے برابر کیا۔ پات دیا۔ (ماضی)
واحد مذکر غائب

سَاهِرَةٌ = صاف۔ برابر زمین۔ قیامت کی زمین۔ دوزخ۔ (اسم مشتق)

سَاهِمٌ = اس نے قرعہ ڈالا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

سَاهُوْنَ = بے خبر۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

س - ب

سَبَا = بلقیس کے شر کا نام۔ ایک قبیلے کے باپ کا نام۔ (اسم علم)

سُبَات = آرام۔ راحت۔ (اسم مشتق)

سَبَبٌ = رسی۔ حیلہ۔ ذریعہ۔ (اسم واحد) جمع اسباب ہے

سَبْتُ = ہفتہ کا دن۔ (اسم)

سَبَّحٌ = تیرنا۔ (اسم مصدر)

سَبَّحٌ = اس نے تسبیح کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

سَبَّحٌ = تو تسبیح کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

سُبْحَانَ = پاک۔ مقدس (اسم مصدر)

سَبَّحُوا = انہوں نے تسبیح کی۔ (ماضی۔ جمع)

مذکر غائب

سَبَّحُوا = تم تسبیح کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

سَبْعٌ = درندہ۔ (اسم واحد) جمع اسبع و سبع ہے

سَبْعٌ = سات۔ (آسمان) (اسم عدد)

سَبْعَةٌ = سات۔ (7) (اسم عدد)

سَبْعُوْنَ = ستر۔ (70) (اسم عدد۔ بحالت رفعی)

سَبَقٌ = وہ سبقت لے گیا۔ آگے بڑھ گیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

سَبَقٌ = دوڑنا۔ آگے بڑھنا۔ (اسم مصدر)

سَبَقْتُ = وہ آگے بڑھی۔ وہ گزر چکی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

سَبَقُوا = وہ آگے بڑھے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

سَبِيلٌ = راستے۔ (اسم جمع) (واحد سبیل ہے)

سَبِيْلٌ = راہ۔ (اسم واحد) جمع سبیل ہے

س - ت

سِتَّةٌ = چھ۔ (اسم عدد)

سِتْرٌ = پردہ۔ (اسم واحد) جمع استار و ستور ہے

سِتِّيْنٌ = ساتھ۔ (اسم عدد۔ بحالت نصی و جری)

س-ج

سَجَّحِي = وہ چھایا۔ اس نے ڈھانپ لیا۔
(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

سَجَّجَدَ = اس نے سجدہ کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

سُجِّدٌ = سجدہ کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر) (واحد ساجد ہے)

سَجَّجِدُوا = انہوں نے سجدہ کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

سُجِّجَتْ = وہ جھوکی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مونث غائب)

سِجِلٌ = کتاب۔ طومار۔ رجسٹر۔ توشہ۔ فرشتہ کا نام۔ (اسم واحد) (جمع سججلات ہے)

سِجْنٌ = قید خانہ۔ (اسم واحد) (جمع اسجان ہے)

سُجِّوْدٌ = سجدہ کرنا۔ (اسم جمع) (واحد سجده ہے)

سِجِّيلٌ = کنکر۔ چھوٹے پتھر۔ (اسم مشتق)

سِجِّينٌ = دوزخیوں کی روح کا قید خانہ۔ جو بہت تنگ اور تاریک ہے شیطانوں اور گنہگاروں

کا اعمال نامہ۔ وہ سخت پتھر جو زمین کے ساتویں طبقے میں ہے جہاں ابلیس کا ٹھکانہ ہے۔ (اسم مشتق)

س-ح

سَحَابٌ = بدلیاں۔ (اسم جمع) (واحد سحابہ ہے)

سَحَابَةٌ = بدل۔ (اسم واحد) (جمع سحاب ہے)

سَحَّارٌ = بڑا جادو گر۔ (اسم مبالغہ)

سُحْتٌ = رشوت۔ حرام۔ (اسم واحد) (جمع اسحات ہے)

سَحْرٌ = سحری کا وقت۔ (اسم واحد) (جمع اسحار ہے)

سِحْرٌ = جادو۔ (اسم واحد) (جمع اسحار ہے)

سِحْرَانٌ = دو جادو گر۔ (کافروں نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا) (اسم تثنیہ۔ بحالت رفعی۔ جمع ساحرون ہے)

سَحْرَةٌ = سب جادو گر۔ (اسم جمع) (واحد ساحر ہے)

سَحْرُوٌّ = انہوں نے جادو کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

سُحِقٌ = دوری۔ لعنت۔ (اسم مصدر)

سَحِيقٌ = بہت دور۔ (اسم مشتق)

س-خ

سَخِرَ = اس نے ہنسی کی۔ اس نے مذاق

اڑایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

سَخَّرَ = اس نے فرما بربودار کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

سَخَّرُونَا = ہم نے نابعدار کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

سَخَّرُوا = وہ ہنسی کئے گئے۔ وہ مذاق اڑائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)

سِخْرِيٌّ = سخرہ۔ مذاق۔ (اسم مشتق)

سُخْرِيٌّ = بے اجرت مزدور۔ بے گار۔ فرما بربودار۔ (اسم مشتق)

سَخَطٌ = غصہ۔ عذاب۔ (اسم مشتق)

سَخَطٌ = وہ ناراض ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

س - د

سَدٌّ = بند۔ دیوار۔ (اسم)

سُدِيٌّ = بیکار۔ نکما۔ (اسم)

سِدْرٌ = بیر کا درخت۔ (اسم جمع) (واحد سدرة ہے)

سِدْرَةٌ = بیر کا درخت۔ (اسم واحد) (جمع سدر ہے)

سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى = ساتویں آسمان پر۔ (مرکب اضافی) حضرت جبریل عليه السلام کا مقام وہاں تک مخلوق کا عمل پہنچتا ہے۔

سُدُسٌ = چھٹا حصہ۔ (اسم عدد)

سَدِيدٌ = درست۔ سیدھا۔

سَدَّيْنٌ = دو دیواریں۔ (اسم تشبیہ۔ بحالت تشبیہ۔ واحد سد ہے)

س - ر

سِرٌّ = چھپا ہوا۔ بھید۔ پوشیدہ راز۔ (اسم واحد) (جمع اسرار ہے)

سَرَّاءٌ = خوشی۔ فراخی۔ (اسم مشتق)

سَرَّائِرٌ = چھپے بھید۔ (اسم جمع) (واحد سر ہے)

سَرَّابٌ = دھوکا۔ ریگستان کا وہ میدان جہاں ریت کا ٹیلہ دور سے پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ (اسم مشتق)

سَرَّابِلٌ = کرتے۔ قمیص۔ (اسم جمع) (واحد سرابل ہے)

سِرَّاجٌ = چراغ۔ آفتاب۔ (اسم واحد) (جمع سراج ہے)

سَرَّاحٌ = رخصت دینا۔ چھوٹ دینا۔ (اسم مصدر)

سَرَّادِقٌ = پردہ۔ خیمہ۔ (اسم واحد) (جمع سرادقات ہے)

سِرَّاعٌ = دوڑنے والے۔ (اسم جمع) (واحد سریع ہے)

سَرَّابٌ = سرنگ۔ (اسم واحد) (جمع اسراباب ہے)

سَعِدُوْا = وہ نیک بخت کئے گئے۔ (ماضی
بجول۔ جمع مذکر غائب)

سُعْر = دیوانگی۔ بوڑھا۔ آگ کی لپیٹ۔ جلانا۔
(اسم جمع) (واحد سعیر ہے)

سُعْرَتٌ = وہ دھکائی گئی۔ روشن کی گئی۔
(ماضی بجول۔ واحد مونث غائب)

سَعَوْا = انہوں نے کوشش کی۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)

سَعَى = کوشش۔ (اسم مصدر)

سَعِيدٌ = نیک بخت۔ (اسم واحد) (جمع سعداء
ہے)

سَعِيرٌ = دوزخ۔ جلانے والی۔ (اسم واحد) (جمع
سعر ہے)

سَرَحُوا = تم رخصت کر دو۔ تم چھوڑ دو۔
(امر۔ جمع مذکر حاضر)

سَرَدٌ = زرہ بننا۔ (اسم مصدر)

سُرٌّ = تخت۔ (اسم جمع) (واحد سریو ہے)

سَرَقٌ = اس نے چرایا۔ اس نے چوری کی۔
(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

سَرْمَدٌ = ہمیشہ۔ دائم۔ (اسم)

سُرُورٌ = خوش ہونا۔ (اسم مصدر)

سِرِيٌّ = پانی کا چشمہ۔ (اسم واحد) (جمع اسريرة
و سربان ہے)

سَرِيرٌ = تخت۔ (اسم واحد) (جمع سرر ہے)

سَرِيْعٌ = جلدی۔ (اسم واحد) (جمع سرعان
ہے)

س - ف

سَفَاهَةٌ = بیوقوفی۔ (اسم مصدر)

سَفْرَةٌ = لکھنے والے۔ (اسم جمع) (واحد سافر
ہے)

سُقْلَى = بہت نیچے۔ (صفت مثبت) (اسم
تفئیل۔ واحد مونث)

سَفَةٌ = نادانی۔ (اسم مشتق)

سَفِهَةٌ = اس نے بے وقوف بنایا۔ اس نے
نادان بنایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

سَفْهَاءٌ = احمق۔ نادان۔ (اسم جمع۔ واحد

س - ط

سَطِطَتْ = وہ بچھالی گئی۔ (ماضی بجول۔ واحد
مونث غائب)

س - ع

سَعَى = اس نے کوشش کی۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

سَعَةٌ = فراخی۔ وسعت۔ (اسم مصدر) (اس کی
اصل وسع تھی "و" کے بدلے آخر میں "ة")
(آئی)

سَفِيهَ (ہے)

سَفِيَتٌ = تو نے پانی پلایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

حاضر)

سَفِينَةٌ = کشتی۔ (اسم واحد۔ جمع سفن و

سفان ہے)

سَقِيمٌ = بیمار۔ (اسم واحد۔ صفت شبہ۔ جمع

سقام ہے)

سُقِيهَ = بیوقوف۔ نادان۔ (اسم واحد) جمع

سفہاء ہے)

س-ک

سَكَارَى = نشہ یا شراب پینے والا۔ مست۔

(اسم جمع۔ واحد ساکر ہے)

سَكَّتَ = وہ ٹھہرا۔ چپ ہوا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

سَكْرٌ = سرکہ۔ نشے کی چیز: نیند۔ (اسم مشتق)

سَكْرَةٌ = بے ہوشی۔ (اسم واحد) جمع

سکرات ہے)

سَكِرْتُ = وہ بے ہوش کی گئی۔ (ماضی

مجمول۔ واحد مونث غائب)

سَكْنٌ = راحت۔ رحمت۔ (اسم مشتق)

سَكَنَ = اس نے آرام کیا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

سَكَنْتُمْ = تم رہائش پذیر ہوئے۔ (مضارع۔

جمع مذکر حاضر)

سَكِينٌ = چھری۔ چاقو۔ (اسم واحد) جمع

سکاکین ہے)

سَكِينَةٌ = تسکین۔ آرام۔ (اسم مصدر)

س-ق

سَقَى = اس نے پانی پلایا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

سِقَايَةٌ = پانی پلانا۔ (اسم مصدر)

سَقَرٌ = دوزخ کے ایک طبقہ کا نام۔ (اسم

مکان)

سَقِطٌ = وہ ڈالا گیا۔ وہ گرایا گیا۔ (ماضی مجہول۔

واحد مذکر غائب)

سَقَطُوا = وہ گرے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

سَقْفٌ = چھت۔ (اسم واحد۔ جمع سقف ہے)

السَّقْفُ الْمَرْفُوعُ = آسمان۔ (مركب اضافی)

سُقْفٌ = چھتیں۔ (اسم جمع) واحد سقف

ہے)

سُقْنَاهُ = ہم نے چلایا۔ ہم ہانک دیتے ہیں۔

(ماضی۔ جمع متکلم)

سُقُوا = وہ پلائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر

غائب)

سُقِيَا = پانی پینے کی باری۔ (اسم مشتق)

س-ل

سَلُّ = تو پوچھ۔ (امر- واحد مذکر حاضر)

سَلَّالَةٌ = خلاصہ۔ (اسم شتق)

سَلَّاسِل = زنجیریں۔ (اسم جمع) (واحد سلسلہ ہے)

سَلَام = سلامتی۔ وعاء۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔

سَلْسَبِيل = جنت کے ایک چشمہ نام ہے۔

(اسم واحد) (جمع سلاسیب و سلاسیب ہے)

سِلْسِلَةٌ = زنجیر۔ (اسم واحد) (جمع سلاسل ہے)

سَلَّط = اس نے تعین کیا۔ قبض کیا (ماضی)۔
واحد مذکر غائب

سُلْطَان = غلبہ۔ دلیل۔ حاکم۔ (اسم واحد) (جمع سلاطین ہے)

سُلْطَانِيَّة = بادشاہی۔ (اسم)

سَلَفٌ = اگلے باپ دادا گزرے۔ (اسم مصدر) (جمع اسلاف و سلاف ہے)

سَلَفٌ = وہ آگے ہوا۔ (ماضی)۔ واحد مذکر غائب

سَلَقُوا = انہوں نے ستایا۔ تیز کیا۔ (ماضی)۔ جمع
مذکر غائب

سَلَكٌ = وہ چلا۔ لے آیا۔ داخل کیا۔ (ماضی)۔
واحد مذکر غائب

سَلَكْنَا = ہم نے داخل کیا۔ (ماضی)۔ جمع مکمل

سَلِمٌ = صلح کرنا۔ (اسم مصدر)

سَلِمٌ = اس نے گروں رکھی۔ (ماضی)۔ واحد
مذکر غائب

سَلِمٌ = اس نے نگاہ رکھی۔ (ماضی)۔ واحد
مذکر غائب

سَلِمٌ = سیڑھی۔ (اسم واحد) (جمع سلالیم ہے)

سَلَّمْتُمْ = تم نے سپرد کیا۔ (ماضی)۔ جمع مذکر
حاضر

سَلِمُوا = تم سلام کرو۔ (امر)۔ جمع مذکر حاضر

سَلْوَى = چڑیا جو پانی کے کنارے رہتی ہے۔ (اسم واحد)

سَلِيمٌ = بے عیب۔ تندرست۔ (اسم واحد) (جمع سلمی ہے)

سَلِيمَانٌ = نام پیغمبر جو حضرت داؤد کے بیٹے تھے ان کے تابع جن اور ہوا اور تمام چیزیں

تھیں۔

س-م

سَمٌّ = سوراخ۔ سوئی۔ (اسم واحد) (جمع سمم و سموم ہے)

سَمَاءٌ = آسمان۔ (اسم واحد) (جمع سموات ہے)

سَمَاعُونَ = خوب سننے والے جاسوس۔ (اسم

ناعل- جمع مذکر

سِمَان = موٹے۔ (اسم جمع) (واحد سمین

ہے)

سَمَوَات = آسمان۔ (اسم جمع) (واحد سماء

ہے)

سَمْع = کان سنا۔ (اسم واحد) (جمع اسماع

ہے)

سَمِع = اس نے سنا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

سَمِعَتْ = اس نے سنا۔ (ماضی- واحد مؤنث

غائب)

سَمِعْتُمْ = تم نے سنا۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)

سَمِعْتُمْوَا = تم نے سنا۔ (ماضی- جمع مذکر

حاضر)

سَمِعْنَا = ہم نے سنا۔ (ماضی- جمع متکلم)

سَمِعُوا = انہوں نے سنا۔ (ماضی- جمع مذکر

غائب)

سَمَك = بلندی- اونچائی۔ (اسم مصدر)

سَمَن = گھی۔ (اسم مصدر)

سَمُوا = تم نام رکھو۔ (امر- جمع مذکر حاضر)

سَمُوم = گرم ہوا۔ (اسم واحد) (جمع سمائم

ہے)

سَمَى = اس نے نام رکھا۔ (ماضی- واحد

مذکر غائب)

سَمِيٌّ = ہم نام۔ (اسم مشتق)

سَمَّيْتُ = میں نے نام رکھا۔ (ماضی-

واحد متکلم)

سَمَّيْتُمْوَا = تم نے نام رکھ لیا۔ (ماضی- جمع

مذکر حاضر)

سَمِيع = سنے والا۔ (اسم فاعل- واحد مذکر)

سَمِين = موٹا۔ بھنا ہوا گوشت۔ (اسم جمع)

(واحد سمان ہے)

س-ن

سِن = دانت۔ (اسم واحد) (جمع اسنان ہے)

سَنًا = روشنی۔ بجلی کی کوند۔ (اسم مشتق)

سَنَابِل = خوشے۔ بالیاں۔ (اسم جمع) (واحد

سنبلہ ہے)

سُنْبُلٌ = بال۔ خوشہ۔ (اسم جمع) (واحد سنبلہ

ہے)

سُنْبُلَةٌ = ایک خوشہ۔ (جمع سنبلات ہے)

سِنَةٌ = اوگھ۔ (اسم صفت)

سَنَةٌ = برس۔ سال۔ (اسم واحد) (جمع سنون

ہے)

سُنَّة = طریقہ۔ رسم۔ (اسم واحد) (جمع سنن

ہے)

سُنْدُسٌ = جنتی باریک ریشی کپڑا۔ باریک

دیبا۔

سُنَن = طریقہ۔ دستور۔ (اسم جمع) (واحد سننہ ہے)

سِنِّين = برس کے برس۔ قحط۔ (اسم جمع)
(واحد سنہ ہے)

س - و

سُوء = غم۔ ایذا۔

سُوء = برائی۔ عیب۔ (اسم مصدر)

سُوْهًا = اس نے برابر کیا اس کو۔ (ماضی)
واحد مذکر غائب

سُوًا = راست۔ ہموار۔ (اسم مشتق)

سُوَاء = برابر۔ یکساں۔ (اسم جاما)

سُوء = بہت بری۔ (اسم مکان)

سُوءَةٌ = شرمگاہ۔ لاش۔ (اسم واحد)
جمع
سوآت ہے

سُوَاع = بت۔ جس کو حضرت نوح عليه السلام کی
امت عورت کی صورت بنا کر پوجتی تھی۔ (اسم
جاما)

سُوَال = پوچھنا۔ مانگنا۔ (اسم واحد)
جمع اسئلة
ہے

سُوْد = کالے۔ سیاہ۔ (اسم جمع)
واحد اسود
ہے

سُوْرٌ = قرآن کی سورتیں۔ (اسم جمع)
واحد
سورۃ ہے

سُوْر = دیوار۔ شہر پناہ۔ (اسم واحد)
جمع سوار
و سیران ہے

سُوْرَه = قرآن کا ٹکڑا۔ (اسم واحد)
جمع سور
ہے

سُوْط = کوڑا۔ عذاب۔ (اسم واحد)
جمع
اسواط و سیاط ہے

سُوْفٌ = قریب ہے۔ (یہ حرف مضارع کو
مستقبل کرتا ہے) علامت مضارع۔

سُوْقٌ = بازار۔ پنڈلیاں۔ (اسم جمع)
واحد
ساق ہے

سُوْلٌ = اس نے فریب دیا۔ اس نے بات
بتائی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

سُوْلَتٌ = اس نے فریب دیا۔ سنوارا۔ بتایا۔
(ماضی۔ واحد مونث غائب)

سُوَيْتٌ = میں نے برابر کیا۔ درست بتایا۔
(ماضی۔ واحد مکمل)

س - ہ

سُهُوْلٌ = نرم۔ آسان۔ زمین آسان۔ (اسم جمع)
واحد سہل ہے

س - ی

سِيءٌ بِهِيْمٌ = وہ ناخوش ہوا ان کے آنے
سے۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

سَيِّئٌ = بدی۔ (اسم واحد)
جمع سیئات ہے

سَيِّئَاتٌ = برائیاں۔ (اسم جمع)
واحد سیئۃ ہے

سَيِّئَةٌ = برائی۔ (اسم واحد) (جمع سیئات ہے)
 سَيِّئَةٌ = بد شکل کی گئی۔ سیاہ کی گئی۔ (ماضی
 جمول۔ واحد مونث غائب)
 سَيَّارَةٌ = قافلہ۔
 سَيَّحُوا = تم پھرو۔ تم چلو۔ (امر۔ جمع مذکر
 حاضر)
 سَيِّدٌ = سردار۔ پیشوا۔ (اسم واحد) (جمع اسیاد
 و سادة ہے)
 سَيَّرَ = چلنا پھرنا۔ (اسم مصدر)
 سَيَّرَةٌ = عات۔ فصلت۔ (جمع سیر ہے)
 سَيَّرَتْ = وہ چلائی گئی۔ (ماضی جمول۔ واحد

مونث غائب)
 سَيَّرُوا = تم پھرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
 سَيِّقٌ = وہ چلایا گیا۔ (ماضی جمول۔ واحد
 مذکر غائب)
 سَيَّلَ = بہاؤ۔ تالاب۔ (اسم مصدر)
 سَيَّمَا = نشان چہرہ۔ (اسم مشتق)
 سَيِّنَا = ملک شام کے پہاڑ کا نام ہے۔ جہاں
 حضرت موسیٰ ﷺ مناجات اور اللہ تعالیٰ سے
 باتیں کرتے تھے۔ (اسم مکان)
 سَيَّنِينَ = پہاڑ کا نام جس کو سینا بھی کہتے
 ہیں۔ (اسم مکان)



(ش)

ش - ا

شَاءَ = اس نے چاہا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 شِئْتَ = تو نے چاہا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)
 شِئْتُمَا = تم دونوں نے چاہا۔ (ماضی۔ تثنیہ
 مونث / مذکر حاضر)
 شِئْتُمْ = تم نے چاہا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
 شِئْنَا = ہم نے چاہا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
 شَاحِصَةٌ = اوپر گئے والے۔ (اسم فاعل۔

واحد مونث)
 شَارِبُونَ = پینے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
 شَارِكٌ = تو شریک ہو۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
 شَاطِئٌ = کنارہ۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
 شَاعِرٌ = شعر بنانے والا۔ (اسم واحد) (جمع
 شعراء ہے)
 شَافِعِينَ = سفارش کرنے والے۔ (اسم فاعل۔
 جمع مذکر)
 شَاقِقُوا = انہوں نے مخالفت کی۔ (ماضی۔ جمع

مذکر غائب

سِتَاء = سردی کے دن۔ (اسم زمان)

شَتَّى = پراگندہ۔ (اسم جمع) (واحد شیت ہے)

شَاكِرٌ = شکر کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد)

مذکر

ش-ج

شَاكِرُونَ = شکر کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع)

جمع مذکر

شَجَرٌ = درخت۔ (اسم واحد) (جمع اشجار)

(ہے)

شَاكِلَةٌ = عات۔ طریقہ۔ (اسم واحد) (جمع)

شواکل ہے)

شَجَرٌ = اس نے جھگڑا کیا۔ جھگڑا ہوا۔

شَامِخَاتٌ = بلند ہونے والیاں۔ (اسم جمع)

(واحد شامخہ ہے۔ جمع مونث سالم)

اختلاف ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب۔ جبکہ شَجَرٌ

کے بعد یَیْنٌ ہو۔)

شَأْنٌ = کام۔ حال۔ (اسم واحد) (جمع شُؤْنٌ)

(ہے)

شَجَرَةٌ = ایک درخت۔ (اسم واحد) (جمع)

اشجار ہے)

شَانِيٌّ = دشمن۔ بیری۔ (اسم صفت۔ اسم

فاعل)

ش-ح

شُحٌّ = لالچ۔ بخیلی۔ (اسم مصدر)

شَاوِرٌ = تو مشورہ کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

شُحُومٌ = چربیوں۔ (اسم جمع) (واحد شحم

ہے)

شَاهِدٌ = گواہ۔ حاضر ہونے والا۔ (اسم فاعل۔

جمع شہود ہے)

ش-د

شِدَادٌ = زیروست۔ مضبوط۔ (اسم جمع) (واحد

شدید ہے)

ش-ب

شِدْدَانًا = ہم نے مضبوط کیا۔ (ماضی۔ جمع

متکلم)

شَبِيهٌ = وہ شبہ کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد

مذکر غائب)

شُدُّوا = تم مضبوط کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

شَدِيدٌ = سخت۔ زور آور۔

ش-ت

ش - ر

شَرَعُوا = انہوں نے مقرر کیا۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)

شَرْقِيٌّ = مشرق کی طرف۔ (اسم منسوب)

شَرْقِيَّة = آفتاب نکلنے کی طرف۔ (اسم۔ طرف
مکان)

شِرْك = ساجھا۔ شراکت دار۔ اللہ تعالیٰ کے
سوا دوسرے کو بھی پوجنا۔ (اسم واحد) (جمع
اشراک ہے)

شُرَكَاء = ساجھی۔ (اسم جمع) (واحد شریک
ہے)

شَرَوْا = انہوں نے بیچا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

شَرِيعة = دین کی راہ۔ (اسم واحد) (جمع
شرائع ہے)

شَرِيك = ساجھی۔ (اسم واحد) (جمع شرکاء
ہے)

ش - ط

شَطْطًا = پٹا۔ خوشہ۔ کونپل۔ (اسم واحد۔ جمع
شَطَطًا و شَطَطَةٌ ہے)

شَطْر = طرف۔ سمت۔ (اسم واحد) (جمع اشطر
و شطور ہے)

شَطَط = جھوٹ۔ گمراہی۔ حق سے دور ہونا۔
(اسم مصدر)

شَر = برائی۔ (اسم واحد) (جمع شرور ہے)

شَرَاب = پینا۔ پینے کی چیز۔ (اسم واحد) (جمع
اشربة ہے)

شَرِب = پانی کا حصہ۔ (اسم مصدر)

شَرِبَ = اس نے پیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
شَرِبُوا = انہوں نے پیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

شَرَح = اس نے کھولا۔ ظاہر کیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

شَرَدَ = تو سزا دے۔ تو بھگا دے۔ (امر۔ واحد
مذکر حاضر)

شَرِذْمَةٌ = جماعت۔ تھوڑے سے آدمی۔ ناتواں
اور بے کس لوگوں کی جماعت۔ (اسم واحد۔ جمع
شراذم ہے)

شَرَّع = پانی پر ظاہر ہونے والے۔ (اسم فاعل۔
جمع مذکر)

شَرَر = چنگاریاں۔ (واحد شررة)

شَرَعَ = اس نے راہ ڈالی۔ اس نے مقرر کیا۔
(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

شَرَعٌ = خدا کی راہ۔ ظاہر۔ (اسم مشتق)

شَرِعةٌ = شریعت۔ دستور دین۔ (اسم واحد)
(جمع شِرْعٌ و شَرَعٌ و شَرَاغٌ ہے)

ش-ع

شَعَائِر = نشانیاں حج کی۔ عبادتیں۔ (اسم جمع)
(واحد شعیرہ ہے)

شُعَب = شاخیں۔ (اسم جمع) (واحد شعبة ہے)

شِعْر = کلام موزوں۔ شعور رکھنا۔ محسوس کرنا۔
(اسم واحد) (جمع اشعار ہے)

شُعْرَاء = شعر کہنے والے۔ (اسم جمع) (واحد شاعر ہے)

شِعْرَى = ایک بہت بڑا تارہ ہے۔ جس کو عرب جاہلیت میں پوجتے تھے۔ (اسم) (جمال سورج جا کر غروب ہوتا ہے۔)

شُعُوب = قومیں۔ (اسم جمع) (واحد شعب ہے)

شُعَيْب = پیغمبر کا نام جو حضرت موسیٰ عليه السلام کے سر تھے۔

ش-غ

شَغَف = اس نے فریفتہ کیا۔ (ماضی) (واحد مذکر غائب)

شُغِل = کام۔ بے پروائی۔ مصروفیت۔ (اسم واحد) (جمع اشغال و شغول ہے)

شَغَلْتُ = اس نے مشغول کیا۔ (ماضی) (واحد مونث غائب)

ش-ف

شَفَا = کنارہ۔ تھوڑا سا باقی رہنا۔ (اسم واحد) (جمع اشفاء ہے)

شِفَاء = تندرستی۔ آرام۔ (اسم مصدر)

شَفَاعَةٌ = سفارش۔ (اسم مصدر)

شَفَّةٌ = لب۔ (اسم واحد) (جمع شفاة) شفہات ہے)

شَفْتَيْنِ = دو ہونٹ۔ (اسم تثنیہ) (واحد شفة اور جمع شفاة ہے۔ بحالت نصی و جری)

شَفَع = جوڑا۔ (اسم واحد) (جمع اشفاع و شفاع ہے)

شَفَعَاء = سفارش کرنے والے۔ (اسم جمع) (واحد شفیع ہے)

شَفَقٌ = کنارہ۔ آسمان کی سرخی۔ (اسم زمان)

شَفِيع = سفارش کرنے والا۔ (اسم فاعل) (واحد مذکر)

ش-ق

شِق = سختی۔ سخت۔ (اسم مشتق)

شَقٌّ = پھٹنا۔ (اسم مصدر)

شِقَاق = دشمنی۔ ضد۔ لڑائی۔ (اسم مصدر)

شَقَّةٌ = سفر دور و راز۔ (اسم واحد) (جمع شقق ہے)

شَمْس = سورج۔

ش-ن

شَنَان = دشمنی۔ بیز۔ (اسم مصدر)

ش-و

شَوٰی = منہ کی کھالیں۔ کلیجہ (اسم جمع) (واحد شِوَاة ہے)

شَوَاطِ = شعلہ جس میں دھواں نہ ہو۔ (اسم مشتق)

شَوْبٌ = ملاوٹ۔ (اسم مصدر)

شُورٰی = مشورہ۔ (اسم مصدر)

شَوٰكَة = قوت۔ کاٹنا۔ ہتھیار۔ (اسم واحد) (جمع اشواک ہے)

ذَاتُ الشَّوٰكَةِ = مسلح فوج۔ ہتھیار والی فوج۔ (مركب اضافی)

ش-ہ

شَهَاب = شعلہ۔ روشن ستارہ۔ (اسم واحد) (جمع شهب ہے)

شُهْبٌ = ٹوٹنے والے ستارے۔ (اسم جمع) (واحد شهاب ہے)

شَهَادَةٌ = گواہی۔ (اسم واحد) (جمع شهادات ہے)

شَقَقْنَا = ہم نے پھاڑا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

شَقُوْا = وہ بدبخت کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)

شِقْوَةٌ = بدبخت ہونا۔ بد قسمت ہونا۔ (اسم مصدر)

شَقِيٌّ = بدبخت۔ (اسم صفت)

ش-ک

شَكٌّ = شبہ۔ دھوکا۔ (اسم مصدر)

شُكْرٌ = حق ماننا۔ تعریف کرنا۔ (اسم مصدر)

شَكَوْ = اس نے تعریف کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

شَكَرْتُمْ = تم نے تعریف کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

شَكْلٌ = مانند صورت۔ (اسم واحد) (جمع اشکال ہے)

شُكُوْرٌ = شکر گزار ہونا۔ حق ماننا۔ (اسم مصدر)

شُكُوْرٌ = حق ماننے والا۔ قدر دان۔ (اسم مبالغہ۔ واحد مذکر)

ش-م

شَمَائِلٌ = بائیں طرف والی سمتیں۔ (اسم جمع) (واحد شمال ہے)

شہید جمع شہداء ہے۔ بحالت نصی جری)
شہیق = گدھے کا یگننا۔ گدھے کی موٹی
آواز۔ (اسم مصدر)

ش-ی

شئیء = چیز۔ (اسم واحد) (جمع اشیاء ہے)
شیاطین = سرکش۔ نافرمان۔ دیو۔ (اسم جمع)
(واحد شیطان ہے)

شیب = بڑھاپا۔ سفید بال۔ (اسم مشتق)
شیبۃ = سفید بالوں والا ہونا۔ (اسم مصدر)
شیۃ = داغ دھبہ۔ (اسم مشتق)

شیخ = بڑھا۔ بوڑھا۔ (اسم واحد) (جمع شیوخ
ہے)

شیطان = شیطان۔ (اسم واحد) (جمع شیاطین
ہے)

شیع = فرقت۔ مدگار۔ پیروکار (اسم جمع) (واحد
شیعہ ہے)

شیعۃ = رفت۔ فرقہ۔ گروہ۔ (اسم واحد) (جمع
شیع و اشباع ہے)

شیوخ = بڑھے۔ بوڑھے۔ (اسم جمع) (واحد
شیخ ہے)

شہادات = گواہیاں۔ (اسم جمع) (واحد
شہادۃ ہے)

شہد = اس نے گواہی دی۔ وہ حاضر ہوا۔
(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

شہداء = گواہ۔ (اسم جمع) (واحد شہید ہے)
شہدتم = تم نے گواہی دی۔ (ماضی۔ جمع مذکر
حاضر)

شہدنا = ہم نے گواہی دی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
شہدوا = انہوں نے گواہی دی۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)

شہر = مینہ۔ (اسم واحد) (جمع شہور ہے)
شہرین = دو مینے۔ (اسم تثنیہ) (واحد شہر
جمع شہور ہے۔ بحالت نصی جری)

شہوۃ = خواہش۔ چاہنا۔ (اسم مصدر) (جمع
شہوات = خواہشیں۔ (اسم جمع) (واحد شہوۃ
ہے)

شہود = گواہ۔ حاضرین مجلس۔ (اسم جمع) (واحد
شاہد ہے)

شہور = مینے۔ (اسم جمع) (واحد شہر ہے)
شہید = گواہی دینے والا۔ حاضر۔ (اسم واحد)

(جمع شہداء ہے)
شہیدین = دو گواہ۔ (اسم تثنیہ) (واحد



(ص)

ص - ۱

ص = حروف مقطعات سے ہے۔

صَائِمٌ = روزہ دار۔ (اسم واحد) (جمع صائمين ہے)

صَائِمَاتٌ = روزہ رکھنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)

صَابِئُونَ = ستارہ پوجنے والے۔ ایک دین سے دوسرے دین کی طرف پھرنے والے۔ کفار

کی ایک قوم جو اپنے زعم میں اپنے آپ کو حضرت ابراہیم ﷺ کی تابع سمجھتی ہے۔ (اسم جمع)

(واحد صابئ ہے۔ بحالت رفع۔ صَابِئِينَ نصی اور جری حالت)

صَابِرٌ = صبر کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

صَابِرَةٌ = صبر کرنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

صَابِرُونَ = تم آپس میں صبر کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

صَابِرُونَ = صبر کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر

صَاحِبٌ = رفیق۔ یار۔ دوست۔ (اسم فاعل۔

واحد مذکر

صَاحِبُ الْخُوْتِ = مچھلی والا۔ یعنی حضرت یونس ﷺ جن کو مچھلی نکل گئی کئی دن کے بعد

زندہ نکلے۔ (مركب اضافی)

صَاحِبٌ = ساتھ رہ۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

صَاحِبَةٌ = اہلیہ۔ بیوی۔ (اسم واحد) (جمع صاحبات ہے)

صَاحِبِيٌّ = دو یار۔ دو دوست۔ اصل میں صاحبین تھا اضافت کی وجہ سے "ن" گر گیا۔

(اسم تثنیہ) (واحد صاحب ہے)

صَاحَّةٌ = آواز۔ صور پھونکنا۔ سخت آواز جو بہرا کر دے۔ (اسم مشتق)

صَادِقٌ = سچا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر

صَادِقَاتٌ = سچی عورتیں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)

صَادِقُونَ = سچے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر) (واحد صادق ہے)

مذکر

صَارِمِينَ = توڑنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

ص - ب

صَاعِقَةٌ = زمین پر گرنے والی بجلی۔ (اسم فاعل)

صَاغِرُونَ = خوار ہونے والے۔ (اسم فاعل جمع مذکر)

صَافَّاتٌ = صف باندھنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)

صَافِنَاتٌ = گھوڑے تین ٹانگوں پر کھڑے ہونے والے۔ (اسم جمع) (واحد صافن ہے)

صَافُونَ = قطار باندھنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

صَالٌ = پہنچنے والا۔ اصل میں صالحی تھا "می" تغلیل سے گر پڑی۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

صَالِحٌ = نیک مرد۔ (اسم واحد) (جمع صلحاء ہے)

صَالِحَاتٌ = نیک عورتیں۔ (اسم جمع) (واحد صالحہ ہے)

صَالِحُونَ = سب نیک مرد۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

صَالِحِينَ = دو نیک مرد۔ (اسم فاعل۔ تثنیہ مذکر۔ بحالت نسبی و جری)

صَالُوا = پہنچنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

صَامِتُونَ = چپ رہنے والے۔ (اسم جمع) (واحد صامت ہے)

صَبٌّ = ڈالنا۔ انڈیلنا۔ گرانا۔ (اسم مصدر)

صَبٌّ = اس نے بارش برسائی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

صَبَّاحٌ = صبح کا وقت۔ اجالا ہونا۔ (اسم مصدر)

صَبَّارٌ = بڑا صبر کرنے والا۔ (اسم مبالغہ)

صَبَبْنَا = ہم نے ڈالا۔ برسایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

صُبْحٌ = فجر۔ دن کا اول حصہ۔ (اسم واحد) (جمع اصباح ہے)

صَبَّحَ = اس نے فجر کی۔ اس نے صبح کو پڑھا۔ اس نے صبح کے وقت غارت کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

صَبْرٌ = صبر کرنا۔ (اسم مصدر)

صَبْرٌ = اس نے صبر کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

صَبَرْتُمْ = تم نے صبر کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

صَبَرْنَا = ہم نے صبر کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

صَبْرُوا = انہوں نے صبر کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

صَبْنٌ = سالن۔ (اسم واحد) (جمع صباغ ہے)

صَبْنَةٌ = رنگ۔ (اسم واحد) (جمع اصباغ ہے)

صَدَدْنَا = ہم نے روکا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
 صَدْر = سینہ۔ (اسم واحد) (جمع صدور ہے)
 صَدْعٌ = چرنا۔ ظاہر کرنا۔ دراڑ۔ (اسم مصدر)
 ذَاتِ الصَّدْعِ = دانا اگانے والی۔ (مركب
 اضافی)

صَدَفٌ = وہ کنار کش ہوا۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)
 صَدَفَيْنِ = دو پھانک۔ دو سبب۔ (اسم تثنیہ)
 (واحد صدف ہے۔ بحالت نصی و جری)
 صِدْقٌ = سچ۔ (اسم مشتق)

صَدَقَ = اس نے سچ کہا۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)
 صَدَّقَ = اس نے تصدیق کی۔ اس نے سچ
 جانا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 صَدَقَاتٍ = حق مرز۔ (اسم جمع) (واحد صدقة
 ہے)

صَدَقَةٌ = خیرات۔ زکاۃ۔ (اسم واحد) (جمع
 صدقات ہے)

صَدَقْتُ = اس نے سچ کہا۔ (ماضی۔ واحد
 مونث غائب)
 صَدَقْتُ = تو نے سچ کہا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
 حاضر)

صَدَقْتُمْ = تم نے روکا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
 حاضر)

صَبُّوا = وہ ڈالے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر
 غائب)
 صَبِيٌّ = چھوٹا لڑکا۔ (اسم واحد) (جمع صبيان
 ہے)

ص - ح

صِحَافٌ = پیالے۔ (اسم جمع) (واحد صحفة
 ہے)
 صُحُفٌ = کتابیں۔ (اسم جمع) (واحد صحيفة
 ہے)

ص - خ

صَخْرٌ = بڑا پتھر۔ سخت۔ (اسم جمع) (واحد
 صخرة ہے)
 صَخْرَةٌ = بڑا پتھر۔ چٹان۔ (اسم واحد) (جمع
 صخور ہے)

ص - د

صَدَّ = روکنا۔ منع کرنا۔ (اسم مصدر)
 صَدَّ = اس نے روکا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 صُدَّ = وہ روکا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد
 مذکر غائب)
 صَدَدْتُمْ = تم نے روکا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
 حاضر)

ص - ر

صُرٌّ = ہلا۔ مانوس کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
 صِرٌّ = ٹھنڈک۔ سخت ٹھنڈی ہوا۔ (اسم مشتق)
 صِرَاطٌ = راہ۔ (اسم واحد) (جمع صراط ہے)
 الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ = سیدھی راہ۔
 متوازن (مربک توصیفی)
 صَرَّةٌ = فریاد۔ آواز۔ شور۔ (اسم مشتق)
 صَرَحٌ = محل۔ تصر۔ (اسم واحد) (جمع صُرُوح ہے)
 صَرَصَرٌ = آندھی۔ ٹھنڈی۔ زور اور شور کی ہوا۔ (اسم واحد) (جمع صراصر ہے)
 صَرَعِيٌّ = کئے ہوئے۔ بیہوش۔ (اسم جمع) (واحد صریع ہے)
 صَرَفٌ = پھیرنا۔ خرچ کرنا۔ (اسم مصدر)
 صَرَفٌ = اس نے پھیرا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 صَرَفَتْ = وہ پھیری گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مونث غائب)
 صَرَفْنَا = ہم نے پھیرا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
 صَرَفْنَا = ہم نے طرح طرح سے بیان کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
 صَرِيحٌ = فریاد رس۔ مددگار۔ (اسم واحد جمع صرخاء ہے)

صَدَقْنَا = ہم نے تصدیق کی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
 صَدَقْنَا = ہم نے سچ کہا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
 صَدَقُوا = وہ سچے ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
 صَدُّوا = انہوں نے روکا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
 صُدُّوا = وہ روکے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)
 صُدُودٌ = منہ پھیرنا۔ (اسم مصدر)
 صُدُورٌ = سینہ۔ دل۔ (اسم جمع) (واحد صدر ہے)
 صَدِيدٌ = پیپ، خون سے ملی ہوئی۔ (اسم مشتق)
 صَدِيقٌ = سچا دوست۔ پیارا دوست۔ (اسم واحد) (جمع اصدقاء ہے)
 صَدِيقٌ = بڑا سچا۔ (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کا لقب) (اسم مبالغہ۔ جمع صدیقون ہے)
 صَدِيقَةٌ = بڑی سچی عورت۔ (اسم واحد) (جمع صدیقات ہے) مراد حضرت مریم علیہا السلام ہیں۔
 صَدِيقُونَ = سچے مومن۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

ص - ف

صَفٌّ = قطار۔ (اسم واحد) (جمع صفوف ہے)
صَفَاً = نام پہاڑ جو مکہ میں ہے۔ (اسم علم)
(اسم واحد) (جمع صفاة ہے)

صَفْحٌ = کنارہ پکڑنا۔ (اسم واحد) (جمع صفاح ہے)

صُفْرٌ = زرد۔ (اسم جمع) (واحد اصفر ہے)
صَفْرَاءٌ = زرد۔ (اسم مؤنث) (مذکر اصفر ہے)

صَفْصَفٌ = کھلا میدان۔ (اسم مشتق)
صَفْوَانٌ = صاف پتھر۔ (اسم مشتق)

ص - ل

صَلٌّ = تو نماز پڑھ۔ (امر) (واحد مذکر حاضر)
صَلَّى = اس نے نماز پڑھی۔ (ماضی) (واحد
مذکر غائب)

صَلْوَةٌ = نماز۔ دعا۔ ورود۔ (اسم مصدر)
صَلْبٌ = پیٹھ۔ قوت۔ (اسم واحد) (جمع
اصلاب ہے) (اسم علم)

صَلَبُوا = انہوں نے دار پر کھینچا۔ (ماضی) (جمع
مذکر غائب)

صُلْحٌ = موافقت۔ سلامتی۔ (اسم مشتق)

صَرِيمٌ = کھیتی کالی ہوئی۔ ٹوٹا۔ تاریک رات۔
(اسم مشتق)

ص - ع

صَعْدٌ = سخت گھاٹی۔ جہنم میں ایک پہاڑ۔ جس
پر فرشتے کافروں کو زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں
گے اور پیچھے سے آگ کے گرزوں سے ہاتھیں
گے چالیس برس میں پہاڑ پر چڑھیں گے پھر
اتاریں جائیں گے پھر انہیں پہاڑ پر چڑھایا جائے
گا اسی طرح انہیں ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا۔

صَعِقٌ = وہ بیہوش ہوا۔ (ماضی) (واحد
مذکر غائب)

صُعُودٌ = بلندی۔ دوزخ میں ایک پہاڑ۔ (اسم
مصدر) (اسم علم)

صَعِيدٌ = زمین کی سطح۔ خاک۔ (اسم واحد)
(جمع صعد و صععات ہے)

ص - غ

صَعَارٌ = خرابی۔ زلت۔ (اسم مشتق)
صَعَتْ = وہ ٹیڑھی ہوئی۔ (ماضی) (واحد مؤنث
غائب)

صَغِيرٌ = چھوٹا۔ (اسم واحد) (جمع صغار و
اصاغیر ہے)

صَغِيرَةٌ = چھوٹی۔ (اسم مشتق)

صَلَحَ = وہ نیک ہوا۔ درست ہوا۔ (ماضی)
واحد مذکر غائب

صَلَدَ = سخت صاف۔ چکنا۔ (اسم واحد) (جمع)
اصلاح ہے

صَلَّصَال = کھلکانے والا۔ (اسم مشتق)

صَلَّوًا = ورود بھیجو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلَّوًا = پھر دوزخ میں اس کو
بمجاز۔ داخل کر دو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

صَلَوَات = رحمتیں۔ نمازیں۔ (اسم جمع) (واحد)
صلاة ہے

صَلَوَاتٌ = کینہ یعنی یہودیوں کی عبادت
گاہ۔ (اسم مکان)

صَلِيٌّ = آگ میں داخل ہونا۔ (اسم صفت)

ص - م

صَمٌّ = بہرا۔ (اسم جمع) (واحد اصم ہے)

صَمَد = بے پرواہ۔ بے نیاز۔ (اسم مشتق)

صَمَّوًا = وہ بہرے ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر)
غائب

ص - ن

صُنْع = کاریگری۔ بنانا۔ (اسم مصدر)

صُنْعَةٌ = کاریگری۔ بنانا۔ (اسم مصدر)

صَنَعُوا = انہوں نے بنایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر)

(غائب)

صِنَوَان = ایک جڑ سے دو درخت نکلے

ہوئے۔ (اسم جمع) (واحد صنوة ہے)

ص - و

صَوَاب = درست۔ ٹھیک بات۔ (اسم مشتق)

صُوع = جام۔ ایک پیانہ ہے۔ غلہ ناپنے

کا (اسم واحد) (جمع صبعان ہے)

صَوَاعِق = بجلیاں۔ (اسم جمع) (واحد صاعقة

ہے)

صَوَافٍ = قطار باندھنے والے۔ (اسم جمع)

(واحد صاف ہے)

صَوَامِعُ = یہودیوں کے عبادت خانے۔ (اسم

جمع) (واحد صومعة ہے)

صَوْت = آواز۔ (اسم واحد) (جمع اصوات

ہے)

صُور = صور۔ جس کو اسرائیل عَلَيْهِ السَّلَام قیامت

کے دن مخلوق کے مرنے اور زندہ کرنے کے

لئے پھونکیں گے۔ (اسم مشتق)

صُور = خشکیں۔ (اسم جمع) (واحد صورة ہے)

صَوْرَ = اس نے صورت بتائی۔ پیدا کیا۔

(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

صُورَةٌ = شکل۔ صورت۔ چہرہ۔ (اسم واحد) (جمع

صور ہے)

صَيَّاصِي = محفوظ مقام۔ قلعے۔ (اسم جمع)
(واحد صَيْصِيَة ہے)

صِيَام = روزے رکھنا۔ (اسم جمع) (واحد صَوْم
ہے)

صَيْد = شکار کرنا۔ (اسم مصدر)

صَيْف = موسم گرما۔ (اسم واحد) (جمع
اصیاف ہے)

صَيْب = بارش، جس میں بادل بھی گرج
رہے ہوں۔ (اسم مشتق)

صَيْحَةٌ = چیخ۔ عذاب۔ ہلاکت۔

صَوْرَتًا = ہم نے شکل بنائی۔ (ماضی۔ جمع
تکلم)

صَوْم = روزہ۔ (اسم واحد) (جمع صیام ہے)

ص - ه

صِهْر = سسرال۔ داماد۔ (اسم واحد) (جمع
اصهار ہے)

ص - ی



(ض)

مذکر غائب

ضَاقَتْ = وہ تنگ دل ہوئی۔ (ماضی۔ واحد
مونث غائب)

ضَالٌّ = گمراہ۔ بھٹکنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر)

ضَالِّينَ = گمراہ ہونے والے۔ (مراد نصاریٰ)
(اسم فاعل۔ جمع مذکر) (واحد ضال ہے)

ضَامِرٌ = دبلا اونٹ۔ دبلا جانور۔ (اسم واحد)

ضَانٌ = بھیڑ۔ (اسم واحد)

ض - ا

ضَائِقٌ = تنگدل۔ بخیل۔ تنگ کرنے والا۔ (اسم
فاعل۔ واحد مذکر)

ضَاحِكٌ = ہنسنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

ضَاحِكَةٌ = ہنسنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد
مونث)

ضَارٌّ = بگاڑنے والا۔ (اسم واحد) (جمع ضارین
ہے)

ضَاقٌ = وہ تنگدل ہوا۔ (ماضی۔ واحد)

آئے تب اس کا معنی بیان کرنا ہو گا جیسے
ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا بِيَانٍ كَرَّمَ هَ اللّٰهُ تَعَالَى مَثَلًا
ضَرَبَ = وہ مارا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مذکر غائب)

ضَرَبَتْ = وہ ماری گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مؤنث غائب)

ضَرَبْتُمْ = تم نے مارا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

ضَرَبْنَا = ہم نے مارا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ضَرَبُوا = انہوں نے مارا کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

ضَرَبُوا = وہ بیان کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع
مذکر غائب)

ضَرَوْا = نقصان۔ (اسم واحد) (جمع اضمرار ہے)

ضَرِبِع = خشک گھاس۔ زہر کی طرح ہوتی ہے
جب تک ہری رہتی ہے جانور اس کو نہیں
کھاتے۔ قیامت کے دن جنمیوں کو بطور کھانا
پیش کی جائے گی۔ (اسم)

ض-ع

ضِعَاف = ناتواں۔ کمزور۔ (اسم جمع) (واحد
ضعیف ہے)

ضِعْف = کمزوری۔ (اسم مشتق)

ضِعْف = مانند۔ دو مثل۔ (اسم واحد) (جمع
اضعاف ہے)

ض-ب

ضَبِح = گھوڑے کا ہانپنا۔ (اسم مصدر)

ض-ح

ضَحِي = دن پڑھے۔ چاشت کا وقت۔ (اسم
زمان)

ضَحِكْتُ = وہ ہنسی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث
غائب)

ض-د

ضِدٌّ = مخالفت۔ (اسم واحد) (جمع اضداد ہے)

ض-ر

ضُرٌّ = جسمانی تکلیف۔ بد حال۔ بیماری۔ زخم۔
(اسم واحد) (جمع اضمرار ہے)

ضُرٌّ = نقصان مادی یا معنوی۔ (نفع کی ضد)

ضُرَاء = سخت محنت۔ تکلیفیں۔ (اسم مشتق)

ضُرَار = تکلیف دینا۔ ایک دوسرے کو نقصان
دینا۔ (اسم مصدر)

ضَرَب = مارنا۔ مثال بیان کرنا۔ چلانا۔ (اسم
مصدر)

ضَرَبَ = اس نے مارا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)۔ (ضَرَبَ کے بعد جب مثال کا لفظ

مذکر غائب)

ضَلَّال = گمراہی۔ ضلالت۔ (اسم شتن)

ضَلَّالَةٌ = راہ بھولنا۔ (اسم مصدر)

ضَلَّلْتُ = میں راہ بھولا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

ضَلَّلْنَا = ہم راہ بھولے۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ضَلَّلُوا = وہ راہ بھولے۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

ض - ن

ضَنَكًا = تنگ۔ تنگی۔ (اسم مصدر)

ضَنِين = بخیل۔ (اسم فاعل)

ض - ی

ضِيَاء = روشنی۔ نور۔ (اسم جمع) (واحد ضوء

ہے)

ضَيْر = نقصان۔ تنگی۔ (اسم شتن)

ضَيْرِي = ظالمانہ تقسیم۔ نا انصافی۔ (اسم

صفت)

ضَيْفٌ = مہمان۔ (اسم واحد) (جمع ضيوف

ضَيْقٌ = دل کی تنگی۔ گھیر لینا۔ (اسم مصدر)

ضَيْقٌ = تنگ۔ بخیل۔ (اسم صفت)

ضَعْفٌ = وہ کمزور ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

ضَعْفَاءٌ = کمزور۔ (اسم جمع) (واحد ضعیف

ہے)

ضَعْفُوا = وہ کمزور ہوئے۔ (ماضی۔ جمع

مذکر غائب)

ضَعْفِينٌ = دو گنا۔ (اسم تشبیہ) (واحد ضعف

اور جمع اضعاف ہے)

ضَعِيفٌ = ناتوان۔ ست۔ (اسم واحد) (جمع

ضعاف و ضعفاء ہے)

ض - غ

ضِعْفٌ = جھاڑو۔ شاخوں کا مٹھا۔ (اسم واحد)

(جمع اضغاث ہے)

ض - ف

ضَفَادِعٌ = مینڈک۔ (اسم جمع) (واحد ضفدع

ہے)

ض - ل

ضَلَّ = وہ راہ بھولا۔ وہ گمراہ ہوا۔ (ماضی۔ واحد



(ط)

ط - ۱

طَارِقٌ = رات کا آنے والا۔ زحل تارا۔ (اسم
فاعل۔ واحد مذکر)

طَاعَةٌ = فرمانبرداری۔ (اسم مصدر)

طَاعِمٌ = کھانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
طَاعُفُوتٌ = شیطان۔ سرکش بت۔ کافروں کا

پیشوا۔ (اسم واحد) (جمع طواغ و طواغیت ہے)
طَاعُفُونَ = سرکش۔ شریر۔ (اسم فاعل۔ جمع۔
واحد طاغی ہے)

طَاغِيَةٌ = حد سے بڑھنے والی۔ زور دار آواز۔
(اسم فاعل۔ واحد مونث)

طَاغِيَيْنٌ = شریر۔ سرکش۔ (اسم جمع) (واحد
طاغ ہے)

طَافٌ = وہ پھرا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

طَاقَةٌ = قوت۔ (اسم مشتق)

طَالَ = اس نے لمبی گزاری۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

طَالِبٌ = ڈھونڈنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر)

طَالُوتٌ = بنی اسرائیل کے ایک مسلمان
بادشاہ کا نام۔

طَامَّةٌ = ہنگامہ۔ غلبہ کرنے والی یعنی قیامت۔

طَائِرٌ = فال بد۔ اڑنے والا۔ ایک مخصوص
پرندہ جس سے اچھا یا برا شگون لیں۔ (اسم فاعل۔
واحد مذکر)

طَائِعِيْنَ = فرمانبرداری کرنے والے۔ (اسم
فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)

طَائِفٌ = پھرنے والا۔ محافظ قلعہ۔ محافظ شہر۔
(اسم فاعل۔ واحد مذکر)

طَائِفَةٌ = پھرنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد
مونث)

طَائِفَتَانِ = دو گروہ۔ (اسم فاعل۔ تثنیہ مذکر و
مونث۔ رُفْعِي حَالَت)

طَائِفَتَيْنِ = دو گروہ۔ (اسم فاعل۔ تثنیہ مذکر و
مونث۔ نصی جری)

طَائِفِيْنَ = پھرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع
مذکر۔ رُفْعِي حَالَت)

طَابٌ = وہ پاک ہوا۔ خوش ہوا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

طَارِدٌ = دھکانے والا۔ ہانکنے والا۔ (اسم فاعل۔
واحد مذکر)

(اسم فاعل)

ط - ب

طَبَاق = تہ بہ تہ - تہ کے اندر تہ - (اسم جمع)
(واحد طبقہ ہے)

طِبْئِمُّم = تم پاک ہوئے - (ماضی - جمع مذکر حاضر)

طَبَعَ = اس نے مر لگائی - (ماضی - واحد مذکر غائب)

طُبِعَ = مر لگائی گئی - (ماضی مجہول - واحد مذکر غائب)

طَبَّقَ = منزل - درجہ - تہ - پرت - (اسم واحد جمع اطباق ہے)

طِبْنٌ = وہ پاک ہوئیں - وہ خوش ہوئیں - (ماضی - جمع مونث غائب)

ط - ح

طَحَى = اس نے بچھایا - (طحو بچھانا) (اسم مصدر) (ماضی - واحد مذکر غائب)

ط - ر

طَرِيقٌ = راہیں - فرقے -

طَرِيقٌ = راستے - طریقے - (اسم جمع) (واحد طریقہ ہے)

طَرَدْتُ = میں نے ہانکا - (ماضی - واحد متکلم)
طَرَفٌ = جماعت کا کٹڑا - (اسم واحد) (جمع اطراف ہے)

طَرَفٌ = نگاہ - آنکھ - کنارہ - (اسم مشتق)
طَرَفَيْتُ = دو کنارے - (اسم تشبیہ) (واحد طرف اور جمع اطراف ہے - اصل میں طَرَفَيْنِ تھا "نون" اضافت کی وجہ سے گر گیا -)

طَرِيٌّ = تازہ - تازگی - (اسم مشتق)

طَرِيقٌ = راہ - (اسم واحد) (جمع طرق ہے)

طَرِيقَةٌ = روشن راہ - (اسم واحد) (جمع طرائق ہے)

ط - س

طَسَّ = حروف مقطعات - (واللہ اعلم بالصواب)

طَسَّمَ = حروف مقطعات - (واللہ اعلم بالصواب)

ط - ع

طَعَامٌ = کھانا - (اسم مشتق)

طَعْمٌ = مزہ - ذائقہ - (اسم واحد) (جمع طعوم ہے)

طَعِمْتُمْ = تم نے کھایا - (ماضی - جمع مذکر حاضر)
طَعِمُوا = انہوں نے کھایا - (ماضی - جمع مذکر غائب)

طَلَبْتُ = تلاش کرتا۔ (اسم مصدر)

طَلَعُ = کیلا۔ کیلے کا درخت۔ (اسم واحد)

طَلَعُ = کھجور کا درخت۔ (اسم واحد)

طَلَعْتُ = وہ چمکی۔ نکلی۔ (ماضی۔ واحد مونث)

(غائب)

طَلَّقُ = اس نے طلاق دی۔ (ماضی۔ واحد)

(مذکر غائب)

طَلَّقْتُمْ = تم نے چھوڑ دیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر)

حاضر

طَلَّقْتُمُوا = تم نے چھوڑ دیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر)

حاضر

طَلَّقُوا = تم چھوڑ دو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

طَمِسْتُ = وہ مٹائی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد)

مونث غائب)

طَمِسْنَا = ہم نے مٹایا۔ کھووا۔ (ماضی۔ جمع)

متکلم

ط-م

طَمَعٌ = حرص۔ توقع۔ آرزو۔ (اسم شتن)

ط-و

طُوًى = پاکیزہ۔ ملک شام کی ایک وادی کا نام

ہے جہاں حضرت موسیٰ ﷺ کو رسالت ملی۔ اس

کو وادی مقدس اور وادی امین بھی کہتے ہیں۔

طَعَنَ = عیب کرتا۔ نیزہ مارنا۔ (اسم مصدر)

طَعَنُوا = انہوں نے عیب کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر)

(غائب)

ط-غ

طَغَى = وہ حد سے بڑھا۔ اس نے سرکشی کی۔

(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

طَغَوْا = انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ (ماضی۔

جمع مذکر غائب)

طَغَوَى = سرکشی۔ تافرمانی۔

طَغِيَانٌ = سرکشی کرتا۔ (اسم مصدر)

ط-ف

طَفِقَ = اس نے شروع کیا۔ (ماضی۔ واحد)

(مذکر غائب)

طَفِقَا = ان دونوں نے شروع کیا۔ (ماضی۔

شثنیہ مذکر غائب)

طِفْلٌ = لڑکا۔ (اسم واحد) (جمع اطفال ہے)

ط-ل

فَطَّلُ = اوس۔ شبنم۔ (اسم واحد) (جمع طلال

ہے)

طَلَّاقٌ = عورت کو نکاح سے باہر کرتا۔ طلاق

دینا۔ (اسم مصدر)

طَهَّرَ = اس نے پاک کیا۔ (ماضی- واحد
مذکر غائب)

طَهِّرْ = تو پاک کر (امر- واحد مذکر حاضر)
طَهِّرُوا = تم دونوں پاک کرو۔ (امر- تنثیہ مذکر
حاضر)

طَهْوَرٌ = پاک کرنے والا۔ (اسم فاعل- واحد
مذکر)

ط-ی

طَيِّبٌ = لپیٹا۔ (اسم مصدر)
طَيَّبْتُ = پاکیزہ۔ (اسم واحد) (جمع طیبون ہے)

طَيِّبَاتٌ = پاکیزہ چیزیں۔ (اسم جمع) (واحد
طیبة ہے)

طَيِّبَةٌ = پاکیزہ۔ (اسم واحد) (جمع طیبات ہے)

طَيِّبُونَ = پاک لوگ۔ (اسم جمع) (واحد طیب
ہے)

طَيَّرَ = پرندہ چڑیا۔ (اسم واحد و جمع)

طَيِّنٌ = گیلی مٹی۔ (اسم واحد)

(اسم علم)

طَوَّافُونَ = طواف کرنے والے۔ (اسم فاعل- جمع مذکر)

طَوْنِي = خوبی۔ جنت کے درخت کا نام ہے۔

طَوْدٌ = بڑا پہاڑ۔ ٹیلہ۔ (اسم جامد)

طَوْرَسِينَا = کوہ طور۔ جو وادی ایمن میں ہے
جہاں حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کو تجلی ہوئی تھی۔

طَوْعٌ = تابعداری۔ (اسم مصدر)

طَوَّعْتُ = اس نے فرمانبردار کیا۔ (ماضی- واحد
مؤنث غائب)

طَوْفَانٌ = باو و باران۔ تیز آندھی۔ (اسم
مشتق)

طَوَّلٌ = وراز ہونا۔ (اسم مصدر)

طَوَّلٌ = فراخی۔ احسان رکھنا۔ بزرگی۔ (اسم
مشتق)

طَوِيلٌ = لمبا۔ (اسم واحد) (جمع طوال ہے)

ط-ھ

طَهٌ = حروف مقطعات۔

(ظ)

ظَالِمٌ = بے رحم۔ (اسم واحد) (جمع ظالمون
ہے)

ظ-ا

ظَلَّ = وہ تمام دن ہوا۔ (ماضی) واحد
مذکر غائب۔ فعل ناقص

ظِلَال = سائے۔ (اسم جمع) (واحد ظل ہے)

ظِلَام = ظلم۔ (اسم مبالغہ)

ظُلَّة = سائبان۔ (اسم واحد) (جمع ظلل ہے)

ظَلَّتْ = وہ ہوئی۔ وہ رہی۔ (ماضی) واحد
مؤنث غائب۔ فعل ناقص

ظَلَّتْ = تو ہوا۔ تو رہا۔ (ماضی) واحد مذکر
حاضر۔ فعل ناقص

ظَلَّشْتُمْ = تم ہوئے۔ سارا دن رہے۔ (ماضی)
جمع مذکر حاضر۔ فعل ناقص

ظُلُّل = سائبان۔ (اسم جمع) (واحد ظلة ہے)

ظَلَّلْنَا = ہم نے سایہ کیا۔ (ماضی) جمع متکلم

ظَلَّمْ = بے انصافی۔ ستم۔ (اسم مصدر)

ظَلَّم = اس نے ظلم کیا۔ (ماضی) واحد
مذکر غائب

ظَلِمَ = وہ ظلم کیا گیا۔ (ماضی) مجہول۔ واحد
مذکر غائب

ظُلُمَات = اندھیرے۔ (اسم جمع) (واحد ظلمة
ہے)

ظُلْمَةٌ = اندھیری۔ (اسم واحد) (جمع ظلمات
ہے)

ظَلَمْتُ = اس نے ظلم کیا۔ (ماضی) واحد
مؤنث غائب

ظَالِمَةٌ = ظلم کرنے والی۔ (اسم فاعل) واحد
مؤنث

ظَالِمُونَ = بے انصاف۔ (اسم جمع) (واحد
ظالم ہے)

ظَالِمِينَ = گمان بد کرنے والے۔ (اسم فاعل)
جمع مذکر

ظَاهِرٌ = کھلا۔ غالب۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔ (اسم
فاعل) واحد مذکر

ظَاهِرَةٌ = کھلی آنکھ۔ (اسم واحد) (جمع
ظاہرات ہے)

ظَاهِرُونَ = انہوں نے مدد کی۔ (ماضی) جمع مذکر
غائب

ظَاهِرِينَ = زبردست۔ غالب ہونے والے۔
(اسم فاعل) جمع مذکر۔ (بصلہ علی)

ظ - ع

ظَعْن = سفر کرنا۔ چلنا۔ (اسم مصدر)

ظ - ف

ظَفَّرَ = ناخن۔ (اسم واحد) (جمع اظفار ہے)

ظ - ل

ظِلٌّ = سایہ۔ (اسم واحد) (جمع ظلال ہے)

ظَلَمْتُ = میں نے ظلم کیا۔ (ماضی۔ واحد
مکلم
مذکر غائب)

ظَلَمْنَا = ہم نے گمان کیا۔ (ماضی۔ جمع مکلم)

ظَلَمْتُ = میں نے گمان کیا۔ (ماضی۔ واحد
مکلم)

ظَلَمْتُمْ = تم نے گمان کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

ظَلِمُوا = انہوں نے ظلم کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

ظَلَمُوا = وہ ظلم کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع
مذکر غائب)

ظَلَمُوا = وہ سارے دن ہوئے۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب۔ نعل ناقص)

ظَلَمُوا = بے انصاف۔ (اسم مشتق)

ظَلَمُوا = سایہ کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر)

ظَلَمُوا = بے انصاف۔ (اسم مصدر)

ظَلَمُوا = پیاسا۔ (اسم واحد) (جمع ظمآن ہے)

ظَلَمُوا = پیاسا ہوتا۔ (اسم مصدر)

ظَلَمُوا = گمان کرتا۔ خیال کرتا۔ (اسم مصدر)

ظَلَمُوا = اس نے گمان کیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

ظَلَمْتُ = میں نے ظلم کیا۔ (ماضی۔ واحد
مکلم
مذکر غائب)

ظَلَمْتُمْ = تم نے ظلم کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

ظَلَمُوا = انہوں نے ظلم کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

ظَلِمُوا = وہ ظلم کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع
مذکر غائب)

ظَلِمُوا = وہ سارے دن ہوئے۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب۔ نعل ناقص)

ظَلِمُوا = بے انصاف۔ (اسم مشتق)

ظَلِمُوا = سایہ کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر)

ظَلِمُوا = بے انصاف۔ (اسم مصدر)

ظَلِمُوا = پیاسا۔ (اسم واحد) (جمع ظمآن ہے)

ظَلِمُوا = پیاسا ہوتا۔ (اسم مصدر)

ظَلِمُوا = گمان کرتا۔ خیال کرتا۔ (اسم مصدر)

ظَلِمُوا = اس نے گمان کیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)



(ع)

ع-۱

سے ”سی“ گرمی

عَاد = ہود ﷺ کی قوم کا نام۔ (اسم علم)
 عَاد = دو اشخاص کے نام عَادِ اُولٰی و عَادِ ثانی۔
 عَادِ اُولٰی قوم ہود بن عوص بن سام بن نوح ﷺ کو کہتے ہیں عَادِ ثانی بنو سہیم کو کہتے ہیں جو عَادِ اُولٰی کی ہلاکت کے وقت مکہ میں تھے

عَاد = وہ پھر گیا۔ لوٹا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 عَادُوا = وہ پھر گئے۔ پلٹ گئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

عَادُونَ = سرکش لوگ۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
 عَادِيَات = تیز دوڑنے والے اونٹ اور گھوڑے۔ (واحد عادیۃ ہے۔ جمع مونث سالم)
 عَادِيْتُمْ = تم نے دشمنی رکھی۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

عَادِيْنَ = گمنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
 عَارِضٌ = پراگندہ۔ عذاب کی بدل۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

عَاشِرُوْا = تم زندگانی بسر کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
 عَاصِفٌ = آندھی۔ (اسم صفت)

عَائِدُونَ = پھرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

عَائِلٌ = محتاج۔ عیال دار۔ (اسم فاعل مذکر)
 عَابِدٌ = عبادت کرنے والا۔ (اسم واحد۔ جمع عِبَاد ہے)

عَابِدَاتٌ = عبادت کرنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث۔ واحد عَابِدَةٌ ہے)

عَابِدُونَ = عبادت کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

عَابِرِيٌّ = چلنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
 اصل میں عَابِرِيْنَ تھا۔ ”نون“ اضافت کی وجہ سے گر گیا

عَابِرٌ = چلنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
 عَابِيَةٌ = حد سے گزرنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

عَاجِلَةٌ = دنیا کی مزدوری جلدی دینا۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث۔ مذکر عَاجِلٌ)

عَادٍ = حد سے تجاوز کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر۔ اصل میں عَادِيٌّ تھا تخفیف کی وجہ سے)

عَاصِفَةٌ = تیز چلنے والی ہوا۔ (اسم فاعل۔ واحد
مونث)

عَاصِفُهُ = سخت ہوا۔ (اسم واحد) (جمع
عاصفات ہے)

عَاصِمٌ = بچانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر
عَافِينَ = درگزر کرنے والے۔ (عَنْ کے
صلہ سے۔ اسم فاعل۔ جمع مذکر)

عَاقَبٌ = اس نے بدلہ لیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

عَاقِبُهُ = پیچھے آنے والی۔ آخرت۔ (اسم فاعل۔
واحد مونث)

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ = آخرت کی نیکیاں
متقین کے لئے ہیں۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

عَاقِبْتُمْ = تم نے عذاب کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
حاضر)

عَاقِبُوا = تم عذاب کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
عَاقِرٌ = بانجھ۔ بوڑھی عورت۔ (اسم واحد) (جمع
عقر و عواقر ہے)

عَاكِفٌ = اوندھا۔ معکف۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر)

عَاكِفُونَ = بند رہنا۔ رکے رہنا۔ معکف۔ (اسم
فاعل۔ جمع مذکر)

عَالِمٌ = دانا۔ جاننے والا۔ (اسم واحد) (جمع
علماء ہے)

عَالِمُونَ = جاننے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع
مذکر۔ بحالت رفعی)

عَالَمِينَ = ساری مخلوقات۔ جن اور آدمی
وغیرہ۔ (اسم جمع) (واحد عالم ہے)

عَالِيٌّ = بلند۔ سرکش۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر
عَالِيَّةٌ = بڑی بلند۔ اونچی۔ (اسم فاعل۔ واحد
مونث۔ جمع عالیات ہے)

عَالِيَهُمْ = ان کے اوپر کا لباس۔ (اسم فاعل۔
واحد مذکر۔ مضاف مضاف الیہ)

عَالِينَ = بڑے مرتبہ والے۔ سرکش۔ (اسم
فاعل۔ جمع مذکر)

عَامٌ = برس۔ (اسم واحد) (جمع اعوام ہے)
عَامِلٌ = کام کرنے والا۔ مفلس۔ (اسم فاعل۔
واحد مذکر)

عَامِلَةٌ = کام کرنے والی۔ محنت کرنے والی۔
(اسم فاعل۔ واحد مونث)

عَامِلُونَ = کام کرنے والے۔ زکاۃ و عشر
اکٹھی کرنے والے کارندے۔ (اسم فاعل۔ جمع
مذکر)

عَامِينَ = دو برس۔ (اسم تثنیہ۔ واحد عام اور
جمع اعوام ہے۔ بحالت نصی و جری)

عَاهِدٌ = اس نے اقرار کیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

عَاهَدْتُ = تو نے اقرار کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
مذکر غائب)

حاضر

عَاهَدْتُمْ = تم نے اقرار کیا۔ (ماضی- جمع مذکر

حاضر

عَاهَدُوا = انہوں نے اقرار کیا۔ (ماضی- جمع

مذکر غائب)

ع - ب

عِبَاد = بندے۔ غلام۔ (اسم جمع) (واحد عبد

ہے)

عِبَادَةٌ = بندگی کرنا۔ عبادت کرنا۔ (اسم مشتق)

عَبْتُ = کھیل۔ بے سود۔ (اسم مشتق)

عَبْد = بندہ۔ (اسم واحد) (جمع عباد ہے)

عَبْدُ اللَّهِ = اللہ کا بندہ یعنی محمد ﷺ۔ (مركب

اضافی)

عَبَدَ = اس نے عبادت کی۔ (ماضی- واحد

مذکر غائب)

عَبَدْتُ = تو نے بندہ بنایا۔ تو نے غلام بنایا۔

(ماضی- واحد مذکر حاضر)

عَبَدْتُمْ = تم نے عبادت کی۔ (ماضی- جمع مذکر

حاضر)

عَبَدْنَا = ہم نے عبادت کی۔ (ماضی- جمع

متکلم)

عَبْدَيْنِ = دو بندے۔ (اسم تثنیہ- واحد عبد

اور جمع عباد ہے۔ بحالت نصی و جری)

عِبْرَةٌ = نصیحت پکڑنا۔ (اسم مصدر)

عَبَسَ = اس نے منہ ترش کیا۔ تیوری

چڑھائی۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

عَبْقَرِيٌّ = قیمتی پھونٹا۔ (”ی“ نسبتی ہے جنوں

کے مسکن کی طرف) (اسم واحد)

عَبُوسٌ = ادا۔ بہت سخت مراد قیامت۔

(اسم مشتق)

عَبِيدٌ = غلام بندے۔ (اسم جمع) (واحد عبد

ہے)

ع - ت

عَتَّتْ = اس نے سرکشی کی۔ (ماضی- واحد

مؤنث غائب)

عُتِلُّ = بد خو۔ کڑی طبیعت۔ (اسم مشتق)

عُتُوٌّ = شرارت۔ سرکشی کرنا۔ (اسم مصدر)

عَتُّوا = انہوں نے سرکشی کی۔ (ماضی- جمع مذکر

غائب)

عَتِيٌّ = اکڑا ہوا۔ سرکش۔ (اسم واحد) (جمع

اعتناء ہے)

عَتِيدٌ = تیار۔ موجود۔ (اسم مشتق)

عَتِيقٌ = پرانا۔ آزاد کیا ہوا۔ (صفت مشبہ- واحد

مذکر)

الْبَيْتُ الْعَتِيقُ = خانہ کعبہ۔ کیونکہ لوگوں

کے قبضہ سے آزاد کیا گیا اور لوگوں کو جہنم کے

عذاب سے آزاد کرنے والا ہے۔ (مربک توصیفی)

ع-ث

عَثَرَ = خبر کی گئی۔ اطلاع دی گئی۔ (ماضی
مجمول۔ واحد مذکر غائب)

ع-ج

عَجَبَ = تعجب میں ڈالنے والا۔ (اسم
مبالغہ)

عَجَافٌ = دہلے۔ لاغر۔ (اسم جمع) (واحد
عَجِيفٌ ہے)

عَجَبْتُ = بہت خوش۔ (اسم واحد) (جمع
اعجاب ہے)

عَجَبْتُ = تو نے تعجب کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
حاضر)

عَجَبْتُمْ = تم نے تعجب کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
حاضر)

عَجِبْنَا = انہوں نے تعجب کیا۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)

عَجِرْتُ = میں عاجز ہوا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)
عَجَلٌ = گائے کا پچھڑا۔ (اسم واحد) (جمع
عجول ہے)

عَجَلٌ = جلدی کرتا۔ (اسم مصدر)
عَجَّلَ = اس نے جلدی کی۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

عَجَّلَ = تو جلدی کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

عَجَّلْتُ = میں نے جلدی کی۔ (ماضی۔ واحد
متکلم)

عَجَّلْتُمْ = تم نے جلدی کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر
حاضر)

عَجَّلْنَا = ہم نے جلدی کی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
عَجُوزٌ = بڑھیا۔ (اسم واحد) (جمع عجوز و
عجائز ہے)

عَجُولٌ = جلد باز۔ (اسم فاعل۔ مبالغہ)

عَجِيبٌ = نادر۔ (اسم مشتق)

ع-د

عَدَّ = گنا۔ شمار کرنا۔ (اسم مصدر)

عَدَّ = اس نے گنا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

عِدُّ = تو وعدہ کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

عَدَاوَةٌ = دشمنی۔ (اسم مصدر)

عِدَّةٌ = کتنی۔ عورت کے سوگ کی مدت۔
مطلقہ تین ماہ یا تین حیض عدت۔ بیوہ چار ماہ دس
دن۔ مطلقہ یا بیوہ حاملہ لڑکا جنمنے تک۔ (اسم واحد)

(جمع عِدَدٌ ہے)

عُدَّةٌ = سامان۔ (اسم واحد) (جمع عُدَدٌ ہے)

عُدْتُمْ = تم نے پھر کیا۔ تم دوبارہ لوٹے۔
(ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

ع-ر

عَوَاء = صاف میدان۔ جس میں گھاس نہ ہو۔
 (اسم واحد) (جمع اعواء ہے)
 عَرْب = پیار والی عورتیں۔ جو خاوند پر عاشق
 ہوں۔ (اسم جمع) (واحد عَرْوَب ہے)
 عَرَبِيٌّ = عرب والا۔ (اسم منسوب)
 عَرْجُون = گھاس۔ کھجور کی سوکھی شاخ۔ (اسم
 واحد) (جمع عراجین ہے)
 عَرْش = چھت۔ تخت۔ اللہ تعالیٰ کا تخت۔
 (اسم واحد) (جمع عُرُوش ہے)
 عَرَض = چوڑائی۔ (اسم واحد) (اسم مصدر)
 (جمع عروض ہے)
 عَرَض = عزت یا مال۔ سامان دنیا۔ سونے اور
 چاندی کے سوا۔ (اسم واحد) (جمع اعراض ہے)
 عَرَض = اس نے پیش کیا۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)
 عَرَضَةٌ = نشانہ۔ حیلہ۔ ڈھال۔ (اسم مشتق)
 عَرَضْتُمْ = تم نے پروے میں چھپایا۔ تم نے
 اشارہ میں کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
 عَرَضْنَا = ہم نے ظاہر کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
 عَرَضُوا = وہ ظاہر کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔
 جمع مذکر غائب)
 عَرَفَ = اس نے پہچانا۔ (ماضی۔ واحد

عَدَدٌ = اس نے گن گن رکھا۔ اس نے شمار
 کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 عَدَسٌ = مسور۔ (اسم جمع) (واحد عدسة ہے)
 عَدَلٌ = برابر کرنا۔ انصاف کرنا۔ (اسم مصدر)
 عَدَلٌ = اس نے برابر کیا۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)
 عَدْنٌ = ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ جنت۔ (اسم۔
 ظرف مکان)
 عَدْنَا = ہم پھر لوٹے۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
 عَدُوٌّ = زیادتی۔ شرارت۔ (اسم مشتق)
 عَدُوٌّ = دشمن۔ (اسم واحد) (جمع اعداء ہے)
 عُدْوَانٌ = ظلم۔ زیادتی۔ (اسم مشتق)
 عُدْوَةٌ = وادی کا کنارہ جو دور بھی ہو اور
 بلند بھی۔ (اسم مشتق)

ع-ذ

عَذَابٌ = سزا۔ (اسم واحد) (جمع اعذبة ہے)
 عَذَبْتُ = بیٹھا۔ (اسم مشتق)
 عَذَبَ = اس نے سزا دی۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)
 عَذَّبْنَا = ہم نے سزا دی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
 عَذَّبْتُ = میں نے پناہ لی۔ (ماضی۔ واحد متکلم)
 عَذْرٌ = بہانہ۔ الزام۔ (اسم واحد) (جمع اعدار
 ہے)

مذکر غائب

عَرَفَ = اس نے معلوم کروایا۔ (ماضی- واحد)

مذکر غائب

عُرِفَ = مشہور۔ نیکی۔ احسان۔ (اسم مشتق)

عَرَافَاتُ = عرفات۔ (اسم مکان) مکہ سے نو

کوس پر ایک جگہ ہے۔ بروز عرفہ یعنی نویں ذی

الحجہ کو حاجی وہاں کھڑے ہو کر لبیک اور دعا

پڑھتے ہیں وہیں نماز ظہر اور عصر ادا کر کے مکہ

کو لوٹتے ہیں۔

عَرَفْتُ = تو نے پہنچوایا۔ معلوم کروایا۔ (ماضی- واحد)

واحد مذکر حاضر

عَرَفْتُ = تو نے پہچانا۔ (ماضی- واحد مذکر حاضر)

عَرَفُوا = انہوں نے پہچانا۔ (ماضی- جمع)

مذکر غائب

عَرِمَ = سخت سیلاب کی رو۔ جنگلی نر چوہا۔

(اسم مشتق)

عُرْوَةُ = گوشہ۔ آنجورے کا دستہ۔ (اسم مشتق)

عُرُوشُ = تخت۔ چھتیں۔ (اسم جمع) (واحد)

عرش ہے)

عَرِيضُ = چوڑا۔ (اسم واحد) (جمع عرض

ہے)

ع-ز

عَزَّ = بزرگی۔ (اسم مشتق)

عَزَّ = وہ غالب ہوا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

عِزَّةٌ = اقبال۔ زور۔ (اسم مشتق)

عَزَّزْتُمُوْا = تم نے مدد کی۔ (ماضی- جمع مذکر

حاضر)

عَزَّزْنَا = ہم نے قوت دی۔ (ماضی- جمع متکلم)

عَزَّزُوا = انہوں نے قوت دی۔ (ماضی- جمع

مذکر غائب)

عَزَلْتُ = تو نے کنارہ پکڑا۔ (ماضی- واحد مذکر

حاضر)

عَزَمَ = وہ مستعد ہوا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

عَزَمَ = ہمت۔ قصد۔ (اسم مشتق)

عَزَمْتُ = تو نے ارادہ کیا۔ (ماضی- واحد مذکر

حاضر)

عَزَمُوا = انہوں نے قصد کیا۔ (ماضی- جمع مذکر

غائب)

عُزِّيَ = بت یا درخت تھا۔ جس کو ظہور

اسلام سے پہلے بنو مسلم وغیرہ کفار عرب پوجتے

تھے۔ اس کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بحکم

رسول اللہ ﷺ نیست و نابود کر دیا۔ (اسم علم)

عُزَيْرٌ = پیغمبر ہیں۔ جو بنی اسرائیل شریا کے

بیٹے سبط لادی سے ہیں جو نسب میں ہارون بن

عمران تک پہنچتے ہیں۔ یہودی ان کو نادانی سے

اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔

عَزِيْزٌ = عزت والا۔ غالب۔ زبردست۔ اللہ

تعالیٰ کا نام۔ (اسم واحد) (جمع اعزاز و اعزاء و اعزۃ ہے)

عِزِّین = گروہ در گروہ۔ جماعت۔ (اسم تثنیہ)
(واحد عِزۃ اور جمع عِزۃ ہے)

ع - س

عَسَى = امید۔ قریب۔ شاید۔ (فعل مقاربہ)

عُسْر = تنگی۔ سختی۔ (اسم مشتق)

عَسِرَ = سخت ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

عُسْرَى = سختی۔ تکدستی۔ (اسم تفضیل۔ واحد مونث)

عُسْرَةٌ = دشواری۔ تکدستی۔ (اسم مشتق)

عَسْعَسَ = رات آئی۔ رات گزاری۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

عَسَقَ = حروف مقطعات۔ (واللہ اعلم بالصواب)

عَسَلٌ = شہد۔ (اسم واحد) (جمع اعسال ہے)

عَسَيْتُمْ = تم نے امید کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

عَسِيرٌ = مشکل۔ (اسم صفت)

يَوْمٌ عَسِيرٌ = روز قیامت۔ (مركب تومینہ)

ع - ش

عِشَاء = رات کی نماز۔ (اسم واحد) (جمع عِشَاء)

عِشَى و عِشَايَا ہے)

عِشَار = اونٹنیاں۔ دس ماہ کی حاملہ جننے کے

قریب۔ (اسم جمع) (واحد عِشْرَاء ہے)

عِشْر = دس عورتیں۔ (اسم عدد)

عِشْرَةٌ = دس مرد۔ (اسم عدد)

عِشْرُونَ = بیس۔ (اسم عدد۔ بحالت رفعی)

عِشَى = شام کا وقت۔ (اسم جمع) (واحد عِشِيَّة ہے)

عِشِيَّة ہے)

عِشِيَّة = شام۔ مغرب سے عشاء تک کا

وقت۔ (اسم واحد) (جمع عِشَى ہے)

عِشِير = رفیق۔ خاوند۔ (اسم واحد) (جمع عِشِيرَاء ہے)

عِشِيرَاء ہے)

عِشِيرَةٌ = قبیلہ۔ برادری کے لوگ۔ گھرانہ۔

(اسم واحد) (جمع عِشَائِر و عِشِيرَات ہے)

ع - ص

عَصَا = لاشہی۔ چھڑی۔ (اسم واحد) (جمع عِصَى ہے)

عِصَى ہے)

عِصَى = اس نے انکار کیا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

عِصْبَةٌ = گروہ۔ دس سے چالیس تک یا تیس

سے چالیس تک۔ (اسم واحد) (جمع عِصَب ہے)

عِصْر = زمانہ۔ سہ پہر۔ نماز عصر۔ (اسم واحد)

(جمع عِصْر ہے)

عَضِيْنٌ = بوئیاں۔ ٹکڑے ٹکڑے۔ (اسم جمع)
(واحد عضا ہے)

ع-ط

عَطَاءٌ = بخشش دینا۔ بخشا۔ (اسم مصدر)
عِظْفٌ = بازو۔ طرف۔ پہلو۔ (اسم واحد) جمع
اعطاف و عطاف و عطوف ہے
عُظِّلْتُ = وہ چھوڑی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مونث غائب)

ع-ظ

عِظٌّ = تو نصیحت کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
عِظَامٌ = ہڈیاں۔ (اسم جمع) (واحد عظم ہے)
عِظْمٌ = ہڈی۔ (اسم واحد) جمع عظام ہے
عِظْوًا = تم نصیحت کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
عِظِيْمٌ = مرتبہ والا۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔ (اسم
صفت)

ع-ف

عَفَاً = اس نے معاف کیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)
عَفْرِيْتُ = دیو۔ (اسم واحد) جمع عفرایت
ہے
عَفُوٌّ = گناہ معاف کرنے والا۔ (اسم۔ صفت)

عَصْفٌ = سخت ہوا۔ بھوسا۔ ہلاک کرنا۔ (اسم
مصدر) (اسم جمع) (واحد عصف ہے)

عِصْمٌ = نکاح۔ ناموس۔ عقد۔ (اسم جمع) (واحد
عصمة ہے)

عَصَوًا = انہوں نے نافرمانی کی۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)

عِصِيٌّ = لاشعیاں۔ (اسم جمع) (واحد عصا ہے)

عِصِيٌّ = نافرمان۔ (اسم واحد) جمع عصیون
ہے

عِصْيَانٌ = گناہ۔ (اسم مشتق)

عَصِيْبٌ = سخت۔ وشوار۔ (اسم واحد) جمع
عصب ہے

عَصِيَّتٌ = تو نے نافرمانی کی۔ (ماضی۔ واحد
مذکر حاضر)

عَصِيْتُمْ = تم نے نافرمانی کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر
حاضر)

عَصِيْنَا = ہم نے نافرمانی کی۔ (ماضی۔ جمع
مکمل)

ع-ض

عَضُدٌ = بازو۔ قوت۔ (اسم واحد) جمع اعضاء
ہے

عَضُوًّا = انہوں نے دانتوں سے کٹا۔ (ماضی۔
جمع مذکر غائب)

(مبالغہ)

عَفُو = ضرورت سے زائد مال۔ معاف کرنا۔
جبکہ ”با“ کا صلہ ہو۔

عَفْوًا = انہوں نے معاف کیا۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)

عَفْوَانًا = ہم نے معاف کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

عَفِيًّا = وہ معاف کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مذکر غائب)

ع-ق

عِقَابٌ = سزا۔ عذاب۔ (اسم مصدر)

عُقَبٌ = اولاد۔ نسل۔ ایڑی۔ (اسم واحد) جمع
اعقاب ہے)

عُقْبِيٌّ = آخرت۔ بدلہ۔ (اسم تفضیل۔ واحد
مونث)

عُقْبَةٌ = پہاڑ کی چوٹی۔ گھاٹی۔ جہاں سے مشکل
سے اتر چڑھ سکیں۔ (اسم واحد) جمع عقبات ہے)

عَقَبِيٌّ = دو ایڑیاں۔ (اسم تشبیہ۔ بحالت نصی
و جری۔ واحد عقب اور جمع اعقاب ہے)

عَقْدٌ = گرہیں۔ (اسم جمع) (واحد عقد ہے)

عُقْدٌ = گرہ۔ نکاح۔ عہد و بیان۔ (اسم مصدر)

عُقْدَةٌ = گرہ۔ (اسم مشتق)

عَقَدْتُ = اس عورت نے عہد باندھا۔

(ماضی۔ واحد مونث غائب)

عَقَدْتُكُمْ = تم نے باندھا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
حاضر)

عَقَّرَ = اس نے کوچیوں کاٹیں۔ اس نے پاؤں
کاٹے۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

عَقَّرُوا = انہوں نے پاؤں کاٹے۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)

عَقَّلُوا = انہوں نے سمجھا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

عُقُودٌ = اقرار۔ (اسم جمع) (واحد عقد ہے)

عَقِيمٌ = بانجھ۔ (مرد یا عورت) خشک۔ لڑائی۔
روز قیامت (اسم واحد) جمع عقائم و عقم
ہے)

ع-ل

عَلِيٌّ = اوپر۔ (حرف جر)

عَلَاً = اس نے سرکشی کی۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

عَلِيٌّ = بلند۔ (اسم تفضیل۔ جمع مونث واحد
عَلِيٌّ)

عَلَامٌ = بڑا جاننے والا۔ (اسم مبالغہ)

عَلَامَاتٌ = نشانیاں۔ (اسم جمع) (واحد علامۃ
ہے)

عَلَانِيَةٌ = کھلا۔ (اسم مصدر)

عَلَمْنَا = ہم سکھائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع متکلم)	عَلَقٌ = خون کی پٹکی۔ (اسم مصدر)
عَلِمُوا = انہوں نے جانا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)	عَلَقَةٌ = خون بندھا ہوا۔ (اسم واحد) (جمع علق ہے)
عَلُوٌّ = چڑھنا۔ بلند ہونا۔ (اسم مصدر)	عِلْمٌ = جانتا۔ (اسم واحد) (جمع علوم ہے)
عَلُوا = وہ غالب ہوئے۔ انہوں نے سرکشی کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)	عِلْمٌ = اس نے معلوم کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
عَلِيٌّ = اللہ تعالیٰ کا نام۔ بلند مرتبے والا۔ (اسم واحد) (جمع علیون ہے)	عِلْمٌ = اس نے سکھایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
عُلْيَا = بہت اوپر۔ (اسم تفضیل۔ واحد مونث)	عِلْمَاءٌ = عالم۔ دانا۔ (اسم جمع) (واحد عالم ہے)
عَلِيمٌ = اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام۔ جس کا علم عرش و فرش تک محیط ہے۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)	عَلِمْتُ = اس نے جانا۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)
عَلِيُّونَ - عَلِيِّينَ = نیکوں کی روح کا مقام جو ساتویں آسمان پر عرش کے داہنے پایہ سے لے کر سدرۃ المنتہیٰ تک ہے۔ (اسم جمع۔ بحالت نصی و جری) (واحد علی ہے)	عَلِمْتُ = تو نے جانا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)
عَلَيْهِمْ = ان پر۔ "علی" حرف جار ہے ہم اس کی ضمیر جمع مذکر کے لئے)	عَلِمْتُ = تو نے سکھایا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)
	عَلِمْتُ = میں نے سکھایا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)
	عَلِمْتُمْ = تم نے سکھایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
	عَلِمْتُمْ = تم سکھائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر حاضر)
	عَلِمْتُمْوَا = تم نے جانا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
	عَلِمْنَا = ہم نے جانا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
	عَلِمْنَا = ہم نے سکھایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ع-م

عَمٌّ = کس چیز سے۔ اس کی اصل عن ما تھی۔ عن سے ما (کس چیز) "نون" کو میم کر کے ادغام کیا۔ الف گرا دیا۔

عَمَّرُوا = انہوں نے بسایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

عَمَل = کام۔ (اسم واحد) (جمع اعمال ہے)

عَمِلَ = اس نے کام کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

عَمِلْتُ = اس نے کام کیا۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

عَمِلْتُمْ = تم نے کام کیا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر غائب)

عَمِلُوا = انہوں نے کام کئے۔ انہوں نے عمل کئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

عَمَّوْا = وہ اندھے ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

عَمَّوْنَ = دل کے اندھے۔ (اسم جمع) (واحد عمی ہے)

عُمِّي = اندھے۔ (اسم جمع) (واحد اعمی ہے)

عَمِي = وہ اندھا ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

عَمِيَان = اندھے۔ (اسم جمع) (واحد اعمی ہے)

عَمِيْتُ = وہ چھپائی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مؤنث غائب)

عَمِيقٌ = گہرا۔ (اسم واحد) (جمع عُفُق و

عَمٌّ = چچا۔ (اسم واحد) (جمع اعمام و عمومة ہے)

عَمِي = اندھا پن۔ (اسم صفت)

عَمَّاتٌ = پھوپھیاں۔ (اسم جمع) (واحد عمۃ ہے)

عِمَاد = کھبے۔ بلند عمارتیں۔ ستون۔ (اسم جمع) (واحد عمد ہے)

عِمَارَةٌ = آباد کرنا۔ (اسم مصدر)

عَمَدٌ = ستون۔ کھمبا۔ (اسم واحد) (جمع عماد ہے)

عُمُر = جینا۔ زندگی۔ (اسم مشتق) مگر یہ بالفتح قسم کے ساتھ خاص ہے۔

عَمْر = جان۔ (اسم واحد) (جمع اعمار ہے)

عِمْرَان = دو اشخاص کے نام۔ ایک حضرت موسیٰ و حضرت ہارون عليهما السلام کے باپ تھے جن سے یہ دونوں حضرات آل عمران کہلاتے ہیں۔ یہ

عمران مائیں کے بیٹے حضرت یعقوب عليه السلام کی اولاد سے ہیں۔ دوسرے حضرت مریم علیہا السلام کے

باپ اور حضرت عیسیٰ عليه السلام کے نانا تھے۔ جن سے حضرت مریم و حضرت عیسیٰ عليهما السلام آل عمران کہلاتے ہیں یہ عمران مائیں کے بیٹے حضرت

سلیمان عليه السلام کی اولاد سے ہیں۔ (اسم علم)

عُمْرَةٌ = زیارت۔ چھوٹا حج۔ (اسم واحد) (جمع عمر و عمرات ہے)

عُمُق و عماق ہے)

عَمِین = دل کے اندھے۔ (اسم جمع) (واحد اعمی ہے)

ع-ن

عَن = سے۔ (حرف جار)

عِنَب = انگور۔ (اسم واحد) (جمع اعناب ہے)

عِنْتُ = مشقت۔ (اسم مشتق)

عِنْتُ = وہ جھگی۔ اس نے عاجزی کی۔ (ماضی)

(واحد مونث غائب)

عِنْتُمْ = تم مشکل میں پڑے۔ (ماضی) جمع مذکر حاضر

عِنْدَ = نزدیک۔ (اسم ظرف)

عِنُق = گردن۔ (اسم واحد) (جمع اعناق ہے)

عِنْكَبُوت = مکڑی۔ (اسم واحد) (جمع عناکب ہے)

عِنِيد = دشمن۔ ضد کرنے والا۔ ناحق لڑنے

والا۔ (اسم صفت) (جمع عند ہے)

ع-و

عَوَانٌ = میانہ سال۔ ادھیڑ عمر۔ (اسم واحد)

(جمع عون ہے)

عَوَج = عیب۔ بدخلق۔ ٹیڑھ پن۔ (اسم مشتق)

عَوْرَات = شرمگاہیں۔ ننگے ہونے کے وقت۔

(اسم جمع) (واحد عَوْرَة ہے)

عَوْرَة = پردہ۔ شرمگاہ۔ ننگا کھلا۔ وہ چیز جس

کے دکھانے میں شرم محسوس ہو۔ (اسم واحد) (جمع

عودات ہے)

عَوُقَب = وہ سزا دیا گیا۔ (ماضی) مجہول۔ واحد

مذکر غائب)

عَوُقِبْتُمْ = تم سزا دیئے گئے۔ (ماضی) مجہول۔

جمع مذکر حاضر

ع-ه

عَهْدٌ = اقرار۔ قول۔ (اسم واحد) (جمع عہود

ہے)

عَهْدٌ = اس نے اقرار کیا۔ (ماضی) واحد

مذکر غائب)

عَهْدْنَا = ہم نے اقرار کیا۔ (ماضی) جمع متکلم

عِهْنٌ = رنگین اون۔ رنگین بال۔ (اسم واحد)

(جمع عہون ہے)

ع-ی

عَيْدٌ = مسلمانوں کی خوشی کا دن۔ (اسم واحد)

(جمع اعیاد ہے)

عَيْرٌ = قافلہ۔ (اسم واحد) (جمع عیرات ہے)

عَيْسِي = پیغمبر کانام۔ حضرت مریم علیہا السلام

کے بیٹے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ زندہ چوتھے

آسمان پر گئے۔ (اسم علم)

عَيْشَةٌ = گزران۔ زندگی۔ جینا۔ (اسم مصدر)

عَيْلَةٌ = محتاجی۔ فقر و فاقہ۔

عَيْن = بڑی آنکھوں والیاں۔ موٹی آنکھوں والیاں۔

عَيْن = چشمہ۔ آنکھ۔ سورج۔ (اسم واحد) جمع
عیون ہے

عَيْنَان = دو چشمے۔ دو آنکھیں۔ (اسم تشبیہ)

بحالتِ رَفْعِی (واحد عین اور جمع عیون ہے)

عَيْنَيْن = دو آنکھیں۔ (اسم تشبیہ۔ بحالتِ نَصْبِی

و جری) (واحد عین اور جمع عیون ہے)

عَيْوُنٌ = آنکھیں۔ چشمے۔ (اسم جمع) (واحد عین
ہے)عَيْنَانَا = ہم تھک گئے۔ عاجز ہوئے۔ (ماضی۔
جمع / تشبیہ متکلم)

أَفْعَيْنَانَا = کیا ہم تھک گئے۔ (ماضی۔ جمع متکلم)



(غ)

غَاوٌ = کھوہ۔ گڑھا۔ غار۔ (اسم واحد) جمع

اغوار ہے

غَاوِيْنٌ = تاوان دینے والے۔ (اسم فاعل۔

جمع مذکر)

غَاسِقٌ = رات کا اندھیرا۔ چاند گرہن۔ (اسم

فاعل۔ واحد مذکر)

غَاشِيَةٌ = چھپانے والی۔ قیامت۔ (اسم فاعل۔

واحد مؤنث)

غَافِرٌ = گناہ چھپانے والا۔ بخشنے والا۔ (اسم

فاعل۔ واحد مذکر)

غَافِرِيْنٌ = گناہ چھپانے والے۔ (اسم فاعل۔

جمع مذکر۔ بحالتِ نَصْبِی و جری)

غ-ا

غَائِبَةٌ = چھپنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مؤنث)

غَائِبُوْنَ = چھپنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

غَائِبِيْنٌ = چھپ رہنے والے۔ (اسم فاعل۔

جمع مذکر)

غَائِطٌ = کشادہ۔ زمین۔ پاختہ۔ (اسم مکان)

غَائِطُوْنَ = غصے میں ڈالنے والے۔ (اسم

فاعل۔ جمع مذکر)

غَائِبِرُوْنَ = پیچھے رہنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر)

غَائِبِرِيْنٌ = پیچھے رہنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

غَافِلٌ = بے خبر۔ (اسم فاعل) (جمع غافلون ہے)

غَدَوْتُ = تو صبح کو چلا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غَافِلَاتٌ = بے خبر عورتیں۔ (اسم جمع) (واحد

حاضر

غافلة ہے)

غ-ر

غَالِبٌ = زبردست۔ (اسم واحد) (جمع غالبون

ہے)

غَرَّ = اس نے فریب دیا۔ (ماضی۔ واحد

غَاوُونَ = گمراہ۔ (اسم جمع) (واحد غاوی ہے)

مذکرغائب)

غ-ب

غَرَابٌ = کوا۔ (اسم واحد) (جمع غربان ہے)

غَرَابِيبٌ = کالے۔ سیاہ کولے۔ (اسم جمع)

(واحد غراب ہے)

غَبْرَةٌ = گرد و غبار۔ (اسم مصدر)

غ-ث

غَرَامٌ = تداون۔ حرص۔ (اسم جمع) (واحد غریم

ہے)

غَرَبْتُ = وہ ڈوبی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

غُثَاءٌ = سوکھی گھاس۔ کوزا۔ (اسم واحد) (جمع

اغشاء ہے)

غَرَبِيٌّ = مغرب کی طرف والا۔ (اسم منسوب)

غَرَبِيَّةٌ = مغرب والی۔ (اسم واحد) (جمع

غرائب ہے)

غ-د

غَرَّتْ = اس نے فریب دیا۔ (ماضی۔ واحد

غَدٌّ = آئندہ۔ کل۔ قیامت۔ (اسم)

مذکرغائب)

غَدَاءٌ = صبح کا کھانا۔ (اسم واحد) (جمع اغدیه

ہے)

غُرْفٌ = بالا خانہ۔ روشن دان۔ (اسم واحد)

غَدَاةٌ = صبح کا وقت۔ (اسم واحد) (جمع

جمع غرفات ہے)

غُرْفَاتٌ = جھروکے۔ کھڑکیاں۔ (اسم جمع) (واحد

غداوات ہے)

غرف ہے)

غَدَقٌ = بہت پانی والا چشمہ۔

غُرْفَةٌ = چلو بھرپانی۔ (اسم واحد) (جمع غرفات

غَدَوٌ = صبح کے وقت جانا۔ (اسم مصدر)

ہے)

غَدَوُوا = وہ صبح کو چلے۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غَصَّةٌ = ننگی۔ گلے میں پھنسا۔ (اسم واحد)
(جمع غصص ہے)

غ-ض

غَضِبْتُ = غصہ کرتا۔ (اسم مصدر)
غَضِبْتُ = اس نے غصہ کیا۔ (ماضی۔ واحد)
غَضِبْتُ = غصہ سے بھرا ہوا۔ (اسم صفت)
غَضِبُوا = وہ غصہ ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر)
غائب

غ-ط

غِطَاءٌ = پردہ۔ اندھیری۔ (اسم واحد) (جمع)
اغطیة ہے

غ-ف

غَفَّارٌ = بڑا بخشنے والا۔ (اسم مبالغہ)
غَفَّرَ = اس نے بخشا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
غَفْرَانٌ = بخشش۔ (اسم مصدر)
غَفَرْنَا = ہم نے بخشا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
غَفْلَةٌ = بے خبری۔ بھول۔ (اسم مصدر)
غَفُورٌ = بخشنے والا۔ (اسم مبالغہ)

غ-ل

غَرَقٌ = پانی میں ڈوبنا۔ (اسم مصدر)

غُرُوبٌ = آفتاب ڈوبنا۔ (اسم مصدر)

غُرُورٌ = فریب رینا۔ (اسم مصدر)

غُرُورٌ = فریب دینے والا۔ (صیغہ مبالغہ۔ واحد)

غ-ز

غَزَى = مجاہد۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے

والے۔ (اسم جمع) (واحد غازی ہے)

غَزْلٌ = سوت۔ دھاگا۔ (اسم مصدر)

غ-س

غَسَّاقٌ = پیپ۔ (اسم مشتق)

غَسَّقَ = اس نے اندھیرا کیا۔ (ماضی۔ واحد)

مذکر غائب

غَسْلِينٌ = زخم کا دھوون۔ (اسم مشتق)

غ-ش

غَشَاوَةٌ = ڈھانپنا۔ چھپانا۔ (اسم مصدر)

غَشَاوَةٌ = غلاف۔ آنکھ کا پردہ۔ (اسم مصدر)

غَشَى = اس نے چھپایا۔ (ماضی۔ واحد)

مذکر غائب

غ-ص

غَصَبٌ = چھین لینا۔ (اسم مصدر)

غِلٌّ = دشمنی۔ کینہ۔ (اسم مشتق)

غَلٌّ = اس نے چھینا۔ خیانت کی۔ (ماضی۔ واحد)

مذکر غائب

غِلَاطٌ = بے رحم فرشتے۔ (اسم جمع) (واحد)

غلیظ ہے

غُلَامٌ = لڑکا۔ (اسم واحد) (جمع غلمان ہے)

غُلَامِيْنَ = دو لڑکے۔ (اسم تثنیہ۔ بحالت نصی

و جری) (واحد غلام اور جمع غلمان ہے)

غَلْبٌ = گھنے۔ طے ہوئے درخت۔ (اسم جمع)

(واحد اغلب ہے)

غَلْبٌ = طاقت۔ زور۔ (اسم مشتق)

غَلَبْتُ = وہ غالب آئی۔ (ماضی۔ واحد مونث

غائب)

غَلَبْتُ = وہ مغلوب کی گئی۔ (ماضی مجہول۔

واحد مونث غائب)

غَلَبُوا = وہ زبردست ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

غَلَبُوا = وہ مغلوب کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔

جمع مذکر غائب)

غُلَّتْ = وہ باندھی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد

مونث غائب)

غِلْطَةٌ = سختی۔ (اسم مشتق)

غُلْفٌ = پردہ۔ (اسم جمع) (واحد غلاف ہے)

غَلَّقْتُ = اس نے باندھا۔ بند کیا۔ (ماضی۔

واحد مونث غائب)

غِلْمَانٌ = لڑکے۔ چھوٹے بچے۔ (اسم جمع)

(واحد غلام ہے)

غُلُوًّا = تم گردن میں طوق ڈالو۔ (امر۔ جمع

مذکر حاضر)

غَلِيٌّ = دیگ کا جوش مارنا۔ (اسم مصدر)

غَلِيْظٌ = سخت۔ گاڑھا۔ (اسم صفت)

غ-م

غَمٌّ = تنگی۔ رنج۔ (اسم واحد) (جمع غموم ہے)

غَمْرَةٌ = سختی۔ بے ہوشی۔ (اسم واحد) (جمع

غَمْرَاتٌ ہے)

غَمْرَاتٌ = بے ہوشیاں۔ سختیاں۔ (اسم جمع)

(واحد غمرا ہے)

غَمَمَةٌ = فکر۔ رنج۔ (اسم واحد) (جمع غمم ہے)

غَمَامٌ = بادل۔ (اسم جمع) (واحد غم ہے)

غ-ن

غَنَمٌ = بکری۔ (اسم واحد) (جمع اغنام ہے)

غَنِمْتُمُ = تم لوٹ لائے۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

غَنِيٌّ = بے پرواہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔ (اسم واحد)

(جمع اغنیاء ہے)

غ-و

غَوِيٌّ = وہ بے راہ چلا۔ وہ بری راہ چلا۔
(ماضی- واحد مذکر غائب)

غَوَاشٍ = پردے۔ سائبان۔ (اسم جمع) (واحد غوش ہے)

غَوَاصٌّ = غوطہ لگانے والا۔ غوطہ خور۔ (اسم فاعل- واحد مذکر)

غَوْرًا = گہرا پانی۔ نیچے اترا ہوا پانی۔ (اسم مصدر)

غَوْلٍ = سر پھرتا۔ سر پکراتا۔ (اسم مصدر)

غَوِيٌّ = گمراہ۔ (اسم مشتق)

غَوِيْنَا = ہم گمراہ ہوئے۔ (ماضی- جمع متکلم)

غ-ی

غَمِيٌّ = دوزخ۔ گمراہ ہونا۔ (اسم صفت)

غَيَابَتٌ = کنویں کی گمراہی۔ میدان کی انتہا جس میں آدمی چھپ جائے۔ (اسم مشتق)

غَيْبٍ = چھپی چیز۔ چھپی بات۔ (اسم مصدر)
غَيْبَةٌ = کسی کی اس کے پیچھے بدی کرنا۔ (اسم مصدر)

غَيْثٌ = بارش۔ (اسم واحد) (جمع غیوث و اغیاث ہے)

غَيْرٌ = سوائے۔ مگر۔ نہیں۔ (اسم اشتہاء)

غَيْضٌ = سکھایا گیا۔ خشک کیا گیا۔ (ماضی مجہول- واحد مذکر غائب)

غَيْظٌ = غصہ۔ (اسم مصدر)

غُيُوبٌ = چھپی چیزیں۔ (اسم مصدر)

(ف)

ف-ا

فَائِزُونَ = مراد کو پہنچنے والے۔ (اسم فاعل- جمع مذکر)

فَاءٌ وَ = وہ پھرے۔ انہوں نے رجوع کیا۔ (ماضی- جمع مذکر غائب)

فَاتٌ = وہ ناپود ہو گیا۔ مر گیا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

فٌ = پھر۔ پس۔ (حرف عطف اور حرف جزاء ہے)

فَاءٌ تٌ = وہ پھر آئی۔ (ماضی- واحد مؤنث غائب)

فِئَةٌ = گروہ۔ جماعت۔ (اسم واحد) (تثنیہ فئتان ہے)

فِئْتَانٍ = دو گروہ۔ (اسم تثنیہ۔ بحالت رفعی) (واحد فئۃ ہے)

فِئْتَيْنِ = دو گروہ۔ (اسم تثنیہ کی نصی و جری حالت) (واحد فئۃ ہے)

فَاتِحِينَ = کھولنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

خَيْرُ الْفَاتِحِينَ = بہتر کھولنے والا۔ اللہ تعالیٰ (مرکب اضافی)

فَاتِنِينَ = جانچنے والے۔ گمراہ کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

فَاجِرٌ = بدکار۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

فَاحِشَةٌ = بدکار عورت۔ زنا۔ (اسم واحد) (جمع فواحش ہے)

فَازٌ = اس نے جوش مارا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

فَارِضٌ = بوزھی گئے۔ (اسم صفت)

فَارِعٌ = فراغت پانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

فَارِقَاتٌ = جدا کرنے والی ہوائیں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)

فَارِقُوا = تم جدا کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

فَارِهِينَ = تکلف کرنے والے۔ اکرنے

والے۔ خوش ہونے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

فَازٌ = وہ کامیاب ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

فَاسِقٌ = بدکار۔ نافرمان۔ (اسم واحد) (جمع فاسقون ہے)

فَاصِلٌ = جدا کرنے والا۔ (اسم واحد) (جمع فاصلین ہے)

خَيْرُ الْفَاصِلِينَ = اللہ تعالیٰ۔ (مرکب اضافی)

فَاطِرٌ = چیرنے والا۔ پھاڑنے والا۔ پیدا کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

فَاعِلٌ = کام کرنے والا۔ (اسم واحد) (جمع فاعلون ہے)

فَاقِرَةٌ = کمر توڑنے والا بڑا حادثہ۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

فَاقِعٌ = خالص زرد رنگ۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

فَآكِهَةٌ = میوہ۔ (اسم واحد) (جمع فواکہ ہے)

فَآكِهُونَ = خوش ہونے والے۔ (اسم جمع) (واحد فاکہۃ ہے)

فَالِقٌ = چیرنے والا۔ نکالنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

فَانٌ = فنا ہونے والا۔ ختم ہونے والا۔ (آخر سے "نی" گر گئی) (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

فَاهُ = اس کا منہ۔ (اس کا اصل فوہۃ تھی۔
 ”وہ“ ضمیر لگنے سے واؤ کو الف سے بدلا۔ ”وہ“
 اصلی گر گئی) (مرکب اضافی)

ف-ت

فَتَى = جوان۔ (اسم واحد) (جمع فتیان ہے)
 فَتَاخٌ = خوب کھولنے والا۔ حکم کرنے والا۔
 اللہ تعالیٰ کا نام۔ (اسم مبالغہ)
 فَتْحٌ = کھولنا۔ کھلنا۔ نصرت۔ فیصلہ۔ (اسم مصدر)
 فَتَحَ = اس نے کھولا۔ (ماضی۔ واحد مکرغائب)
 فَتَحَتْ = وہ کھولی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد
 مؤنث غائب)
 فَتَحْنَا = ہم نے کھولا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
 فَتَحُوا = انہوں نے کھولا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
 غائب)

فَتْرَةٌ = سستی۔ دو پیغمبروں کے درمیان کا
 زمانہ۔ (اسم واحد) (جمع فترات ہے)

فَفْتَقْنَا = ہم نے چیرا۔ ہم نے منہ کھولا۔
 (ماضی۔ جمع متکلم)

فَتْنَا = ہم نے آزمائش کی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

فَتْنَةٌ = آزمائش۔ (اسم واحد) (جمع فاتنین ہے)

فَتْنْتُمْ = تم نے آزمائش کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر
 حاضر)

فَتِنْتُمْ = تم آزمائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع
 مذکر حاضر)

فَتِنُوا = انہوں نے آزمائش کی۔ (ماضی۔ جمع
 مذکر غائب)

فَتِنُوا = وہ آزمائش کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔
 جمع مذکر غائب)

فُتُونٌ = آزمانا۔ (اسم مصدر)

فَتَيَاتٌ = لونیائیں۔ (اسم جمع) (واحد فتاة ہے)

فَتَيَانٌ = دو جوان مرد۔ (اسم تثنیہ) (واحد فتی
 اور جمع فَتَيَةٌ ہے)

فَتَيَانٌ = جوان۔ غلام۔ (اسم تثنیہ) (واحد فتی
 اور جمع فتیۃ ہے)

فَتِيَّةٌ = جوان۔ (اسم جمع) (واحد فتی ہے)

فَتِيلٌ = کھجور کی گٹھلی کا دھاگہ۔ (اسم واحد)
 (جمع فتایل ہے)

ف-ج

فَجَّحٌ = پہاڑوں کے درمیان کھلا راستہ۔ (اسم
 واحد) (جمع فجاج ہے)

فُجَّارٌ = بدکار۔ (اسم جمع) (واحد فاجور ہے)

فَجْرٌ = صبح صادق۔ گناہ کرنا۔ (اسم مصدر)

فَجْرَةٌ = بدکار۔ ڈھیٹھ۔ (اسم جمع) (واحد فاجور
 ہے)

ف-ر

فُرَات = بیٹھا پانی۔ ٹھنڈا پانی۔ (اسم صفت)
فُرَادَى = ایک ایک۔ (اسم واحد) (جمع فراد
ہے)

فَرَار = بھاگنا۔ (اسم مصدر)

فِرَاش = قالین۔ بچھونا۔ (اسم واحد) (جمع فرش
ہے)

فَرَّاش = پروانے۔ (اسم جمع) (واحد فراشة
ہے)

فَرَّاشَةٌ = پروانہ۔ (اسم واحد) (جمع فراش ہے)
فِرَاق = جدائی۔ (اسم مصدر)

(فَ) رَاغ = دوڑا۔ متوجہ ہوا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

فَرَّتْ = وہ بھاگی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

فَرْتٌ = گوہر۔ (اسم واحد) (جمع فروث ہے)

فَرَج = سوراخ شرمگاہ۔ (اسم جمع) (واحد
فروج ہے)

فُرَجَّتْ = وہ پھاڑی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مؤنث غائب)

فَرِحَ = خوش ہونے والا۔ اترانے والا۔ (اسم
فاعل۔ واحد مذکر)

فَرِحَ = وہ خوش ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

فُجِّرَتْ = وہ بہائی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مؤنث غائب)

فَجَّرْنَا = ہم نے پھاڑا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

فَجْوَةٌ = کشادہ میدان۔ (اسم واحد) (جمع
فجوات و فجاء ہے)

فُجُور = گستاخی۔ نافرمانی۔ بے ادبی۔ زنا کاری۔
نماز ترک کرنا۔ (اسم واحد) (جمع فجور ہے)

ف-ح

فَحْشَاء = بے حیائی۔ (اسم مشتق)

ف-خ

فَخَّارٌ = کھلکانے والا۔ (اسم واحد) (جمع
فخارة ہے)

فَخُور = ناز کرنے والا۔ فخر کرنے والا۔ (اسم
مبالغہ)

ف-د

فِدَاء = بدلہ۔ جدا کرنا۔ وہ رقم جو قیدی کو
آزاد کرنے کے بدلے لی جائے۔ (اسم مصدر)

فِدْيَةٌ = بدلہ۔ سر بہا۔ (اسم واحد) (جمع فدی و
فدیات ہے)

فَدَيْتَنَا = ہم نے بدلہ دیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

فَرِحُوا = وہ خوش ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

فَرِحُونَ = خوش ہونے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

فَرْدٌ = اکیلا۔ طاق۔ (اسم واحد) (جمع افراد ہے)

فِرْدَوْسٌ = جنت۔ جو سب سے اوپر ہے۔ (اسم واحد) (جمع فرادیس ہے)

فَرَزْتُ = میں بھاگا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

فَرَزْتُمْ = تم بھاگے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

فَرَشٌ = بچھونا۔ (اسم مصدر)

فَرَشْنَا = ہم نے بچھایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

فَرَضٌ = اس نے فرض کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

فَرَضْتُمْ = تم نے فرض کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

فَرَضْنَا = ہم نے فرض کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

فَرَطٌ = ظلم کرنا۔ حد سے گزرتا۔ (اسم مصدر)

فَرَطْتُ = میں نے قصور کیا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

فَرَطْتُمْ = تم نے قصور کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

فَرَطْنَا = ہم نے قصور کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

فَرَعٌ = ذالی۔ شاخ (اسم واحد) (جمع فروع ہے)

فِرْعَوْنَ = کافر بادشاہ مصر کا لقب۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا

تھا اس کا نام مصعب بن ریان تھا اور جو فرعون حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کا نام

ریان تھا ان دونوں کے درمیان چار سو برس کا فاصلہ تھا۔ (اسم علم)

فَرَعَتْ = تو فارغ ہوا۔ خالی ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

فَرَقٌ = جدا کرنا۔ پھاڑنا۔ (اسم مصدر)

فَرِقٌ = کٹوا۔ پھانک۔ (اسم مشتق)

فُرْقَانٌ = قرآن مجید۔ حق و باطل کو جدا کرنے والا۔ (اسم مصدر بمعنی اسم فاعل)

فِرْقَةٌ = گروہ۔ (اسم واحد) (جمع فرق ہے)

فَرَّقْتُ = تو نے جدائی ڈالی۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

فَرَقْنَا = ہم نے جدا کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

فَرَّقُوا = انہوں نے پرانہ کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

فَرَّوْا = تم بھاگو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

فُرُوجٌ = شرمگاہیں۔ اندام نہانی۔ سوراخ۔ (اسم جمع) (واحد فرج ہے)

فَرِيٌّ = جھوٹ۔ بتان۔ (اسم مشتق)

فَرِيضَةٌ = اللہ کا فرمایا ہوا۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔

زکاة وغیرہ۔ (اسم واحد) جمع فرائض ہے

فَرِيقٌ = جماعت۔ گروہ۔ (اسم واحد) جمع

افراق ہے

فَرِيقَانِ = دو گروہ۔ دو جماعتیں۔ (اسم تثنیہ

کی نسی و جری حالت) (واحد فریق ہے)

فَرِيقَيْنِ = دو جماعتیں۔ دو گروہ۔ (اسم تثنیہ)

(واحد فریق ہے)

ف-ز

فَزَعٌ = گھبراہٹ۔ ڈرنا۔ (اسم مصدر)

فَزَعٌ = وہ ڈرا۔ وہ گھبرایا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

فَزَعُوا = وہ گھبرائے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

فَزَعٌ = گھبراہٹ دور کی گئی۔ (ماضی مجہول۔

واحد مذکر غائب)

ف-س

فَسَادٌ = خرابی۔ تباہ ہونا۔ (اسم مصدر)

فَسَدَتْ = وہ خراب ہوئی۔ (ماضی۔ واحد

مونث غائب)

فَسَدَتَا = دونوں خراب ہوئیں۔ (ماضی۔ تثنیہ

مونث غائب)

فَسَقٌ = گناہ۔ نافرمانی۔ (اسم مصدر)

فَسَقَ = اس نے گناہ کیا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

فَسَقُوا = انہوں نے گناہ کیا۔ بدکاری کی۔

(ماضی۔ جمع مذکر غائب)

فَسْتَيْسِرُهُ = پھر ہم اس کو جلدی سے آسان

کریں گے۔ ہم تو یقین دیں گے۔ (مضارع۔ جمع

متکلم)

فُسُوقٌ = گناہ کرنا۔ (اسم مصدر)

ف-ش

فَشِلْتُمُ = تم ڈرے۔ تم نے نامردی کی۔

(ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

ف-ص

فِصَالٌ = دودھ چھڑانا۔ (اسم مصدر)

فَصَّلٌ = دو ٹوک۔ الگ۔ (اسم مصدر)

فَصَّلُ الْخِطَابِ = سچی بات۔ جو حق و باطل

میں جدائی کرے۔ (مركب اضافی)

يَوْمُ الْفَصْلِ = قیامت کا دن۔ (مركب اضافی)

فَصَّلَ = وہ جدا ہوا۔ باہر ہوا۔

(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

فَصَلَتْ = وہ جدا ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث

غائب)



فَطُورٌ = درز- سوراخ- (اسم واحد) (جمع فطور ہے)

ف-ظ

فَظٌّ = سخت دل- بد زبان- بہت سخت کلام- (اسم مصدر)

ف-ع

فَعَّالٌ = خوب کرنے والا- اللہ تعالیٰ کی صفت- (اسم مبالغہ)

فَعَّلَ = اس نے کیا- (ماضی- واحد مذکر غائب)

فُعِلَ = وہ کیا گیا- (ماضی مجہول- واحد مذکر غائب)

فَعَّلَهُ = کرنا- کام- (اسم مصدر)

فَعَّلْتُ = تو نے کیا- (ماضی- واحد مذکر حاضر)

فَعَّلْتُمْ = تم نے کیا- (ماضی- جمع مذکر حاضر)

فَعَّلْنِ = انہوں نے کیا- (ماضی- جمع مؤنث غائب)

فَعَّلْنَا = ہم نے کیا- (ماضی- جمع متکلم)

فَعَّلُوا = انہوں نے کیا- (ماضی- جمع مذکر غائب)

ف-ق

فَقْرٌ = تنگی- احتیاج- (اسم واحد) (جمع فقور ہے)

فُصِّلَتْ = وہ جدا کی گئی- (ماضی مجہول- واحد مؤنث غائب)

فُصِّلْنَا = ہم نے خوب بیان کیا- (ماضی- جمع متکلم)

فَصِيلَةٌ = گھرانہ- آباؤ اجداد کا گھر، جہاں ایک دادا کی اولاد ہو- (اسم مصدر)

ف-ض

فِضَّةٌ = چاندی- (اسم مشتق)

فَضَّلَ = بزرگی- بخشش- (اسم واحد) (جمع افضال ہے)

فُضِّلَ = اس نے بزرگی دی- (ماضی- واحد مذکر غائب)

فُضِّلْتُ = میں نے بزرگی دی- (ماضی- واحد متکلم)

فُضِّلْنَا = ہم نے بزرگی دی- (ماضی- جمع متکلم)

فُضِّلُوا = وہ بزرگی دیئے گئے- (ماضی مجہول- جمع مذکر غائب)

ف-ط

فَطَّرَ = اس نے بنایا- پیدا کیا- (ماضی- واحد مذکر غائب)

فِطْرَةٌ = پیدائش- دین اسلام- (اسم مصدر)

فَوَاقٍ = اٹھنا۔ مہلت۔ وہ حالت جو جان کنی کے وقت ہوتی ہے۔ بہت تھوڑا زمانہ۔ دو دفعہ دودھ دوسنے کے درمیان کا وقفہ۔ (اسم مصدر)
فَوَاقِئَةٌ = پھل۔ میوہ۔ (اسم جمع) (واحد فَوَاقِئَةٌ ہے)

فَوْتُ = نیست و نابود ہونا۔ بھگانا۔ بچنا۔ (اسم مصدر)

فَوَجَّ = لشکر۔ (اسم واحد) (جمع افواج ہے)

فَوْرٌ = جوش مارنا۔ جلدی۔ (اسم مصدر)

فَوْرٌ = نجات پانا۔ کامیاب ہونا۔ (اسم مصدر)

فَوْقٌ = اوپر۔ (اسم ظرف)

فُؤْمٌ = لسن۔ گیہوں۔ (اسم واحد) (جمع فومان ہے)

ف-ہ-ہ

فَهَّمْنَا = ہم نے سکھایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ف-ی-ی

فِيٌّ = میں۔ (حرف جر)

فَيْئٌ = پھر آنا۔ محمول۔ زوال آفتاب۔ سایہ۔

(اسم مصدر) (اسم واحد) (جمع اقباء ہے)

فَيْئِلٌ = ہاتھی۔ (اسم واحد) (جمع اقبال ہے)

فُقَرَاءٌ = ضرورت مند۔ درویش۔ محتاج۔ (اسم جمع) (واحد فَقِيرٌ ہے)

فَقِيرٌ = جاہتمند۔ درویش۔ محتاج۔ (اسم واحد) (جمع فقراء ہے)

ف-ک-ک

فَكَتَّ = چھڑوانا۔ جدا کرنا۔ (اسم مصدر)

فَكَزَّرَ = اس نے سوچا۔ تامل کیا۔ غور کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

فُكِّهِنَّ = ہنسنے والی باتیں۔ لطیفہ کہنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

ف-ل-ل

فَلَانٌ = شخص (اسم کنایہ)

فَلَقٌ = صبح۔ بعدم۔ دوزخ۔ دوزخ میں ایک کنواں ہے۔ (اسم واحد) (جمع فلقان ہے)

فُلُكٌ = کشتی۔ کشتیاں۔ (اس کا واحد۔ جمع۔ مذکر۔ مونث ایک ہی ہے)

فُلُكٌ = آسمان۔ (اسم واحد) (جمع افلاک ہے)

ف-و-و

فَوَاحِشٌ = ناشائستگی والی باتیں۔ زنا۔ بہت سخت۔ قبیح گناہ۔ (اسم جمع) (واحد فاحشة ہے)

فَوَادٌ = دل۔ (اسم واحد) (جمع افئدة ہے)

(ق)

ق-۱

قَابِلٌ = قبول کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر
قَاتَلَ = وہ لڑا۔ اس نے لڑائی کی۔ (ماضی۔
واحد مذکر غائب)

قَاتِلٌ = تو لڑائی کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)
قَاتِلًا = تم دونوں لڑائی کرو۔ (امر۔ تشبیہ مذکر
حاضر)

قَاتِلُوا = تم لڑائی کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
قَاتَلُوا = وہ لڑے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
قَادِرٌ = زبردست قدرت والا۔ (اسم واحد) (جمع
قَادِرُونَ و قَادِرِينَ ہے)

قَارِعَةٌ = کھڑ کھڑانے والی۔ قیامت۔ حادثہ۔
سختی۔ (اسم واحد) (جمع قَوَارِعُ ہے)

قَارُونَ = حضرت موسیٰ عليه السلام کا چچرا بھائی تھا۔
بے ادبی اور زکاۃ نہ دینے کے باعث حضرت
موسیٰ عليه السلام کی بدوعا سے مع مال زمین میں دھنس
گیا۔ (اسم علم)

قَاسِطُونَ = ظلم کرنے والے۔ ٹیڑھے چلنے
والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

قَاسَمٌ = اس نے قسم کھائی۔ (ماضی۔ واحد

ق = حروف مقطعات۔ قرآن مجید کی ایک
سورت کا نام۔

ق = تو بچا۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

قَائِلٌ = کہنے والا۔ دوپہر کو سونے والا۔ (اسم
فاعل۔ واحد مذکر)

قَائِلُونَ = کہنے والے۔ دوپہر کو سونے والے۔
(اسم فاعل۔ جمع مذکر)

قَائِمٌ = کھڑا ہونے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
قَائِمَةٌ = کھڑا ہونے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد
مؤنث)

قَائِمُونَ = کھڑا ہونے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع
مذکر)

قَابٌ = مقدار۔ کمان کے قبضہ سے گوشہ تک
کا درمیانی فاصلہ اور وہ دو ہوتی ہیں۔ (اسم
مشتق)

قَابٌ قَوْسَيْنِ = کنایہ ہے بہت قریب ہونے
کا۔ دو کمانوں کا درمیانی فرق۔ دو گز۔ (مركب
اضافی)

قَالَتْ = اس نے کہا۔ (ماضی- واحد مونث

غائب)

قَالَتَا = ان دو عورتوں نے کہا۔ (ماضی- تشنیہ

مونث غائب)

قَالُوا = انہوں نے کہا۔ (ماضی- جمع مذکر غائب)

قَالَيْنِ = بیزار ہونے والے۔ دشمنی کرنے

والے۔ (اسم فاعل- جمع مذکر)

قَامَ = وہ کھڑا ہوا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

قَامُوا = وہ کھڑے ہوئے۔ (ماضی- جمع مذکر

غائب)

قَانِتٌ = دعا کرنے والا۔ فرمانبرداری کرنے

والا۔ نماز میں چپ ہونے والا۔ (اسم فاعل- واحد

مذکر)

قَانِتَاتٌ = تابعدار عورتیں۔ (اسم فاعل- جمع

مونث)

قَانِتُونَ = تابعداری کرنے والے۔ (اسم فاعل-

جمع مذکر)

قَانِطِينَ = ناامید ہونے والے۔ (اسم فاعل-

جمع مذکر)

قَانِعٌ = قناعت کرنے والا۔ (اسم فاعل- واحد

مذکر)

قَاهِرٌ = غالب۔ (اسم واحد) (جمع قاہرون ہے)

مذکر غائب)

قَاسِيَةٌ = سیاہ۔ سخت دل ہونے والی۔ (اسم

فاعل- واحد مونث)

قَاصِدٌ = ارادہ کرنے والا۔ (اسم فاعل- واحد

مذکر)

قَاصِرَاتٌ = نیچی نگاہ والیاں۔ (اسم جمع) (واحد

قاصرة ہے)

قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ = حوریں کہ اپنے خاوند

کے سوا کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتیں۔

(مربک اضافی)

قَاصِفٌ = توڑنے والا۔ سخت آواز۔ گرج۔

نہایت شدید ہوا۔ (اسم فاعل- واحد مذکر)

قَاضٍ = حکم کرنے والا۔ (اسم فاعل- واحد

مذکر)

قَاضِيَهُ = کام تمام کرنے والی۔ (اسم فاعل-

واحد مونث)

قَاطِعَةٌ = کاٹنے والی۔ (اسم فاعل- واحد مونث)

قَاعٌ = برابر زمین۔ (اسم واحد) (جمع اقواع

ہے)

قَاعِدٌ = بیٹھنے والا۔ (اسم فاعل- واحد مذکر)

قَاعِدُونَ = بیٹھنے والے۔ (اسم فاعل- جمع مذکر)

قَالَ = اس نے کہا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

قَالَا = ان دونوں نے کہا۔ (ماضی- تشنیہ

مذکر غائب)

ق-ب

قَبَائِل - خاندان - قبیلے - گروہ - (اسم جمع) (واحد قبیلہ ہے)

قَبْر = گور - جس میں مردہ دفن کیا جاتا ہے - (اسم واحد) (جمع قبور ہے)

قَبْس = انگارہ - چنگارہ - (بصلہ علی مصدر)

قَبْض = کھینچنا - پکڑنا - (اسم مصدر)

قَبْضَة = ایک مٹھی - (اسم مصدر)

قَبْضْتُ = میں نے پکڑا - (ماضی - واحد متکلم)

قَبْضْنَا = ہم نے پکڑا - (ماضی - جمع متکلم)

قَبْل = پہلے - آگے - (اسم ظرف - زمان)

قُبْل = سامنے - (اسم واحد) (جمع اقبال ہے)

قِبَل = طرف - (اسم ظرف)

قِبْلَة = کعبہ - جس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے - (اسم نوع)

قُبُور = قبریں - (اسم جمع) (واحد قبر ہے)

قَبُول = مان لینا - لے لینا - (اسم مصدر)

قَبِيل = گروہ - ضامن - (اسم واحد) (جمع قبیل ہے)

ق - ت

قَتَالَ = باہم لڑائی کرتا - (اسم مصدر)

قَتْر = گردوغبار - سیاہی - (اسم جامد)

قَتْرَة = گردوغبار - تاریکی - سیاہی - (اسم جامد - مونث)

قَتَل = ہلاک کرتا - (اسم مصدر)

قَتَلَ = اس نے مار ڈالا - (ماضی - واحد مذکر غائب)

قَتِلَ = وہ مارا گیا - (ماضی مجہول - واحد مذکر غائب)

قَتَلِي = مقتول - مردے - مارے گئے - (اسم جمع)

(واحد قتیل ہے)

قَتِلْتُ = وہ ماری گئی - (ماضی مجہول - واحد مونث غائب)

قَتَلْتِ = تو نے مار ڈالا - (ماضی - واحد مذکر حاضر)

حاضر

قَتَلْتُمْ = تم نے مار ڈالا - (ماضی - جمع مذکر حاضر)

حاضر

قَتِلْتُمْ = تم مارے گئے - (ماضی مجہول - جمع مذکر حاضر)

مذکر حاضر

قَتَلْتُمُوا = تم نے مار ڈالا - (ماضی - جمع مذکر حاضر)

قَتَلْنَا = ہم نے مار ڈالا - (ماضی - جمع متکلم)

قَتِلْنَا = ہم مارے گئے - (ماضی مجہول - جمع متکلم)

متکلم

قَتَلُوا = انہوں نے مار ڈالا - (ماضی - جمع مذکر غائب)

غائب

قَتِلُوا = وہ مارے گئے - (ماضی مجہول - جمع مذکر غائب)

غائب

قَتَلُوا = وہ ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے - (ماضی)

بھول۔ جمع مذکر غائب)

قَدْرُوزٌ = بخیل۔ (اسم مصدر)

ق-ث

قِثَاءٌ = کلزی۔ (اسم مشتق)

ق-د

قَدٌّ = تحقیق۔ کبھی۔ (جب قد ماضی پر آتا ہے

تو ”تحقیق“ کے معنی دیتا ہے اور جب مضارع

پر آتا ہے تو ”کبھی“ کے معنی دیتا ہے)

قَدَّ = پھاڑا گیا۔ (ماضی بھول۔ واحد مذکر غائب)

قَدَّتْ = اس نے پھاڑا۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

قَدَحَ = رگڑ سے آگ جلاتا۔ (اسم مشتق)

قِدْدٌ = مختلف راہیں۔ جدا جدا مذہب۔ (اسم

جمع) (واحد قدرة ہے)

قَدَّرُ = اندازہ۔ جانچنا۔ (اسم مصدر)

قَدَّرٌ = مقررہ اندازہ۔ تقدیر۔ (اسم مصدر)

قَدَرَ = اس نے اندازہ کیا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

قُدِرَ = وہ تنگ کیا گیا۔ (ماضی بھول۔ واحد

مذکر غائب)

قَدَّرَ = اس نے مقرر کیا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

قَدَّرُ = تو اندازہ کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

قَدَّرْنَا = ہم قادر ہوئے۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

قَدَّرْنَا = ہم نے اندازہ کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

مذکر غائب)

قَدِّمُوا = تم آگے بھیجو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

قُدُّورٌ = دیکھیں۔ (اسم جمع) (واحد قدر ہے)

قُدُّوسٌ = بہت پاک۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔ (اسم

مبالغہ)

قَدِيرٌ = زبردست۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔ (اسم مبالغہ)

قَدِيمٌ = پرانا۔ (اسم مبالغہ)

قَدَرُوا = انہوں نے قدر کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

قَدَرُوا = انہوں نے اندازہ کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

قُدْسٌ = پاک روح۔ روح القدس حضرت

جبرائیل عليه السلام کا نام۔ (اسم مصدر)

قَدَمٌ = پاؤں۔ اچھے۔ برے عمل۔ (اسم واحد)

(جمع اقدام و قدوم ہے)

قَدَمٌ صِدْقٍ = نیکی پر سبقت کرنا۔ بلند مرتبہ

ہونا۔ (مرکب اضافی)

قَدَّمَ = اس نے آگے بھیجا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

قَدَّمْتُ = اس نے آگے بھیجا۔ (ماضی۔ واحد

مؤنث غائب)

قَرَاتِيْسُ = کاغذ- ورق- (اسم جمع) (واحد
قرطاس ہے)

قُرْآن = پڑھنا- جمع کرنا- کلام الہی جو رسول
اکرم ﷺ پر نازل ہوا- (اسم مصدر)

قَرْنًا = ہم نے پڑھا- (ماضی- جمع متکلم)

قَرَبَ = اس نے نزدیک کیا- (ماضی- واحد
مذکر غائب)

قَرَبْنَا = دونوں نے نزدیک کیا- (ماضی- تثنیہ
مذکر غائب)

قُرْبَى = نزدیکی- رشتہ دار- (اسم تفضیل- واحد
مؤنث)

ذَوَى الْقُرْبَى = رشتہ دار- (مركب اضافی)

قُرْبَاتٌ = نزدیکیاں- (اسم جمع) (واحد قریة
ہے)

قُرْبَةً = نزدیکی- خوشی- (اسم واحد) (جمع قربان
ہے)

قُرْبَان = قربانی- درجہ پائا- (اسم واحد) (جمع
قربانین ہے)

قُرْبَتَا = ہم نے قریب کیا- (ماضی- جمع متکلم)

قُرَّة = آنکھ کی ٹھنڈک- آنکھ کی روشنی- (اسم
مشتق)

قَرَحٌ = زخم- پھوڑا- (اسم واحد) (جمع قروح
ہے)

قِرْدَةٌ = بندر- (اسم واحد) (جمع قرد ہے)

قَدَّمْتُ = میں نے آگے بھیجا- (ماضی- واحد
متکلم)

قَدَّمْتُمْ = تم نے آگے بھیجا- (ماضی- جمع مذکر
حاضر)

قَدَّمْتُمُوْا = تم نے آگے بھیجا- (ماضی- جمع
مذکر حاضر)

قَدَّمْنَا = ہم نے آگے بھیجا- (ماضی- جمع متکلم)
قَدَّمُوا = انہوں نے آگے بھیجا- (ماضی- جمع

ق-ذ

قَذَفَ = اس نے پھینکا- (ماضی- واحد
مذکر غائب)

قَذَفْنَا = ہم نے پھینکا- (ماضی- جمع متکلم)

ق-ر

قُرَى = شہر- گاؤں- (اسم جمع) (واحد قریة ہے)
أُمُّ الْقُرَى = نام مکہ مکرمہ- (اسم مکان)

(مركب اضافی)

قَرَّءَ = اس نے پڑھا- (ماضی- واحد مذکر غائب)
قُرِيَ = وہ پڑھا گیا- (ماضی مجہول- واحد
مذکر غائب)

258

قَرَأْتُ = تو نے پڑھا- (ماضی- واحد مذکر حاضر)
قَرَأُوا = آرام- آرام کی جگہ- (اسم مکان)

قَرَضٌ = ادھار دینا۔ (اسم مصدر)

قِرْطَاسٌ = کاغذ۔ (اسم واحد) (جمع قِرَاطِيسُ ہے)

قَرَوْنٌ = تم آرام سے رہو۔ تم قرار پکڑو۔ تم وقار سے رہو۔ (امر۔ جمع مونث حاضر)

قَرَوْنٌ = سیٹگ۔ ہم نشینی۔ ایک زمانہ کے لوگ تیس یا اسی برس کا زمانہ۔ (اسم واحد) (جمع قَرَوْنِ ہے)

قُرُونَاءٌ = ہمزاد۔ ہم نشین۔ (اسم واحد) (جمع قرین ہے)

قَرَوْنَيْنِ = دو سیٹگ۔ دوسرے ذوالقرنین سکندر ردی بن فیلقوس جو حضرت خضر علیہ السلام کا مصاحب تھا وہ سکندر نہیں جو یونانی اور جس کا وزیر ارسطو تھا۔ (اسم علم)

قُرُوءٌ = طہر۔ حیض۔ (اسم جمع) (واحد قرء ہے)

قُرُونٌ = سیٹگ۔ زمانے۔ (اسم جمع) (واحد قرن ہے)

قَرِيٌّ = تو آنکھ روشن کر۔ ٹھنڈی کر۔ (امر واحد مونث حاضر)

قَرِيْبٌ = نزدیک۔ (اسم واحد) (جمع اقرباء ہے)

قَرِيْبَةٌ = گاؤں۔ شہر۔ (اسم واحد) (جمع قری ہے)

قَرِيْبَيْنِ = دو گاؤں۔ مکہ و طائف۔ (اسم

تثنیہ) (واحد قریۃ و قری ہے)

قُرَيْشٌ = عرب کا ایک قبیلہ۔ اولاد نضر بن کنانہ سے جو رسول اکرم ﷺ سے پہلے بارہویں پشت میں تھا۔ (اسم علم)

قَرِيْنٌ = ساتھی۔ ہم نشین۔ نامہ اعمال لکھنے والا فرشتہ۔ (اسم واحد) (جمع قرناء ہے)

ق-س

قَسَتْ = وہ سخت ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

قِسْطٌ = انصاف۔ عدل۔ (اسم واحد) (جمع اقساط ہے)

قِسْطَاسٌ = ترازو۔ میزان۔

قَسَمٌ = قسم قول۔ عمد۔ (اسم واحد) (جمع اقسام ہے)

قِسْمَةٌ = حصہ بانٹنا۔ (اسم واحد) (جمع قسم ہے)

فَقَسَمْنَا = ہم نے بانٹا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

قَسْوَةٌ = سگین۔ سختی۔ (اسم مصدر)

قَسْوَرَةٌ = شیر کا غرانہ۔ (اسم واحد) (جمع قساور ہے)

قَسِيْبِيْنٌ = نصاریٰ کے عالم و سردار۔ (اسم جمع) (واحد قسیس ہے)

ق-ص

قَضِيَ = اس نے بیان کیا۔ (ماضی- واحد
مذکر غائب)
قَصَّاصٌ = بدلے میں مارنا۔ (اسم مصدر)
قَصْدٌ = میانہ روی۔ اعتدال۔ (اسم مصدر)
قَصْرٌ = محل۔ (اسم واحد) (جمع قصور ہے)
قَصَصٌ = تدم بقدم چلنا۔ حال بیان کرنا۔
(اسم مصدر)
قَصَصْنَا = ہم نے بیان کیا۔ (ماضی- جمع
متکلم)
قَصَمْنَا = ہم نے توڑا۔ (ماضی- جمع متکلم)
قَصْوَى = انتہا۔ نہایت دور۔ (اسم تفضیل-
واحد مونث)
قَصُورٌ = محل۔ (اسم جمع) (واحد قصر ہے)
قَصِيٌّ = تو پیچھے چل۔ (امر- واحد مونث حاضر)
قَصِيٌّ = دور علیحدہ مکان۔ (اسم واحد) (جمع
اقصاء ہے)

ق-ط

قَطٌّ = حصہ۔ (اسم واحد) (جمع قطاط ہے)
قِطْرٌ = تانبا پگھلا ہوا۔ گندھک۔ (اسم شتن)
قِطْرَانٌ = سیاہ دوا۔ جو خارش اونٹوں کو ملتے
ہیں۔ (اسم شتن)
قِطْعٌ = ٹکڑا۔ بھلی رات کا اندھیرا۔ (اسم
واحد) (جمع اقطاع ہے)
قِطْعٌ = ٹکڑے۔ (اسم جمع) (واحد قطعہ ہے)
قُطِعَ = وہ کاٹا گیا۔ (ماضی مجہول- واحد
مذکر غائب)

ق-ض

قَضَى = اس نے حکم دیا۔ وہ مرا۔ (ماضی-
واحد مذکر غائب) لغوی معنی پورا کرنا۔
قَضْبٌ = ترکاری۔ شلغم۔ مولی۔ چقدر۔ (اسم
جمع) (واحد قضبة ہے)
قَضَوْا = انہوں نے پورا کیا۔ (ماضی- جمع
مذکر غائب)

قَطَعَ = اس نے کٹڑے کٹڑے کیا۔ (ماضی)
واحد مذکر غائب

قُضِعَتْ = وہ پھاڑی گئی۔ کالی گئی۔ (ماضی)
مہول۔ واحد مؤنث غائب

قَطَعْنُمُ = تم نے کٹا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
قَطَعْنَ = ان عورتوں نے کٹے۔ (ماضی۔ جمع مؤنث غائب)

قَطَعْنَا = ہم نے کٹا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
قَطَعْنَا = ہم نے خوب کٹا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

قِطْمِيرٌ = باریک دھاگہ۔ کھجور کی گٹھل کا
چھلکا۔ کم قیمت۔ گھٹیا چیز۔ (اسم مشتق)
قُطِرْفٌ = انگور کے گٹھے۔ (اسم جمع) واحد
قطف ہے

ق-ع

قَعَدَ = وہ بیٹھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

قَعَدُوا = وہ بیٹھے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
قَعُوا = تم گرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

قَعُودٌ = بیٹھنا۔ بیٹھنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع)
ذکر (اسم مصدر)

قَعِيدٌ = ہم نشین۔ بیٹھنے والا۔ گمرانی کرنے والا
فرشتہ (صفت مشبہ۔ واحد مذکر)

ق-ف

قَفُوا = تم ٹھہراؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

قَفِينَا = ہم نے پیچھے بھیجا۔ پے در پے بھیجا۔
(ماضی۔ جمع متکلم)

ق-ل

قُلٌ = تو کہہ۔ (محمد ﷺ) (امر۔ واحد مذکر حاضر)
قَلٌّ = وہ کم ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

قَلِيٌّ = اس نے دشمن رکھا۔ بیزار ہوا۔ (ماضی۔
واحد مذکر غائب)

قَلَائِدٌ = گلوبند۔ پٹہ وغیرہ (اسم جمع) واحد
قلادہ ہے

قَلْبٌ = دل۔ (اسم واحد) (جمع قلوب ہے)
قَلْبُوا = انہوں نے الٹا۔ انہوں نے الٹ پلٹ

کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
قَلْبَيْنٌ = دو دل۔ (اسم تشبیہ کی نمسی و جری

حالت) (واحد قلب اور جمع قلوب ہے)
قُلْتُ = تو نے کہا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

قُلْتُ = میں نے کہا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)
قُلْتُمْ = تم نے کہا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

قَلَمٌ = قلم۔ (اللہ رب العزت کا قلم جس سے
جمع مخلوق کی تقدیریں لوح محفوظ پر لکھی گئیں۔

اسم واحد۔ جمع اقلام ہے)
قَلْنٌ = ان سب عورتوں نے کہا۔ (ماضی۔ جمع
مؤنث غائب)

قُلْنَا = ہم نے کہا۔ (ماضی جمع متکلم)

قُلُوبٌ = دل۔ (اسم جمع) (واحد قلب ہے)

قَلِيلٌ = کم۔ تھوڑا۔ (اسم واحد) (جمع قلیلون ہے)

قَلِيلًا مَّا = تھوڑا۔ ما زائد ہے (اسم واحد) (جمع قلیلون ہے)

قَلِيلَةٌ = تھوڑی سی چیز۔ (اسم واحد) (جمع قلیلات و قلائل ہے)

ق-م

قَمٌ = تو کھڑا ہو۔ اٹھ۔ (امر واحد مذکر حاضر)

قُمْتُمْ = تم کھڑے ہوئے۔ (ماضی جمع مذکر حاضر)

قَمْرٌ = چاند۔ (اسم واحد) (جمع اقمار ہے)

قَمَطْرِيٌّ = سختی۔ سخت۔ (اسم مشتق)

قُمَّلٌ = ٹڈیاں۔ (اسم جمع) (واحد قملة ہے)

قَمِيصٌ = کرتا۔ قمیص۔ (اسم واحد) (جمع قمصان و اقمصة ہے)

ق-ن

قَنَاطِيرٌ = توڑے۔ گائے کے چڑے سونے سے بھرے ہوئے۔ (اسم جمع) (واحد قنطار ہے)

قِنَاطَرٌ = توڑہ۔ گائے کا چڑا۔ ہزار دینار سے بھرا۔ ایک سو بیس رطل سونا چاندی۔ (اسم واحد)

(جمع قناطر ہے)

قَنَطُوا = وہ ناامید ہوئے۔ (ماضی جمع)

(مذکر غائب)

قِنْوَانٌ = تازہ خوشے۔ (اسم جمع) (واحد قنوة ہے)

(ہے)

قَنُوطٌ = ناامید۔ (اسم صفت)

ق-و

قَوًّا = تم بچاؤ۔ (امر جمع مذکر حاضر)

قَوِيٌّ = زور۔ قوتیں۔ (اسم جمع) (واحد قوۃ ہے)

(ہے)

قَوَارِيرٌ = شیشے۔ (اسم جمع) (واحد قارورة ہے)

قَوَاعِدٌ = گھر میں بیٹھنے والیاں۔ عمارت کی بنیادیں۔ (اسم جمع) (واحد قاعده ہے)

قَوَّامٌ = میانہ۔ سچائی۔ سیدھا۔ (اسم واحد) (جمع قوامون ہے)

قَوَّامُونَ = امیر۔ محافظ۔ منتظم۔ سیدھے کھڑے ہونے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

قُوَّةٌ = زور۔ طاقت۔ (اسم واحد) (جمع قوی ہے)

(ہے)

قُوْتِلْتُمْ = تم مارے گئے۔ لڑائی کے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر حاضر)

قُوْتِلُوا = وہ مارے گئے۔ لڑائی کے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)

صفت- (اسم مبالغہ)

ق-ی

قیام = اٹھنا۔ کھڑے ہونا۔ (اسم مصدر)

قیامۃ = قیامت۔ پچھلا دن۔ آخرت کا اٹھنا۔
(اسم مصدر)قیصصنا = ہم نے مقرر کیا۔ لگا دیا۔ (ماضی۔ جمع
متکلم)قیعة = میدان۔ جہاں گھاس نہ اگے۔ (اسم
مکان)

قیل = کہا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

وقیلہ = اس کے کہنے (بات) کی قسم۔ (اسم
مشتق) (مرکب اضافی)قیم = قائم رکھنے والا۔ نگاہ رکھنے والا۔
درست۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

قیم = سیدھا۔ صحیح۔ (اسم مشتق)

قیمہ = سچی۔ مضبوط۔ درست۔ (اسم صفت)

قیوم = تھانے والا۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔

قوس = کمان۔ (اسم واحد) (جمع اقواس ہے)

قوسین = دو کمان۔ (اسم تثنیہ۔ بحالت نصی

و جری) (واحد قوس اور جمع اقواس ہے)

قَاب قَوْسین = مقدار دو کمان۔ (فاصلہ) دو
گز۔ (مرکب اضافی)

قول = بات کہنا۔ (اسم واحد) (جمع اقوال ہے)

قولاً = تم دونوں کو۔ (امر۔ تثنیہ مذکر حاضر)

قولوا = تم کو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

قولی = تو کہہ۔ (ماضی۔ واحد مونث حاضر)

قوم = برادری۔ گروہ۔ (اسم واحد) (جمع اقوام
ہے)قوموا = تم کھڑے ہو جاؤ۔ (امر۔ جمع مذکر
حاضر)

قوی = زبردست۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔ (اسم مبالغہ)

ق-ہ

قہار = دباؤ والا۔ زبردست۔ اللہ تعالیٰ کی

(ک)

ك = تجھ کو۔ تیرا۔ (ضمیر منسوب متصل مجرور
مذکر)ك = تجھ کو۔ تیری۔ (ضمیر منسوب یا مجرور
مونث)

ک-ا

ک = ش۔ مانند۔ (حرف جار)


کَاتِبٌ = لکھنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
 کَاتِبُونَ = تم لکھو۔ مال لے کر آزاد کرو۔
 (امر۔ جمع مذکر حاضر)
 کَاتِبُونَ = لکھنے والے۔ (بحالت رفعی۔ اسم فاعل۔ جمع مذکر)
 کَاتِبِينَ = لکھنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)
 کَادٌ = وہ قریب ہے۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 کَادَتْ = وہ قریب ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)
 کَادِحٌ = کوشش کرنے والا۔ محنت کرنے والا۔
 مراد کو پہنچنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
 (مَا) کَادُوا = وہ نزدیک نہ تھے۔ وہ قریب نہ ہوتے تھے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
 کَاذِبٌ = جھوٹا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
 کَاذِبَةٌ = جھوٹی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
 کَاذِبُونَ = جھوٹے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
 کَارِهُونَ = بیزار ہونے والے۔ (اسم جمع۔ واحد کارہ ہے)
 کَأْسٌ = پیالہ شرب سے بھرا ہوا۔ (اسم واحد) (جمع کُؤُوسٌ ہے)
 کَاشِفٌ = کھولنے والا۔ ظاہر کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

کَاشِفَةٌ = کھولنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
 کَاشِفُونَ = کھولنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع)
 مذکر۔ آخر سے ”نون“ اضافت کی وجہ سے گر گیا)
 کَاطِمِينَ = غصہ پی جانے والے۔ (اسم جمع۔ بحالت نصی و جری) (واحد کاظم ہے)
 کَافٍ = کفایت ہونے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
 کَافَّةٌ = سب۔ مکمل۔ تمام۔ سارے کے سارے۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
 کَافِرٌ = بے ایمان۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر۔ مومن کی ضد) (جمع کفار ہے)
 کَافِرَةٌ = منکر ہونے والی۔ (اسم فاعل) (جمع کوافر ہے)
 کَافِرُونَ = منکر۔ بے ایمان۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
 کَافُورٌ = ایک دوا ہے جو خوشبودار۔ مفرح اور مقوی دل ہے۔ جنت کا ایک چشمہ۔ (اسم مکان) (اسم واحد) (جمع کوافیر و کوافر ہے)
 کَالِحُونَ = بد شکل۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
 کَالُوا = انہوں نے ٹاپ دیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
 کَامِلَةٌ = پوری۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)



کُبَّار = بہت بڑا۔ (اسم مبالغہ)
 کُبَيْت = وہ اوندھا کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد
 مذکر غائب)
 کُبَيْتٌ = وہ اوندھی کی گئی۔ (ماضی مجہول۔
 واحد مؤنث غائب)
 کُبَيْتُوا = وہ اوندھے کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔
 جمع مذکر غائب)
 کَبِدٌ = عنت۔ رنج۔ (اسم مشتق)
 کَبِيرٌ = بڑائی۔ (اسم مشتق)
 کَبِيرٌ = بڑھاپا۔ (اسم مشتق)
 کُبْرِيٌّ = بہت بڑی چیز۔ (اسم تفضیل۔ واحد
 مؤنث)
 کَبِيرٌ = وہ بزرگ ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 کَبِيرٌ = تو بزرگی بیان کر۔ بڑائی بیان کر۔ (امر۔
 واحد مذکر حاضر)
 کُبْرِيٌّ = بڑی چیز۔ (اسم واحد) (جمع کبیر و
 کبریات ہے)
 کُبْرَاءٌ = بزرگ۔ بڑے۔ (اسم واحد) (جمع
 کبیر ہے)
 کَبِيرٌ = وہ بزرگ ہوئی۔ (ماضی۔ واحد
 مؤنث غائب)
 کَبِيرِيَّاءُ = بزرگی۔ بڑائی۔ عظمت۔ (اسم مصدر)
 کُبْكِبُوا = وہ اوندھے کئے گئے۔ (ماضی
 مجہول۔ جمع مذکر غائب)

کَامِلَيْنِ = دو پورے۔ (اسم تثنیہ) (واحد
 کامل اور جمع کاملون ہے)
 كَانَّ = گویا کہ۔ (حرف مشبہ بالفعل۔ حرف
 تشبیہ اس میں "ما" کاذب ہے۔ كَانَّ کا عمل افعال
 ناقصہ کے خلاف ہے)
 كَانَمًا = گویا کہ (مرکب منع صرف) (ما زائد
 ہے)
 كَانَّ = وہ تھا۔ وہ ہے۔ (ماضی۔ واحد
 مذکر غائب)
 كَانَا = وہ دونوں تھے۔ (ماضی۔ تشبیہ مذکر غائب)
 كَانَتْ = وہ تھی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)
 كَانَا = وہ دونوں تھیں۔ (ماضی۔ تشبیہ مؤنث
 غائب)
 كَانُوا = وہ تھے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
 كَانَّ = سے کُنَّا تک افعال ناقصہ ہیں۔
 (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 كَاهِنٌ = فال نکالنے والا۔ (اسم واحد) (جمع
 کہنے ہے)
 كَاتِبٌ = بہت۔ کتنی۔ ک حرف تشبیہ ہے
 (اسم عدد) سوال کے لئے۔



کَبَائِرٌ = بڑے گناہ۔ (اسم جمع) (واحد کبیرة
 ہے)

ک-ت

کَتُوْر = اس نے بت کیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

کَتُوْر = اس نے بت کیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

کَتُوْرَة = بہتات۔ بت ہونا۔ (اسم مصدر)
کَتُوْرْت = وہ بت ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث
غائب)

کَتِيْب = ریت کا ٹیلا۔ (اسم واحد) (جمع
کتاب ہے)

کَثِيْر = بت۔ (اسم واحد) (جمع کثیرون ہے)
کَثِيْرَة = بت چیزیں۔ (اسم واحد) (جمع
کثیرات ہے)

ک-د

کِدْت = تو نزدیک تھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر
حاضر)

کَدَح = پہنچنا۔ رنج اٹھانا۔ عمل میں۔ مشقت
اٹھانا۔ (اسم مصدر)

کِدْنَا = ہم نے داؤ دکھایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ک-ذ

کَذَاب = بڑا جھوٹا۔ (اسم مبالغہ)

کَبِيْر = بزرگ۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔ (اسم واحد)
(جمع کبراء ہے)

کَبِيْرَة = بڑی۔ بڑا گناہ۔ (اسم واحد) (جمع
کبار و کبیرا ہے)

ک-ت

کِتَاب = لکھنا۔ لکھا ہوا۔ خط۔ (اسم واحد) (جمع
کتاب ہے)

اُمُّ الْکِتَاب = سورہ فاتحہ اور لوح محفوظ۔
(مرکب اضافی)

کِتَابِيْه = میرا لکھا۔ میرا اعلان نامہ۔

کُتُب = کتابیں۔ (اسم جمع) (واحد کتاب ہے)

کَتَب = اس نے لکھا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

کَتَب = وہ لکھا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مذکر غائب)

کَتَبْت = اس نے لکھا۔ فرض کیا۔ (ماضی۔
واحد مؤنث غائب)

کَتَبْت = تو نے لکھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

کَتَبْنَا = ہم نے لکھا۔ فرض کیا۔ (ماضی۔ جمع
متکلم)

کَتَم = اس نے چھپایا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

مذکر غائب

كِدَابٌ = جھٹلانا۔ انکار کرنا۔ (اسم مصدر)

كَذِبَكَ = اسی طرح۔ (ک تشبہ کا اور
ذالک اسم اشارہ واحد کے لئے)كَذِبِكُمْ = اسی طرح۔ (ک تشبہ کا اور
ذالکم اسم اشارہ جمع کے لئے۔)

كَذِبٌ = جھوٹ کہنا۔ جھوٹ۔ (اسم مصدر)

كَذَبَ = اس نے جھوٹ کہا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)كَذَبَ = اس نے جھٹلایا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)كَذَبْتُ = وہ جھوٹ بولی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث
غائب)كَذَبْتُ = اس نے جھٹلایا۔ (ماضی۔ واحد
مؤنث غائب)كَذَبْتُمْ = تم نے جھٹلایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
حاضر)

كَذَبْنَا = ہم نے جھٹلایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

كَذَبُوا = انہوں نے جھوٹ کہا۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)كَذَبُوا = وہ جھٹلائے گئے۔ ان سے جھوٹ
بولایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)كَذَبُوا = انہوں نے جھٹلایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

كَذَبُوا = وہ جھٹلائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع

ک-ر

كِرَامٌ = بزرگ۔ سردار۔ (اسم جمع) (واحد
کریم ہے)كِرَامًا كَاتِبِينَ = دو فرشتے ہیں جو ہر شخص
کی نیکی بدی روزانہ لکھتے ہیں۔ (مرکب توصیفی)
(واحد کریم اور جمع کرام ہے)كَرْبٌ = غم۔ تکلیف۔ گھبراہٹ۔ (اسم واحد)
(جمع کروہ ہے)

كَرَّةٌ = ایک بار پھر آنا۔ (اسم مشتق)

كَرَّتَيْنِ = دوبار۔ (اسم تثنیہ) (واحد كورة ہے)

كَرْبَسِيٌّ = چوکی۔ (اسم جامد)

كَرْمَتٌ = تو نے بزرگی دی۔ (ماضی۔ واحد
مذکر حاضر)

كَرْمْنَا = ہم نے بڑائی دی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

كَرَّةٌ = ناخوشی۔ ناگوار۔ تکلیف۔ (اسم مصدر)

كَرَّةٌ = زبردستی۔ رنج۔ سختی۔ (اسم مصدر)

كَرَّةٌ = اس نے برا جانا۔ ناپسند کیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)كَرَّةٌ = اس نے نفرت ڈالی۔ (ماضی۔ واحد مذکر
غائب)كَرِهْتُمُوْا = تم نے مجبور کیا۔ (ماضی۔ جمع
مذکر حاضر)

کَرِهُوا = وہ برا سمجھے۔ انہوں نے ناپسند کیا۔

(ماضی۔ جمع مذکر غائب)

کَرِيمٌ = بزرگ۔ بخشنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔

(اسم مبالغہ)

ک-ش

كَشِطْتُ = وہ چھلکا اتاری گئی۔ کھال کھینچی

گئی۔ پردہ اٹھایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مونث

غائب)

كَشَفٌ = کھولنا۔ (اسم مصدر)

كَشَفٌ = اس نے کھولا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

كَشَفْتُ = اس نے کھولا۔ (ماضی۔ واحد

مونث غائب)

كَشَفْتُ = تو نے کھولا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

حاضر)

كَشَفْنَا = ہم نے کھولا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ک-ظ

كَظِيمٌ = دل رنج ہونے والا۔ تکدل۔ غصہ

پی جانے والا۔ (اسم صفت) (اسم فاعل۔ واحد

مذکر)

ک-ع

كَعْبَةٌ = بیت اللہ۔ چار گوشہ گھر۔ (اسم۔

نظر مکان۔ اسم علم)

ک-س

كَسَادٌ = خسارہ۔ بگڑنا۔ خراب ہونا۔ (اسم

مصدر)

كَسَالِيٌّ = پوستی۔ ست۔ (اسم جمع) (واحد

کسل ہے)

كَسَبٌ = اس نے کمایا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

كَسَبَا = ان دونوں نے کمایا۔ (ماضی۔ تثنیہ

مذکر غائب)

كَسَبْتُ = اس نے کمایا۔ (ماضی۔ واحد مونث

غائب)

كَسَبْتُمْ = تم نے کمایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

كَسَبُوا = انہوں نے کمایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

كَسْفٌ = کھڑے۔ (اسم جمع) (واحد کسف

ہے)

كَسْوَةٌ = کپڑا۔ پوشاک۔ لباس۔ (اسم واحد)



كَفَرْتُ = وہ منکر ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

كَفَرْتُمْ = تم منکر ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

كَفَرْنَا = ہم نے دور کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

كَفَرُوا = وہ منکر ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

كَفَفْتُ = میں نے روکا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

كَفَلٌ = حصہ۔ حق۔ (اسم واحد) (جمع اکفال ہے)

ذُو الْكِفْلِ = ایک پیغمبر کا نام ہے۔ (اسم علم)

كَفَّلَ = اس نے سونپا۔ وہ ضامن ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

كَفَلَيْنِ = دو حصے۔ (اسم تثنیہ۔ بحالت نصی و جری) (واحد کفل اور جمع اکفال ہے)

كُفُوٌ = شریک۔ برابر۔ مثل۔ (اسم مشتق)

كُفُوا = تم روکو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

كُفُورٌ = ناشکری کرنا۔ (اسم مصدر)


كُفُورٌ = بڑا ناشکرا۔ ناشکری کرنے والا۔ (مبالغہ۔ واحد مذکر)

كُفِّيٌّ = دو ہتھیلیاں۔ (اسم تثنیہ) (واحد کف)

اور جمع کفوف ہے۔ ”نون“ گرا ہوا ہے منصوب یا مجرد ہونے کی وجہ سے۔

كَفِيلٌ = ضامن۔ (اسم واحد) (جمع کفلا ہے)

كَعْبَيْنِ = دو تختے۔ (اسم تثنیہ) (واحد کعب ہے)



كَفَّ = اس نے باز رکھا۔ روک رکھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

كَفٌّ = پیچہ۔ ہتھیلی۔ (اسم واحد) (جمع کفوف ہے)

كَفَى = وہ کافی ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

كَفَاتٌ = جمع کرنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

كَفَّارٌ = ناشکرا۔ (اسم مبالغہ)

كُفَّارٌ = منکر۔ (اسم جمع) (واحد کافر ہے)

كَفَّارَةٌ = پاک کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

كُفِّرَ = انکار۔ ایمان نہ لانا۔ (اسم مصدر)

كَفَّرَ = وہ منکر ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

كُفِّرَ = وہ منع کیا گیا۔ انکار کیا گیا۔ (ماضی۔ مجہول۔ واحد مذکر غائب)

كُفِّرَ = تو دور کر۔ اتار۔ ڈھانپ۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

كُفِّرَانٌ = ناشکری۔ ایمان نہ لانا۔ (اسم مصدر)

كَفَّرَةٌ = منکر۔ کافر۔ (اسم جمع) (واحد کافر ہے)

کَفَيْتَنَا = ہم کافی ہیں۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ک-ل

کَلٌّ = بوجھ۔ گرانی۔ (اسم مصدر)

کُلٌّ = ہر چیز۔ سب۔ (اسم تاکید)

کِلَا = دو مرد۔ (اسم تثنیہ) مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

کَلًّا = ہر گز نہیں۔ (حرف تنبیہ اور زجر۔ حرف ردع)

کَلَّا = تم دونوں کھاؤ۔ (امر۔ تثنیہ مذکر حاضر)
کَلَالَةٌ = وہ جو مرنے کے بعد اپنے پسماندگان میں سے نہ ماں باپ اور نہ اولاد چھوڑے۔

کَلَام = بات کرنا۔ (اسم مشتق و اسم مصدر)

کَلْب = کتا۔ (اسم واحد) جمع کلاب ہے

کِلْتَا = دو عورتیں۔ (اسم تثنیہ)

کِلْتُم = تم نے ٹاپا۔ ٹولا۔ وزن کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

کَلِم = باتیں۔ (اسم جمع) (واحد کلمۃ ہے)

کَلَّم = اس نے بات کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

کَلَّم = وہ بات کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد مذکر غائب)

کَلَّمَا = جب بھی۔ جس بار بھی۔ (شرطیہ)

کَلِمَات = باتیں۔ (اسم جمع) (واحد کلمۃ ہے)

کَلِمَةٌ = بات۔ (اسم واحد) (جمع کلمات ہے)

کُلُّوا = تم کھاؤ۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

کُلِّی = تو کھا۔ (امر۔ واحد مونث حاضر)

ک-م

کَمَّ = کتنے۔ (اسم استفہامیہ۔ خبریہ۔ اس کی تیز منصوب ہوتی ہے)

کُم = تمہارا۔ تم کو۔ تمہیں۔ (اسم ضمیر منصوب متصل۔ جمع مذکر حاضر)

کُمَا = تمہارا۔ دونوں۔ (ضمیر منصوب مجرور متصل۔ تثنیہ مذکر)

ک-ن

کُنُّ = تو ہو۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

کِنٌّ = پردہ۔ پناہ کی جگہ۔ (اسم واحد) (جمع اکنان ہے)

کُنَّ = وہ سب عورتیں ہیں / تمہیں۔ (فعل ناقص۔ جمع مونث غائب)

کُنَّ = تم سب کو۔ (عورتوں کی ضمیر منصوب متصل مجرور۔ جمع مونث حاضر)

کُنَّا = ہم تھے۔ ہم ہیں۔ (ناقص۔ جمع متکلم)

کُنْتِ = تو تھی۔ (ماضی۔ واحد مونث حاضر)

کُنْتُ = تو ہے۔ (ماضی- واحد مذکر حاضر)
 کُنْتُمْ = میں ہوں۔ (ماضی- واحد متکلم)
 کُنْتُمْ = تم ہو۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)
 کُنْتُمْ = ہو تم۔ تم تھیں۔ (ماضی- جمع مؤنث حاضر)

کَنْز = خزانہ۔ (اسم واحد) (جمع کنوز ہے)
 کَنْزْتُمْ = تم نے گاڑا۔ خزانہ کیا۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)

کُنُسْ = ویک جانے والے۔ غائب ہو جانے والے۔ تمام سیارے یعنی چاند۔ زحل۔ مشتری۔ زہرہ۔ عطارد۔ جو مشرق سے مغرب کو سیدھے جاتے ہیں پھر پیچھے پھرتے ہیں۔ (اسم فاعل- جمع مذکر)

کَنْوَد = ناشکرا۔ (اسم مبالغہ)
 کَنْوَز = خزانے۔ (اسم جمع) (واحد کنز ہے)

کَوْثَر = بہت نیکی کرنے والا۔ جنت کی نهر جس کا پانی دودھ سے سفید شد سے بیٹھا ایک حوض میں بھرا ہے اس حوض میں سونے چاندی کے آنخورے آسمان کے تاروں جتنے تیرتے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بروز قیامت کھڑے ہو کر اس حوض سے پانی امت کو پلائیں گے جو کوئی ایک بار پئے گا کبھی پیاسا نہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نصیب کرے۔ آمین (اسم مشتق و اسم مبالغہ)

کَوْزَتْ = وہ تہہ کی گئی۔ لیٹی گئی۔ (ماضی مجہول- واحد مؤنث غائب)

کَوْزٌ = ہونا۔ موجود ہونا۔ (اسم مصدر)
 کَوْزُوا = تم ہو جاؤ۔ (امر- جمع مذکر حاضر)
 کَوْزِي = تو ہو۔ (ایک عورت) (امر- واحد مؤنث حاضر)

ک-و

ک-و

کَوَاعِب = عورتیں۔ نوجوان کنواری۔ جن کی چھاتیاں اتار کی طرح اونچی ہوں۔ (اسم جمع) (واحد کاعب ہے)

کَوَافِر = بے ایمان کافر عورتیں۔ (اسم جمع) (واحد کافرہ ہے)

کَوَاكِب = تارے۔ (اسم جمع) (واحد کوکب ہے)

کَهْف = غار۔ (اسم مشتق)
 أَصْحَابُ الْكَهْفِ = غار والے۔ (مربک اضافی)

کَهْل = پوری عمر ستائیس سے پچاس برس تک کا مرد کھل کہلاتا ہے۔ (اسم واحد) (جمع کھول ہے)

کھینچنا - حروف مقطعات۔

ک-ی

کئی = تاکہ۔ (حرف نامب ہے۔ مضارع پر داخل ہوتا ہے)

کینڈا = فریب۔ مکر۔ (اسم مصدر)

کینڈوا = تم فریب کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

کینل = ناپ۔ پیمانہ۔ (اسم مصدر)

کینف = کس طرح۔ کیونکر۔ کیا۔ (حرف استفہام)



(ل)

ل-ا

لات = ایک بت کا نام۔ زمانہ جاہلیت میں بنو ثقیف طائف میں ایک بزرگ تھے جن کی لوگ پرستش کرنے لگے۔

لازب = لازم۔ چکنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

لاعیین = کھیننے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر واحد لاعب ہے)

لاعنون = لعنت کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر واحد لاعن ہے)

لاعیة = بیوہ بات۔ (اسم مشتق)

لاقی = ملاقات کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

لکین = لیکن۔ پر۔ مگر۔ (حرف استدراک۔ حرف شبہ بالفعل)

لکین = مگر۔ لیکن۔ پر۔ (حرف شبہ بالفعل۔

ل = لئے۔ واسطے۔ قسم۔ تاکہ۔ (حرف جر)

ل = البتہ۔ بے شک۔ (حرف تاکید)

لا = نہ۔ نہیں۔ (حرف نفی ہے)

لا أقسم = قسم کھاتا ہوں۔ (ماضی۔ واحد متکلم) (لا تاکید قسم کے لئے زائد ہے)

لائم = ملامت کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

لائج = عورتیں۔ (اسم موصول۔ اسم جمع۔ واحد الئی ہے)

لا یبین = رہنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

لات = نہیں تھا۔ اس میں "ت" زیادہ ہے انخش کے نزدیک یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اس میں ضمیر فاعل مستتر ہے

لَبِئْسُمْ = تم نے دیر کی۔ تم رہے۔ (ماضی۔ جمع
مذکر حاضر)

لَبِئْسْنَا = ہم رہے۔ ہم نے دیر کی۔ (ماضی۔ جمع
متکلم)

لَبِئْسُوا = وہ رہے۔ انہوں نے دیر کی۔ (ماضی۔
جمع مذکر غائب)

لَبِيدٌ = انبوہ۔ گردہ در گردہ۔ نمدہ لپٹے ہوئے۔

لَبِيدًا = بہت مال۔ ڈھیر۔ (اسم صفت)

لَبَسٌ = شیبہ۔ دھوکے کا کام۔ (اسم مصدر)

لَبَسْنَا = ہم نے چھپایا۔ ہم نے شیبہ کیا۔
(ماضی۔ جمع متکلم)

لَبَنٌ = دودھ۔ (اسم مصدر)

لَبُوسٌ = زرہ۔ پوشش۔ (اسم جمع) (واحد لباس ہے)

ل-ج

لُجَّةٌ = پانی۔ دریا کا دھارا۔ (اسم واحد) (جمع)

لُجَجٌ و لُجَاجٌ ہے

لَجَّوْا = وہ اڑ رہے۔ لڑے۔ نافرمانی کی۔
(ماضی۔ جمع مذکر غائب)

لُجِّيٌّ = گمرا دریا۔ پانی سے بھرا ہوا۔ (اسم
منسوب)

ل-ح

لَحْمٌ = گوشت۔ (اسم واحد۔ جمع لحوم ہے)

استدراک کے لئے۔ (ناصب الاسم)

لُكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي = لیکن میں کتا ہوں

میرا رب تو وہی اللہ ہے۔ (محل شاہد) لکنا حرف
شبہ بالفعل۔ استدراک کے لئے) لکنا کی اصل
لُكِنَ اَنَا تھی الف دور کر کے ”نون“ کو ”نون“
میں ادغام کر دیا۔

لَمَسْتُمْ = تم نے جماع کیا۔ تم نے چھوا۔

(ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

لُوْلُوْا = موتی۔ (اسم واحد۔ جمع لآلئ لؤلؤی
ہے)

لَاهِيَةٌ = غائل۔ کھیلنے والی۔ مشغول ہونے
والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

ل-ب

لِبَاسٌ = پوشاک۔ پہننے کی چیز۔ (اسم واحد)
(جمع لبوس ہے)

لِبَاسُ التَّقْوَى = ایمان۔ باطنی لباس۔ شرم۔
(مركب اضافی)

لَبِثٌ = وہ رہا۔ وہ ٹھہرا۔ اس نے دیر کی۔
(ماضی۔ واحد مذکر غائب)

لَبِثَتْ = تو رہا۔ تو نے دیر کی۔ (ماضی۔ واحد
مذکر حاضر)

لَبِثْتُ = میں رہا۔ میں نے دیر کی۔ (ماضی۔
واحد متکلم)

لِسَانٌ صِدْقٌ = سچی تعریف (مركب اضافی)
لَسْتُ = تو نہیں ہے۔ (ماضی۔ واحد مذکر

حاضر۔ فعل ناقص)

لَسْتُمْ = تم نہیں ہو۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر۔
فعل ناقص)

لَسْتُنَّ = تم نہیں ہو۔ (ماضی۔ جمع مؤنث
حاضر۔ فعل ناقص)

ل-ط

لُطْفٌ = مہربانی کرنا۔ (اسم مصدر)

لَطِيفٌ = مہربان۔ راز دان۔ باریک بین۔ اللہ
تعالیٰ کا نام۔

ل-ظ

لَظِيٌّ = دیکتی ہوئی آگ۔ دوزخ کا نام۔ (اسم
مصدر۔ اسم مکان)

ل-ع

لَعْنٌ = کھیل۔ بازی۔ (اسم مشتق)

لَعْلٌ = شاید کہ۔ مقرر۔ (حرف شبہ بالفعل)
لَعْنٌ = اس نے لعنت کی۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

لُعِنٌ = وہ لعنت کیا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مذکر غائب)

لَحْنٌ = لہجہ۔ آواز۔ اعراب میں خطا کرنا۔ (اسم
مصدر۔ اسم واحد۔ جمع لحنون و الحان ہے)

لَحُومٌ = گوشت۔ (اسم جمع۔ واحد لحم ہے)

لَحِيحَةٌ = داڑھی۔ (اسم واحد۔ جمع لحيى ہے)

ل-د

لُدٌّ = جھگڑالو۔ (اسم صفت)

لُدِيٌّ = قریب۔ نزدیک۔ (اسم ظرف۔ زمان و
مکان)

لُدُنٌ = پاس۔ (اسم ظرف۔ زمان و مکان)

لُدِيٌّ = میرے پاس۔ (اسم ظرف۔ مرکب
اضافی)

لُدَيْتَنَا = ہمارے نزدیک۔ (اسم ظرف۔ مرکب
اضافی)

ل-ذ

لَذَّةٌ = مزہ۔ (اسم واحد) (جمع لذات ہے)

ل-ز

لِزَامٌ = لازم۔ جوار۔ ثابت۔ موت۔ حساب۔ (اسم
مصدر)

ل-س

لِسَانٌ = زبان۔ بات۔ (اسم واحد) (جمع السنة
ہے)

پر سب کا اتفاق ہے۔ (اسم علم)

لَقُوا = وہ ملے۔ انہوں نے ملاقات کی۔ (ماضی۔

جمع مذکر غائب)

لَقِيْنَا = دونوں نے ملاقات کی۔ (ماضی۔ تثنیہ

مذکر غائب)

لَقِيْتُمْ = تم ملے۔ تم بھڑے۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

لَقِيْنَا = ہم نے ملاقات کی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ل-ک

لِكَيْلَا - تاکہ نہ۔ لام حرف جر کسی حرف

ناصب

ل-م

لِمَ = کیوں۔ کس کے لئے۔ "ل" حرف جر

"ما" استفہامیہ سے مرکب ہے "الف" آخر

سے گر گیا۔

لَمْ = نہیں۔ (حرف جازم۔ مضارع کو ماضی متنی

کے معنوں میں بدل دیتا ہے۔)

لَمَّا = بہت سیٹ کر۔ جمع کر کے۔ اپنے

دوستوں کا حصہ کھانا۔ (اسم صفت)

لَمَّا = ابھی تک نہیں۔ (جازم مضارع)

لَمْ تَرَ = تو نے نہیں دیکھا۔ (حرف جازم)

لَعَنَّا = ہم نے لعنت کی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

لَعْنَةٌ = پھٹکار۔ لعنت۔ (اسم مصدر)

لَعْنَتٌ = تو نے لعنت کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر

حاضر)

لَعِنُوا = وہ لعنت کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع

مذکر غائب)

لَعِينٌ = لعنت کیا ہوا۔ لعنت کیا گیا۔ (اسم

مفعول)

ل-غ

لَعُو = بیوہ بات۔ (اسم مصدر)

لَعُوبٌ = تھکن۔ بیمار ہونا۔ (اسم مصدر)

ل-ف

لَفِيفٌ = لپٹا ہوا۔ سستا۔ (اسم مصدر) (اسم

مفعول۔ صیغہ صفت)

ل-ق

لِقَاءٌ = ملنا۔ دیدار کرنا۔ (اسم مصدر)

لَقِيَ = وہ آگے لایا۔ اس نے بخشا۔ (ماضی۔

واحد مذکر غائب)

لَقِيْمَانٌ = حکیم یاعور کے بیٹے۔ حضرت ایوب

رَضِيَ اللهُ عَنْهُم کے بھانجے۔ حضرت داؤد رَضِيَ اللهُ عَنْهُم کے شاگرد۔

بقول بعض نبی تھے مگر ان کی حکمت اور ولایت

لَوَاقِحٌ = رس بھریں۔ بارش برسانے والیں۔
(اسم فاعل۔ جمع مونث)

لَوَاهِمَةٌ = ملامت کرنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد
مونث)

لَوْحٌ = تختی۔ (اسم واحد) (جمع الواح ہے)
لَوْحٌ مَحْفُوظٌ = ایک تختی کا نام ہے۔
(مربک۔ اسم علم)

لُوطٌ = پیغمبر کا نام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
بھتیجے تھے۔ (اسم علم)

لَوْلَا = اگر نہ ہوتا۔ کیوں نہیں۔ (حرف
تخصیص۔ حرف عرض۔ حرف توبیخ و تقدیم)

لَوْمًا = کیوں نہیں۔ (حرف تخصیص)
لَوْمَةٌ = ملامت کرنا۔ (اسم مصدر)

لَوْمُوا = تم ملامت کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)
لَوْنٌ = رنگ۔ (اسم واحد) (جمع اللوان ہے)

لَوْرًا = انہوں نے پھیرا۔ موڑا۔ لٹی مصدر۔
(ماضی۔ جمع مذکر غائب)

لَهُ = اس کا۔ اس کے لئے۔ (حرف جر۔ ل
حرف جر۔ "ہ" ضمیر مجرور۔ واحد مذکر غائب)

ل-ہ

لَهَبٌ = شعلہ۔ آج۔ (اسم مصدر)
لَهُوٌ = تماشا۔ کھیل۔ (اسم مشتق)

(مضارع لٹی۔ واحد مذکر حاضر)

لُمْتُنَّ = تم نے ملامت کی۔ (ماضی۔ جمع مونث
حاضر)

لَمَحَ = لپک دیکھنا۔ چھپی نگاہ سے دیکھنا۔ (اسم
مصدر)

لَمَزَةٌ = (عیب جھین) آنکھ سے اشارہ کرنے
والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث) (اسم مبالغہ)

لَمَسْنَا = ہم نے چھوا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
لَمَسُوا = انہوں نے چھوا۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

لَمَمٌ = کچھ آلودگی۔ گناہ کے نزدیک جانا۔ گناہ
صغیرہ۔ (اسم مصدر)

لَمَمَةٌ = کافی جمع کرنا۔

ل-ن

لَنْ = ہرگز نہیں۔ (حرف ناصب مضارع کے
لئے)

لَنْتَ = تو نرم ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

ل-و

لَوْ = اگر۔ کاش۔ کیا اچھا ہوتا۔ (حرف شرط۔
حرف تمنا)

لَوَّاحَةٌ = منہ سیاہ کرنے والی۔ جلانے والی۔
لَوَّاذٌ = پناہ۔ پناہ پکڑنا۔ (اسم مصدر)

ل-ی

لَیٌّ = بل دینا۔ رسی کا بٹنا۔ گواہی کے وقت زبان کو پھیرنا کہ صاف نہ معلوم ہو۔ (اسم مصدر)

لَیَالٍ = راتیں۔ (اسم جمع) (واحد لیال ہے)
لَیَالٍ عَشْرِ = دس راتیں۔ عشرہ ذی الحجہ یعنی بقرعید کے پہلے دس دن۔ (مركب تو صیغی)

لَیَالِی = راتیں۔ (اسم جمع۔ واحد لیلة ہے)

لَیْتٌ = کاش کہ۔ (یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے (۱) تمنا اور (۲) وجہت تمنا۔ (۱) تمنا۔ جیسے لیت الشباب یعود (کاش جوانی لوٹی) اور (۲) وجہت لیت زیدا شاخف) (کاش میں زید کو دودھ دوہتے پاتا)

لَیْسٌ = نہیں ہے۔ (فعل ناقص۔ ماضی۔ واحد)

مذکر غائب)

لَیْسَتْ = وہ نہیں ہے۔ (فعل ناقص۔ ماضی۔

واحد مؤنث غائب)

لَیْسُوا = وہ نہیں ہیں۔ (فعل ناقص۔ ماضی۔

جمع مذکر غائب)

لَیْلٌ = رات۔ (اسم واحد) (جمع لیال ہے)

لَیْلَةٌ = رات۔ (اسم واحد) (جمع لیالی ہے)

لَیْلَةُ الْقَدْرِ = شب قدر۔ جو رمضان کے

آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہے اس

رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر

ہے۔ (مركب اضافی)

لَیْلَةٌ مُبَارَكَةٌ = برکت کی رات۔ (مركب

تو صیغی)

لَیْنٌ = نرم۔ (اسم واحد۔ جمع لینون ہے۔ اسم

لَیْنٌ = البتہ پھیکا جائے گا۔ (مضارع

مجمول۔ واحد مذکر غائب) (لام تاکید بانون

تاکید ثقیلہ)

لَیْنَةٌ = کھجور کا درخت۔ جس کا پھل بچوہ کہلاتا

ہے۔ (اسم واحد) (جمع لین ہے)

(م)

نفی۔ حرف استفهام)

مَاءٌ = پانی۔ (اسم واحد) (جمع میاء ہے)

مَاءٌ مَّهِینٌ = حقیر پانی۔ نطفہ۔ (مركب تو صیغی)

م-ا

مَا - نہیں کیا۔ وہ چیز جو کچھ۔ جس کو۔ (حرف

مَائَةٌ = سو۔ (اسم عدد)

مَائَتَيْنِ = دو سو۔ (اسم عدد)

مَائِدَةٌ = دسترخوان۔ (اسم واحد) (جمع مائدات و موائد ہے)

مَاءَبٌ = پھر آنے کی جگہ۔ ٹھکانہ۔ (اسم مکان)

مَاتٌ = وہ مرا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

مَاتُوا = وہ مرے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

مَاتِيٌّ = یقینی آنے والا دن۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَاجُوجٌ = اس شخص کا نام ہے جو یاجوج کا ساتھی ہے۔ یہ دونوں حضرت نوح ﷺ کے بیٹے یانث کی اولاد سے ہیں۔

مَادُمْتُ = تو جب تک رہا۔ (فعل ناقص۔ ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

مَادُمْتُ = میں جب تک رہا۔ (فعل ناقص۔ ماضی۔ واحد متکلم)

مَادُمْتُمْ = تم جب تک رہو۔ (فعل ناقص۔ ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

مَادَاً = کیا چیز۔ کیا ہے۔ (ما حرف استفہام۔ ذم اسم اشارہ)

مَارِبٌ = حاجتیں (اسم جمع) (واحد ماریہ ہے)

مَارِجٌ = شعلہ بے دھوئیں کی آج۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مَارِدٌ = سرکش۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مَارُوتٌ = نام فرشتہ جو ہاروت فرشتہ کا ساتھی ہے۔ لوگ ان سے جادو سیکھ کر کافر جادو گروں سے مقابلہ کرتے تھے۔ (اسم علم)

مَاعُونٌ = تھوڑی چیز۔ برتنے کی چیزیں۔ مانگے دینے کی چیزیں۔ جیسے پانی۔ آگ۔ نمک۔ سوئی۔ رسی وغیرہ۔ اکثر صحابہ اور تابعین ماعون زکاۃ کو کہتے ہیں۔ (اسم مشتق)

ماکشون = ہمیشہ رہنے والے۔ ویر کرنے والے۔ انتظار کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر) (واحد ماکش ہے)

مَآكِرِيْنَ = فریب دینے والے۔ تدبیر کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر) (واحد ماکر ہے)

مَآكُولٌ = کھایا ہوا۔ کھانے کی چیز۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَالٌ = سونا۔ چاندی۔ ملکیت وغیرہ۔ (اسم واحد) (جمع اموال ہے)

مَالًا مَمْدُودًا = بہت مال۔ جس کی مدد پے در پے پہنچے۔ (مرکب توصیفی)

مَالِئُونَ = بھرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مَالِكٌ = مختار۔ بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔ (اسم واحد) (جمع مالکون ہے) مالک فرشتہ جو جہنم کا داروغہ ہے۔ تمام عمر نہ ہنسا۔ جنسی جب اسے پکاریں گے تو ہزار برس بعد جواب دے گا۔

”ٹھہرو“

مَالِكُونَ = مالک و مختار۔ (اسم جمع) (واحد مالک ہے)

مَامَن = جائے پناہ۔ (اسم مکان)

مَامُون = پناہ دیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَاعِئَةٌ = باز رکھنے والی۔ بچانے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مؤنث)

مَأْوَى = ٹھکانہ۔ مکان۔ (اسم مکان)

مَاهِدُونَ = بچانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مَاهِيَةٌ = وہ کیا ہے۔ (ما استفہامیہ۔ ہی ضمیر اسم اشارہ۔ ”ہ“ زائد ہے)

م - ب

مُبَارَك = برکت والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُبَارَكَةٌ = برکت والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مؤنث)

مُبْتَلِي = آزمانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُبْتَلِيْنَ = آزمانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مَبْنُوث = بکھرا ہوا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مَبْنُوثَةٌ = پرانگندہ کی گئی۔ (اسم مفعول۔ واحد مؤنث)

مُبَدِّل = بدلنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُبْدِي = ظاہر کرنے والا۔ شروع کرنے والا۔

(اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُبْدِر = اسراف کرنے والا۔ بے انداز خرچ کرنے والا۔

(اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُبْدِرِينَ = اسراف کرنے والے۔ (بجالت نصی۔ اسم فاعل۔ جمع مذکر (واحد مبذر ہے)

مُبِرَّةٌ وَنٌ = وہ پاک کئے گئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر)

مُبْرَمُونَ = ٹھہرانے والے۔ مضبوط کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مَبْسُوطَتَانِ = دو کشادہ۔ (اسم تشبیہ۔ اسم مفعول۔ واحد مبسوطة ہے)

مُبَشِّرٌ = خوش خبری دینے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُبَشِّرَاتٌ = خوشخبری دینے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مؤنث)

مُبَشِّرُونَ = خوشخبری سنانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُبْصِرٌ = دکھانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُبْصِرَاتٌ = دکھانے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مؤنث)

مُبْصِرُونَ = دکھانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُبْصِرُونَ = دکھانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُبْصِرُونَ = دکھانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُبْطَلُونَ = باطل کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

جمع مذکر

مُبْعَدُونَ = دور کئے گئے۔ دور کئے ہوئے۔

(اسم مفعول۔ جمع مذکر)

مُبْعُوذُونَ = اٹھائے گئے۔ بھیجے گئے۔ (اسم

مفعول۔ جمع مذکر)

مُبْلِسُونَ = نا امید پڑے ہیں۔ شک میں

ڈالنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُبْلَغٌ = پہنچنا۔ پہنچنے کی جگہ۔ (اسم۔ ظرف

مکان)

مُبَوَّأٌ = جگہ۔ جگہ دیا گیا۔ (اسم مفعول۔ اسم

مکان)

مُبِينٌ = کھلا۔ ظاہر۔ روشن کرنے والا۔ (اسم

فاعل۔ واحد مذکر)

مُبَيِّنَاتٌ = روشن کرنے والیاں۔ بہت زیادہ۔

(اسم فاعل۔ جمع مونث)

م-ت

مِثٌّ = تو مرا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

مِثٌّ = میں مرا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

مِثِّيٌ = کب سے۔ کب ہوگا۔ (اسم ظرف و

مکان۔ اسم جازم مضارع۔ شرط اور استفہام کے

لئے آتا ہے)

مِثَابٌ = پھرنا۔ پھرنے کی جگہ۔ توبہ کی جگہ۔

(اسم مصدر۔ اسم مکان)

مِتَاعٌ = پونجی۔ اسباب۔ خانگی۔ (اسم واحد) جمع

(امتعة ہے)

مُتَبِّرٌ = وہ ہلاک کیا گیا۔ (اسم مفعول۔ واحد

مذکر)

مُتَبِّرَاتٌ = دکھانے والیاں۔ اپنے آپ کو

آراستہ کرنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)

مُتَبِعُونَ = اتباع کئے گئے۔ (اسم مفعول۔ جمع

مذکر)

مُتَتَابِعِينَ = پے در پے۔ لگا تار۔ مسلسل۔

(اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُتَجَاوِرَاتٌ = نزدیک کے ہمسائے۔ ایک

دوسرے سے متصل۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)

مُتَجَانِفٌ = مائل ہونے والا۔ (اسم فاعل۔

واحد مذکر)

مُتَحَرِّفٌ = پیشہ کرنے والا۔ ہنر کرنے

والا (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُتَحَيِّرٌ = جگہ لینے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد

مذکر)

مُتَخِذٌ = پکڑنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد

مذکر) جمع متخذین ہے)

مُتَخِذَاتٌ = پکڑنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع

مونث) (واحد متخذہ ہے)

مُتَخِذُونَ = پکڑنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر)

ہونے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)	مُتْرَاكِبٌ = بڑے ہوئے۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
مُتَّصِدَاتٌ = خیرات کرنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث) (واحد متصدقة ہے)	مُتْرَبَةٌ = مفلسی۔ محتاجی۔ خاک میں پڑا ہوا۔ (اسم مصدر)
مُتَّصِدِقِينَ = خیرات کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)	مُتْرَبِصٌ = انتظار کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
(واحد متصدق ہے)	مُتْرَبِصُونَ = انتظار کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
مُطَهَّرَةٌ = پاک کی گئی۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)	مُتْرَدِيَةٌ = گرنے والی۔ اوپر سے گر کر مری ہوئی۔ جس کا کھانا حرام ہے۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
مُتَّظِهْرِينَ = صفائی کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)	مُتْرَفُوا = وہ نعمت دیئے گئے۔ گمراہ۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر۔ اضافت کی وجہ سے "نون" گر گیا)
مُتَّعَالٍ = بلند ہونے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)	(واحد مترف ہے)
مُتَّعَتْ = میں نے فائدہ دیا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)	مُتْرَفِينَ = دولت مند۔ تاز میں پلے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر۔ نصی و جری حالت)
مُتَّعَتْ = تو نے فائدہ مند کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)	مُتَّشَابِهٌ = ایک جیسی۔ ایک مثل۔ (اسم واحد جمع متشابهات ہے)
مُتَّعْتُمْ = تم نے فائدہ مند کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)	أَيَاتٌ مُتَّشَابِهَاتٌ = جن آیات کے کئی معنی ہوں۔ (مرکب توصیفی)
مُتَّعِمِدًا = جان بوجھ کر۔ قصداً ارادہ کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)	مُتَّشَاكِسُونَ = بخیل۔ ضدی۔ سخت مزاج والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
مُتَّعْنَا = ہم نے فائدہ دیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)	مُتَّصِدِعٌ = پراگندہ ہونے والا۔ ریزہ ریزہ
مُتَّعُوا = تم فائدہ دو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)	
مُتَّفَرِّقَةٌ = علیحدہ علیحدہ۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)	

کراما کاتین جو ہر روز آدمیوں کی نیکی بڑی لکھ
لے جاتے ہیں۔ (اسم فاعل۔ تشبیہ مذکر)

مُتِم = پورا کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
مِثْم = تم مرے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)
مِثْنَا = ہم مرے۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

مُتَنَافِسُونَ = خواہش کرنے والے۔ (اسم
فاعل۔ جمع مذکر)

مُتَوَسِّمِينَ = داندار۔ انکل کرنے والے۔
بصیرت کرنے والے۔ دھیان کرنے والے۔ (اسم
فاعل۔ جمع مذکر)

(واحد متوسم ہے)

مُتَوَقِّعِي = وفات دینے والا۔ اٹھانے والا۔ (اسم
فاعل۔ واحد مذکر)

مُتَوَكِّلٌ = اللہ پر بھروسا کرنے والا۔ (اسم
فاعل۔ واحد مذکر)

(جمع متوکلون و متوکلین ہے)

مُتَيِّنٌ = مستحکم۔ مضبوط۔ (اسم صفت)

م-ث

مَثَابَةٌ = منزل۔ جمع ہونے کی جگہ۔ (اسم۔
طرف مکان)

مَثَانِيٌّ = بار بار لائی گئیں۔ تکرار کی گئیں۔
(اسم مفعول۔ واحد مذکر)

سَبَّعَ مَثَانِيٌّ = سورہ فاتحہ۔ اس میں سات

مُتَفَرِّقُونَ = جدا جدا ہونے والے۔ (اسم
فاعل۔ جمع مذکر)

مُتَقَابِلِينَ = سامنے۔ مقابل۔ (اسم فاعل۔ جمع
مذکر)

مُتَقَلِّبٌ = پھرنے کی جگہ۔ گشت۔ (اسم۔
طرف مکان)

مُتَقَوِّنٌ = پرہیز گار۔ (اسم جمع) (واحد متقی
ہے)

مُتَّقِينَ = اللہ سے ڈرنے والے۔ (اسم فاعل۔
جمع مذکر)

مُتَّكَاؤٌ = تکیہ لگانے کی جگہ۔ محفل۔ (اسم۔
طرف مکان)

مُتَّكُونَ = تکیہ لگانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع
مذکر۔ بحالت رفیعی)

مُتَّكِبِينَ = تکیہ لگا کر بیٹھنے والے۔ (اسم
فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)

مُتَّكِبْرِينَ = بڑائی والے۔ غرور کرنے والے۔
(اسم فاعل۔ جمع مذکر) (واحد متکبر ہے)

مُتَّكِبِرٌ = غرور کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔
(اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُتَّكَلِّفِينَ = رنج و محنت اٹھانے والے۔
بناوٹ کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر) (واحد
متکلف ہے)

مُتَّلَقِيَانِ = دو لے جانے والے۔ مراد فرشتے

مفعول- واحد مونث)

م-ج

مَجَالِس = محفلیں۔ (اسم جمع) (واحد مجلس ہے)

مُجَاهِدِينَ = جہاد کرنے والے۔ (اسم فاعل- جمع مذکر) (واحد مجاہد ہے)

مُجْتَمِعُونَ = جمع ہونے والے۔ (اسم فاعل- جمع مذکر)

مَجْدُود = کاٹا ہوا۔ (اسم مفعول- واحد مذکر)

مَجْرِي = بننے کا مقام۔ (اسم- ظرف مکان)

مَجْرَى = بہایا ہوا۔ (اسم مفعول- واحد مذکر)

مُجْرِمٌ = گنہگار۔ گناہ کرنے والا۔ (اسم فاعل واحد مذکر)

مُجْرِمُونَ = گناہ کرنے والے۔ (اسم فاعل- جمع مذکر)

مَجْمَع = جمع ہونے کی جگہ۔ ملنے کی جگہ۔ (اسم- ظرف مکان)

مَجْمُوعٌ = جمع کیا ہوا۔ ملایا ہوا۔ (اسم مفعول- واحد مذکر)

مَجْمُوعُونَ = جمع کئے ہوئے۔ (اسم مفعول- جمع مذکر)

مَجْنُونٌ = دیوانہ۔ (اسم مفعول- واحد مذکر)

مَجُوسٌ = آگ پوجنے والا۔ (اسم علم)

آیات ہیں اور دو دفعہ اتری پہلے مکہ میں بعدہ مدینہ میں۔ (مرکب عددی)

مَتَّبِعٌ = کھپایا ہوا۔ ہلاک کیا ہوا۔ (اسم مفعول- واحد مذکر)

مِثْقَال = ہم وزن۔ برابر۔ (اسم واحد) (جمع مشاقیل ہے)

مُثْقَلَةٌ = لدی ہوئی۔ بوجھل۔ (اسم مشتق- واحد مونث)

مُنْقَلُونَ = بوجھل کئے گئے۔ (اسم مفعول- جمع مذکر)

مِثْل = مانند۔ شبہ۔ نظیر۔ (اسم واحد) (جمع امثال ہے)

مَثَل = کماوت۔ قصہ۔ حال۔ (اسم واحد) (جمع امثال ہے)

مُثْلِي = بہت بہتر۔ پسندیدہ۔ (اسم تفضیل- واحد مونث)

مَثَلَات = کماوتیں۔ عذاب۔ (اسم جمع) (واحد مثلة ہے)

مِثْلِي = دو مانند۔ دوچند۔ (اسم تشبیہ) (واحد مثل ہے)

مِثْنِي = دو دو۔ (اسم عدد)

مِثْوِي = بستی۔ گھر۔ (اسم مکان)

مِثْوِيٌّ = ایک جگہ رہنا۔ (اسم مصدر)

مَثْوِيَةٌ = جزا۔ بدلہ۔ بندی۔ ثواب۔ (اسم)

مُجِيبٌ = جواب دینے والا۔ قبول کرنے والا۔
(اسم فاعل۔ واحد مذکر) (جمع مجیبون ہے)

مَجِيدٌ = بزرگ۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔ (اسم صفت)

م-ح

مَحَارِبٌ = بلا خانے۔ مسجد کے در۔ (اسم جمع) (واحد محراب ہے)

مُحَاسَبَةٌ = حساب کرنا۔ (اسم مصدر)

مِحَالٌ = مکر۔ واؤ کرنا۔ (اسم مصدر)

مَحَبَّةٌ = دوستی۔ (اسم مشتق)

مُحْتَضِرٌ = حاضر کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُحْتَضِرٌ = کاتبوں کی باڑھ۔ (اسم ظرف۔ واحد)

مُحْجُوْبُونَ = روکے گئے۔ پردہ کئے گئے۔
(اسم مفعول۔ جمع مذکر)

مَحْجُوْرٌ = منع کیا گیا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُحَدَّثٌ = نیا کیا گیا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَحْدُوْرٌ = ڈرایا گیا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مِحْرَابٌ = بلا خانہ۔ لڑائی کی جگہ۔ مسجد کا در۔ جہاں امام کھڑا ہوتا ہے۔ (اسم واحد) (جمع محارِب ہے)

مُحَرَّرٌ = آزاد کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد)

مذکر

مُحَرَّمٌ = حرام کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد)

مذکر

مُحَرَّمَةٌ = حرام کی گئی۔ (اسم مفعول۔ واحد)

مونث

مُحْرُوْمٌ = بے نصیب۔ نا امید۔ (اسم واحد) (جمع محرومون ہے)

مُحْسِنٌ = نیکی کرنے والا۔ احسان کرنے والا۔

(اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُحْسِنَاتٌ = نیکی کرنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)

مُحْسِنُونَ = نیکی کرنے والے۔ نیک۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُحْسِنِينَ = نیکی کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مَحْسُوْرٌ = ہار گیا۔ ہارا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَحْسُوْرَةٌ = جمع کی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)

مُحْصَنَاتٌ = بیباہ عورتیں۔ پاکدامن عورتیں۔ (اسم مفعول۔ جمع مونث)

مُحْصَنَةٌ = مضبوط کی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)

مُحْصِنِينَ = شادی شدہ پرہیزگار مرد۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)

فاعل۔ جمع مذکر (واحد محسن ہے)

مُحَضَّرٌ = حاضر کیا ہوا۔ روبرو کیا ہوا۔ (اسم)

مفعول۔ واحد مذکر (جمع محضرون ہے)

مَحْظُورٌ = رد کیا ہوا۔ حرام کیا ہوا۔ گھیرا ہوا۔

(اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَحْفُوظٌ = حفاظت کیا ہوا۔ نگاہ رکھا ہوا۔

(اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُحْكَمَاتٌ = جانچی ہوئیں۔ مضبوط وہ آیات

جو صریح دلالت کریں اور مشابہ نہ ہو۔ (اسم جمع)

(واحد محکمة و محکم ہے)

مُحْكَمَةٌ = مضبوط۔ (اسم واحد) جمع

محکمات ہے)

مَجَلٌّ = قربانی کی جگہ۔ منزل۔ (اسم۔ ظرف

مکان)

مَجَلَّةٌ = قربانی کی جگہ۔ (اسم۔ ظرف مکان)

مُجَلِّئٌ = حلال جانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر آخر سے نون حذف ہے۔

مُحَلِّقِينَ = سر کے بال منڈانے والے۔ (اسم

فاعل۔ جمع مذکر)

مَجَلَّةٌ = اس کی اپنی جگہ۔ (اسم مکان۔ مرکب

اضافی)

مُحَمَّدٌ = بہت سراہا ہوا۔ (اسم علم) مبارک

نام سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ﷺ کا

ہے۔ آپ عبد اللہ کے بیٹے وہ عبد المطلب کے

بیٹے وہ ہاشم کے بیٹے وہ عبد مناف کے بیٹے ہیں

آپ سے پہلے کوئی اس نام سے موسوم نہ تھا یہ

نام نہایت مبارک ہے مسلمانوں کو چاہئے کہ تبرکاً

اپنی اپنی اولاد کا یہ نام رکھیں مگر ادب سے

پکاریں۔"

مَحْمُودٌ = سراہا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَقَامٌ مَحْمُودٌ = وہ جگہ جو آپ ﷺ کو

روز قیامت عنایت ہوگی آپ وہاں کھڑے ہو کر

امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ (مرکب توصیفی)

مَحْوُونًا = ہم نے مٹایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

مُحْيٍ = جلانے والا۔ زندہ کرنے والا۔ (اسم

فاعل۔ واحد مذکر)

مَحْيَاً = زندگی۔ (اسم مصدر)

مَحِيضٌ = بھانگنے کی جگہ۔ بچنے کی جگہ۔ (اسم

مکان)

مَحِيضٌ = حیض کی جگہ یعنی عورت کا بدن۔


حیض کے ایام۔ (اسم۔ ظرف مکان)

مُحِيْطٌ = گھیرنے والا۔ خوب جاننے والا۔ (اسم

فاعل۔ واحد مذکر)

مُحِيْطَةٌ = گھیرنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد

مؤنث)



مَخَاصٍ = درو زہ۔ جینے کا ورد۔ (اسم مصدر)

مُخَلِّدُونَ = بیش رکھے ہوئے۔ (اسم مفعول۔
جمع مذکر)

مُخْلِصٌ = گمراہ درست۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر۔ جمع مخلصون ہے)

مُخْلِصُونَ = خالص کرنے والے۔ (اسم
فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت رفقی)

مُخْلِصِينَ = نرمی کرنے والے۔ خالص
کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی
و جبری)

مُخْلِفٌ = پیچھے رہنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر)

مُخْلِفُونَ = پیچھے رہتے ہوئے۔ (اسم مفعول۔
جمع مذکر)

مُخْلَقَةٌ = صورت بنائی ہوئی۔ (اسم مفعول۔
واحد مؤنث)

مُخْمَصَّةٌ = بھوک۔ (اسم مصدر)

م-د

مَدٌّ = کھینچنا۔ پھیلانا۔ (اسم مصدر)
مَدٌّ = اس نے کھینچا۔ پھیلایا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

مَدَائِنٌ = بستیاں۔ شہر۔ (اسم جمع) (واحد مدینہ
ہے)

مِدَادٌ = سیاہی۔ روشنائی۔ (اسم صفت)

مُخْبِتِينَ = عاجزی کرنے والے۔ (اسم فاعل۔
جمع مذکر)

مُخْتَالٌ = تکبر کرنے والا۔ اترانے والا۔ (اسم
فاعل۔ واحد مذکر)

مُخْتَلِفٌ = اختلاف کرنے والا۔ (اسم فاعل۔
واحد مذکر) (جمع مختلفون ہے)

مَخْتُومٌ = مہر کیا ہوا۔
مَخْدُولٌ = ذلیل کیا ہوا۔ خوار کیا ہوا۔ (اسم
مفعول۔ واحد مذکر)

مَخْرَجٌ = نکلنے کی جگہ۔ (اسم مکان)
مَخْرَجٌ = نکالا گیا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَخْرَجُونَ = نکالے گئے۔ (اسم مفعول۔ جمع
مذکر)

مُخْرَجِينَ = نکالے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع
مذکر)

مُخْرَجٌ = نکالنے والا۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
مُخْسِرِينَ = رسوا کرنے والا۔ (اسم فاعل۔
جمع مذکر)

مُخْسِرِينَ = کم کرنے والے۔ (اسم فاعل۔
جمع مذکر)

مُخْضَرَةٌ = سر سبز کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔
واحد مؤنث)

مَخْضُودٌ = پاک کیا ہوا۔ بن کاٹے۔ کائنا دور
کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُدْبِرٌ = پیچھے چلنے والا۔ پیٹھ پھیرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُدْبِرَاتٌ = تدبیر کرنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مؤنث)

مُدْبِرِينَ = تدبیر کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُدَّةٌ = زمانہ۔ عرصہ۔ (اسم مشتق)

مُدَّتٌ = وہ کھینچی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مؤنث غائب)

مُدْتِرٌ = لحاف اوڑھنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُدْحَضِينَ = ڈالے ہوئے۔ پھسلائے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر)

مُدْحُورٌ = دور کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُدْخَلٌ = مکان۔ داخل ہونے کی جگہ۔ (اسم مکان۔ اسم مصدر)

مُدْخَلٌ = سرگھسانے کی جگہ۔ (اسم مکان)

مُدَدًا = مدد۔ یاری۔

مُدَدْنَا = ہم نے کھینچا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

مُدْرَارٌ = بارش برسانے والی بدلی۔

مُدْرَكُونَ = پائے گئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر)

مُدَسِّرٌ = نصیحت پکڑنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُدْهَامَتَانِ = دو باغ گہرے سبز۔ (اسم تشبیہ)

مُدْهِنُونَ = دین میں سستی کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مَدِينٌ = حضرت شعیب عليه السلام کی بستی کا نام ہے۔

مَدِينَةٌ = شہر۔ (اسم واحد) (جمع مدائن ہے)

مدینہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام ہے جو مکہ سے ڈیڑھ سو کوس پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر وہاں تشریف لے گئے دس برس رہ کر وہیں انتقال فرمایا۔ آپ کا روضہ مبارک وہیں ہے۔

مَدِينُونَ = خوار کئے ہوئے۔ مقسور۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر۔ بحالت رفق)

مَدِينِينَ = تابعدار۔ مقسور۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر۔ بحالت نصی و جری)

م-ذ

مَدَّةٌ وَمٌ = مردود۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُدْبَذِينَ = تردد کئے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر) (واحد مذذب ہے)

مُدْعِينٌ = باور کرنے والے۔ مطیع ہونے والے۔ (اسم جمع) (واحد مدعن ہے)

مُدْكِرٌ = نصیحت کرنے والا۔ یاد کرنے والا۔

(اسم فاعل - واحد مذکر)

مَذْكُورًا = ذکر کیا ہوا۔ (اسم فاعل - واحد مذکر)

مَذْمُومٌ = مذمت کیا ہوا۔ بد حال۔ (اسم مفعول - واحد مذکر)

م-ر

مَرَّ = وہ گذرا۔ (ماضی - واحد مذکر غائب)

مَرَّةٌ = مرو۔ (اسم واحد)

مِرَاءٌ = شک کرتا۔ جھٹا کرتا۔ (اسم مصدر)

مَرَاتٌ = کئی بار۔ (اسم جمع) (واحد مرۃ ہے)

مَرَاضِعٌ = دایاں۔ چھاتیاں۔ (اسم واحد) (جمع)

مرضع ہے)

مُرَاعِمٌ = بھاگنے کی جگہ۔ (اسم مکان)

مَرَافِقٌ = کنیاں۔ (اسم جمع) (واحد مرفق ہے)

مِرَّةٌ = عقل۔ زور۔ (اسم صفت)

ذُو مِرَّةٍ = زور آور۔ مراد حضرت جبریل عليه السلام

مَرَّةٌ = ایک بار۔ (اسم واحد) (جمع مرات ہے)

مَرَّتٌ = وہ گزری۔ (ماضی - واحد مؤنث غائب)

مَرْتَابٌ = شک کرنے والا۔ (اسم فاعل - واحد مذکر)

مَرَدٌ = پھرتا۔ قبول کرتا۔ (اسم مصدر)

مَرْدَفِينٌ = پیچھے سے آنے والے۔ (اسم فاعل - جمع مذکر)

مَرْتَفِقٌ = تکیہ گاہ۔ آرام کی جگہ۔ (اسم - طرف مکان)

مَرْتَفِقُونَ = انتظار کرنے والے۔ (اسم جمع)

(واحد مرتقب ہے)

مَرَجٌ = اس نے چلایا۔ چھوڑا۔ (ماضی - واحد مذکر غائب)

مَرَجَانٌ = مونگا۔ چھوٹا مونگا۔

مَرَجِعٌ = جائے بازگشت۔ واپس آنے کی جگہ۔

(اسم مکان)

مُرْجِفُونَ = فساد کرنے والے۔ (اسم جمع)

(واحد مرجف ہے)

مَرْجُورًا = امید رکھا ہوا۔ (اسم مفعول - واحد مذکر)

مَرْجُومِينَ = سنگسار کئے ہوئے۔ (اسم جمع)

(واحد مرجوم ہے)

مُرْجُونَ = دیر کئے گئے۔ (اسم مفعول - جمع)

مَرَحٌ = اترتا۔ (اسم مصدر)

مَرْحَبٌ = کشادہ جگہ۔ (اسم مکان)

مَرْحَمَةٌ = رحم کھانا۔ (اسم مصدر)

مَرْحُومِينَ = رحم کئے ہوئے۔ (اسم مفعول - جمع مذکر)

مَرْدٌ = پھرتا۔ قبول کرتا۔ (اسم مصدر)

مَرْدَفِينٌ = پیچھے سے آنے والے۔ (اسم فاعل - جمع مذکر)

مَرْدُوفًا = انہوں نے ضد کی۔ حد سے

گزرے۔ (ماضی - جمع مذکر غائب)

مَرْذُودٌ = رد کیا گیا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)	مَرْضِعَةٌ = دودھ پلانے والی۔ دائی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
مَرْذُودُونَ = رد کئے گئے۔ (اسم مفعول۔ جمع)	مَرْضِيٌّ = پسندیدہ۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)
مَرْسِلٌ = بھیجنے والا۔ (اسم واحد) (جمع)	مَرْضِيَّةٌ = پسندیدہ۔ (واحد مونث)
مرسلون و مرسلین ہے)	مَرْعَى = چارہ۔ تازہ گھاس۔ (اسم مکان۔ اسم مصدر)
مَرْسَلٌ = بھیجا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)	مَرْفِقٌ = نکیہ گاہ۔ وہ کام جس سے نفع ہو۔
مَرْسَلَاتٌ = بھیجی ہوئیں۔ مراد ہوائیں۔	آرام گاہ۔ (اسم مکان۔ اسم صفت)
(اسم مفعول۔ جمع مونث) (اسم جمع) (واحد مرسلہ ہے)	مَرْقُودٌ = انعام دیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)
مَرْسَلَةٌ = بھیجنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)	مَرْفُوعٌ = اٹھایا ہوا۔ اونچا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)
مَرْسَلُوا = بھیجنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔	مَرْفُوعَةٌ = اٹھائی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)
اضافت کی وجہ سے آخر سے نون حذف ہے۔)	مَرْقَدٌ = خواب گاہ۔ قبر۔ (اسم مکان)
مَرْسَلُونَ = بھیجے ہوئے۔ پیغمبر۔ (اسم جمع)	مَرْقُومٌ = لکھا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)
(واحد مَرْسَلٌ ہے) (اسم مفعول۔ جمع مذکر)	مَرْكُومٌ = تہہ پر تہہ بیٹھی ہوئی۔ گاڑھی۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)
مَرْسِدٌ = سیدھی راہ دکھانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)	مَرْوَا = وہ گزرے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
مِرْصَادٌ = گھات۔ کین گاہ۔ (اسم مکان)	مَرْوَةٌ = مکہ میں ایک پہاڑ ہے۔ (اسم علم۔ اسم مکان)
مِرْصَدٌ = انتظار کی جگہ۔ (اسم مکان)	مَرْوَزٌ = بیماری۔ بیمار ہونا۔ (اسم مصدر)
مِرْصُوصٌ = مضبوط۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)	مَرْضِيٌّ = بیمار۔ (اسم جمع) (واحد مریض ہے)
مِرْضٌ = بیماری۔ بیمار ہونا۔ (اسم مصدر)	مَرْضَاتٌ = خوشی۔ رضامندی۔ (اسم واحد)
مِرْضِيٌّ = خوشی۔ رضامندی۔ (اسم واحد)	مِرْضُتٌ = میں بیمار ہوا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

مُزْنٌ = سفید بدلی۔ (اسم جمع) (واحد مزنہ ہے)
مَزِيدٌ = زیادہ۔ بہت۔ (اسم مشتق)

م-س

مَسٌّ = چھونا۔ دیوانہ ہونا۔ (اسم مصدر)
مَسَّ = وہ لگا۔ اس نے چھوا۔ (ماضی۔ واحد)
مَذَكْرَاتِبُ (مذکر غائب)
مَسَاجِدُ = مسجدیں۔ (اسم جمع) (واحد مسجد ہے)
مَسَاسٌ = چھونا۔ (اسم مصدر)
مُسَافِحَاتٌ = بدکاری کرنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)

مُسَافِحِينَ = زنا کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ واحد مسافح ہے۔ بحالت نصی و جری)
مَسَاقٌ = چلانا۔ کھینچ کر لے جانا۔ کھینچنا۔ (اسم مصدر)
مَسَاكِينٌ = گھر۔ (اسم جمع۔ واحد مسکن ہے)
مَسَاكِينٌ = محتاج۔ (اسم جمع) (واحد مسکین ہے)
مَسْئُولٌ = پوچھا گیا۔ سوال کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَسْئُولُونَ = پوچھے گئے۔ (اسم مفعول)
مُسْتَبْحُونَ = تسبیح پڑھنے والے۔ (اسم فاعل۔

مُزِنٌ = شک لانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُزِيَةٌ = دھوکا۔ (اسم مشتق)

مَرِيحٌ = الجھا ہوا۔ دھوکا۔ (اسم مشتق)

مَرِيْدٌ = سرکش۔ نافرمان۔ (اسم واحد) (جمع مردہ ہے)

مَرِيضٌ = بیمار۔ (اسم واحد) (جمع مرضی ہے)

مَرِيْمٌ = عمران کی بیٹی کا نام ہے جو کنواری تھیں۔ ان سے حضرت عیسیٰ ﷺ بے باپ پیدا ہوئے۔

م-ز

مِرَاحٌ = ملاوٹ۔ جو شراب میں ملائیں۔ (اسم مشتق)

مُرَجَاتٌ = تھوڑی ناقص۔ بے اعتبار۔ (اسم مشتق)

مُرْخِرٌ = دور کرنے والا۔ سرکانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُرْدَجِرٌ = ڈانٹ۔ نصیحت۔ (اسم صفت)

مُرْقِشٌ = تم پھاڑے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر حاضر)

مُرْقِنَا = ہم نے پھاڑا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

مُرْمَلٌ = اپنے اوپر کپڑا لپیٹنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)



جمع مذکر

مُسَبُّوقِينَ = سبقت کئے گئے۔ (اسم مفعول)

جمع مذکر یعنی پیچھے رہنے والے۔ عاجز

مَسَّتْ = اس نے چھوا۔ (ماضی) واحد مؤنث
(غائب)مُسْتَأْخِرِينَ = پیچھے رہنے والے۔ (اسم)
فاعل۔ جمع مذکرمُسْتَأْنِسِينَ = انس کرنے والے۔ بات سننے
والے۔ (اسم فاعل)۔ جمع مذکرمُسْتَبْشِرَةٌ = خوش ہونے والی۔ (ماضی) واحد
مؤنث (غائب)مُسْتَبْصِرِينَ = بصارت رکھنے والے۔ (اسم)
فاعل۔ جمع مذکرمُسْتَسِينٍ = ظاہر روشن۔ (اسم فاعل)۔ واحد
مذکرمُسْتَخْفٍ = چھپنے والا۔ (اسم فاعل)۔ واحد
مذکر آخر سے ”ی“ گر گئی۔مُسْتَخْلَفِينَ = جانشین بنائے ہوئے۔ (اسم)
مفعول۔ جمع مذکر بحالت نصی و جریمُسْتَسْلِمُونَ = گردن رکھنے والے۔ سپرد
کرنے والے۔ (اسم فاعل)۔ جمع مذکرمُسْتَضْعَفُونَ = کمزور کئے گئے۔ (اسم)
مفعول۔ جمع مذکر

مُسْتَطَّرٌ = لکھا ہوا۔ مراد لوح محفوظ۔ (اسم)

مفعول۔ واحد مذکر

مُسْتَطِيرٌ = ظاہر پراگندہ ہونے والا۔ (اسم)
فاعل۔ واحد مذکرمُسْتَعَانَ = مدد چاہا ہوا۔ جس سے مدد چاہی
جائے۔ (اسم مفعول)۔ واحد مذکرمُسْتَعْفِرِينَ = مغفرت چاہنے والا۔ (اسم)
فاعل۔ جمع مذکرمُسْتَقْبِلٌ = سامنے سے آنے والا۔ (اسم)
فاعل۔ واحد مذکرمُسْتَقْدِمِينَ = آگے بڑھنے والے۔ (اسم)
فاعل۔ جمع مذکرمُسْتَقِرٌّ = ٹھہرنے والا۔ (اسم فاعل)۔ واحد مذکر
مُسْتَقَرٌّ = ٹھہرایا ہوا۔ ٹھہرنے کی جگہ۔ (اسم)

مفعول۔ واحد مذکر (اسم مکان)

مُسْتَقِيمٌ = سیدھی۔ (اسم فاعل)۔ واحد مذکر
أَلْصِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ = سیدھی راہ۔

(مرکب تویمیفی)

مُسْتَكْبِرٌ = غرور کرنے والا۔ (اسم فاعل)۔
واحد مذکرمُسْتَكْبِرُونَ = تکبر کرنے والے۔ (اسم)
فاعل۔ جمع مذکرمُسْتَمِرٌّ = چلا آیا۔ ہمیشہ سے چلا آیا ہوا۔
(اسم فاعل)۔ واحد مذکر

مُسْتَمْسِكُونَ = مضبوط پکڑنے والے۔ نیچہ

مارنے والے (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُسْتَمِعٌ = سننے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُسْتَمِعُونَ = سننے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع)

مذکر

مُسْتَنْفِرَةٌ = بدکنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد)

(مونث)

مُسْتَوْدَعٌ = پناہ کی جگہ۔ امانت کی جگہ۔ (اسم)

مکان)

مُسْتُوْرٌ = چھپایا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُسْتَهْزِءٌ وَنٌ = ہنسی کرنے والے۔ (اسم)

فاعل۔ جمع مذکر

مُسْتَيْقِيْنٌ = یقین کرنے والے۔ (اسم فاعل۔

جمع مذکر)

مَسْجِدٌ = سجدہ کرنے کی جگہ۔ (اسم مکان)

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ = عزت والی جگہ۔ خانہ

کعبہ۔ (اسم علم و اسم مکان) مرکب تو صیغی۔

مُسْجُوْرٌ = بھرا ہوا۔ گرم کیا ہوا۔ (اسم

مفعول۔ واحد مذکر)

مَسْجُوْنِيْنٌ = قید کئے ہوئے قیدی۔ (اسم

مفعول۔ جمع مذکر)

مَسْحٌ = چھونا۔ جماع کرنا۔ (اسم مصدر)

مُسَحَّرِيْنٌ = جادو کئے ہوئے۔ (اسم مفعول۔

جمع مذکر)

مَسْحُوْرٌ = جادو کیا ہوا۔ (اسم واحد) جمع

مَسْحُوْرُوْنَ ہے) (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَسْحُوْرُوْنَ = جادو کئے ہوئے۔ (اسم مفعول۔

جمع مذکر)

مُسَخَّرٌ = فرمانبردار کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔

واحد مذکر)

مُسَخَّرَاتٌ = فرمانبردار کی ہوئیں۔ (اسم

مفعول۔ جمع مونث)

مَسْخِنًا = ہم نے اچھی صورت کو بری

صورت کر دیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

مَسَدٌ = مونجھ کی رسی۔ کھجور کی چھال کی

رسی۔ (اسم آلہ)

مُسْرِفٌ = اسراف کرنے والا۔ فضول خرچ

کرنے والا۔ (اسم واحد) جمع مسرفین ہے)

مُسْرِفُونَ = اسراف کرنے والے۔ (اسم

فاعل۔ جمع مذکر)

مُسْرُوْرٌ = خوش۔ خوش کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔

واحد مذکر)

مَسْطُوْرٌ = لکھا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَسْعَبَةٌ = بھوک۔ کھانے کی خواہش۔ (اسم

صفت)

مُسْفِرَةٌ = روشن۔ روشن ہونے والی۔ (اسم

فاعل۔ واحد مونث)

مَسْفُوْحٌ = گرایا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد

مذکر)

مفعول- واحد مونث)	مِسْكٌ = مشک- کتوری- (اسم صفت)
مَسْنُونٌ = روشن کیا ہوا- (اسم مفعول- جمع	مَسْكَنٌ = مکان- رہنے کی جگہ- (اسم مکان)
مذکر	مَسْكَنَةٌ = محتاجی- (اسم صفت)
مُسَوِّدٌ = سیاہ کیا ہوا- (اسم مفعول- واحد مذکر	مَسْكُوبٌ = پانی بہایا ہوا- (اسم مفعول- واحد
مُسَوِّدَةٌ = کالی کی ہوئی- (اسم مفعول- واحد	مذکر
مونث)	مَسْكُونَةٌ = آباد کی ہوئی- بستی- (اسم مفعول-
مَسْوَمَةٌ = نشانی کی ہوئی- پالی ہوئی- (اسم	واحد مونث)
مفعول- واحد مونث)	مَسْكِينٌ = محتاج- فقیر- (اسم واحد) جمع
مُسَوِّمِينَ = نشانی کرنے والے- (اسم فاعل-	مساکین ہے)
جمع مذکر	مُسْلِمٌ = مسلمان- تابعدار- (اسم فاعل- واحد
مُسَوِّمِينَ = نشانی کئے ہوئے- (اسم مفعول-	مذکر
جمع مذکر	مُسْلِمَاتٌ = مسلمان عورتیں- (اسم فاعل-
مُسِينِي = بدکار- گنہگار- (اسم فاعل- واحد مذکر	جمع مونث)
مُسِينِحٌ = چھونے والا- حضرت عیسیٰ ﷺ کا	مُسْلِمَةٌ = سوہی ہوئی- (اسم مفعول- واحد
لقب کیونکہ ان کے چھونے سے اندھا دیکھنے لگتا	مونث)
اور کوڑھی اچھا ہوجاتا تھا- (اسم فاعل- واحد مذکر	مُسْلِمُونَ = سب مسلمان- (اسم جمع) واحد
مُسَيْطِرٌ = واروغہ- (اسم واحد) جمع	مسلم ہے)
مُسَيْطِرُونَ ہے)	مُسْتَمِي = نام رکھا ہوا- (اسم مفعول- واحد
	مذکر
	مُسْمِعٌ = سنانے والا- (اسم فاعل- واحد مذکر
	مُسْمَعٌ = سنایا ہوا- (اسم مفعول- واحد مذکر
	مَسْسِنَا = ہم نے چھوا- جمع کیا- (ماضی- جمع
	تکلم)
	مُسْنَدَةٌ = تکیہ- دیوار بلند کی ہوئی- (اسم

م — ش

مَشَاءٌ = بہت چلنے والا- (اسم فاعل- واحد
مذکر
مَشَارِبٌ = گھاٹ- (اسم جمع- اسم مکان)
(واحد مَشْرِبٌ ہے)

مُشْرِكُونَ = شرک کرنے والے۔ (اسم فاعل۔

جمع مذکر (واحد مشرک ہے)

مَشْعَرٌ = قربانی۔ حج کی جگہ۔ حاجیوں کے

سرمنڈانے کی جگہ۔ (اسم واحد) (اسم مکان)

الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ = مقام مزدلفہ۔ جو مکہ میں

ہے۔ (اسم مکان)

مُشْفِقُونَ = ڈرنے والے۔ (اسم جمع) (واحد

مشفق ہے)

مِشْكُورَةٌ = طاق۔ جس میں چراغ رکھا جاتا

ہے۔ (اسم۔ ظرف مکان)

مَشْكُورٌ = شکر کا بدلہ دیا ہوا۔ (اسم مفعول۔

واحد مذکر

مَشْوَا = وہ چلے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

مَشْهَدٌ = فرشتوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔

(اسم مکان)

مَشْهُودٌ = گواہی دیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد

مذکر

مَشْيٌ = چلنا۔ (اسم مصدر)

مُشَيَّدٌ = مضبوط بنایا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد

مونث)

مُشَيَّدَةٌ = مضبوط کی ہوئی۔ بلند کی ہوئی۔

مَشَارِقٌ = سورج نکلنے کی جگہ۔ (اسم مکان)

مَشْتَمَةٌ = کم بختی۔ (اسم صفت)

أَصْحَابُ الْمَشْتَمَةِ = بائیں طرف والے۔

جنمی۔ (مركب اضافی)

مُشْتَبِهٌ = شبہ میں ڈالنے والا۔ (اسم فاعل۔

واحد مذکر)

مُشْتَرِكُونَ = شریک ہونے والے۔ (اسم

فاعل۔ جمع مذکر)

مَشْحُونٌ = بھرا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَشْرَبٌ = گھاٹ۔ پینے کی جگہ۔ (اسم مکان)

مَشْرُقٌ = سورج نکلنے کی جگہ۔ (اسم مکان)

مَشْرِقَيْنِ = سورج نکلنے کی دو جگہیں۔ ایک

گری کی دوسری سردی کی۔ (اسم مکان)

بُعْدُ الْمَشْرِقَيْنِ = گری اور سردی کے

دونوں۔ دو مشرقوں کی دوری ہے یا مشرق اور

مغرب کی دوری۔ (مركب اضافی)

مُشْرِقَيْنِ = چمکنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر)

مُشْرِكٌ = شرک کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد

مذکر)

مُشْرِكَاتٌ = شرک کرنے والیاں۔ (اسم

فاعل۔ جمع مونث)

مُشْرِكَةٌ = شرک کرنے والی۔ (اسم واحد)

(جمع مشرکات ہے)

م - ص

مَصَابِيحُ = چراغ۔ ستارے۔ (اسم جمع) (واحد مَصْبَاحٌ ہے)	مَصْفُوفَةٌ = صف باندھی ہوئی تظار۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)
مَصَانِعُ = قلعے۔ کنوئیں۔ زمین دوز حوض۔ (اسم جمع) (واحد مصنع ہے)	مُصَلِّيٌ = نماز کی جگہ۔ عید گاہ۔ (اسم مکان)
مِصْبَاحٌ = صبح کا وقت۔ (اسم واحد) (جمع مِصَابِيحُ ہے)	مُصْلِحٌ = اصلاح کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
مُصَابِيحُ = صبح کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)	مُصْلِحُونَ = درستی کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
مُصَدِّقٌ = سچا کرنے والا۔ صدقہ وصول کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)	مُصَلِّينَ = نمازی۔ درود بھیجنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
مُصَدِّقَاتٌ = سچا کرنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)	مُصَوِّرٌ = تصویر بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
مُصَدِّقِينَ = باور کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)	مُصِيبٌ = پہنچنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
مِصْرٌ = شہر۔ (اسم علم) (اسم واحد) (جمع امصار ہے)	مُصِيبَةٌ = پہنچنے والی تکلیف۔ غم۔ (اسم واحد) (جمع مِصَابِيحُ ہے)
مُضْرَحٌ = فریاد کو پہنچنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)	مُصِيطِرٌ = داروغہ۔ (اسم واحد) (جمع مصیطرون ہے)
مُضْرُوفٌ = پھیرا گیا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)	
مُصْطَفِينَ = پسند کئے گئے۔ انتخاب کئے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر)	
مُصَفِّيٌ = صاف کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)	
مُصَفَّرٌ = زرد کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)	

م - ض

مَضَى = گزر گیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
 مَضَاجِعُ = خواب گاہیں۔ (اسم جمع) (واحد مَضْجَعٌ ہے) (اسم مکان)

مُضَارٌّ = نقصان پہنچایا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُضَاعَفَةٌ = دوگنا کرنا۔ بڑھانا۔ (اسم مصدر)

مَضَّتْ = وہ گزری۔ (ماضی۔ واحد مونث غائب)

مُضْطَرٌّ = لاچار۔ بے بس۔ مجبور۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُضْعِفُونَ = دوگنا کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُضْغَةٌ = بوٹی۔ (اسم واحد) (جمع مضغ ہے)

مُضِلٌّ = بھکانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُضِلِّينَ = بھکانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُضِيٌّ = گزرتا۔ (اسم مصدر)

م - ط

مُطَاعٌ = تابعداری کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَطَرٌ = بارش۔ (اسم واحد) (جمع امطار ہے)

مُطْفِئِينَ = کم تولنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مَطْلَعٌ = سورج نکلنے کی جگہ۔ (اسم۔ طرف مکان)

مُطْلِعُونَ = جھانکنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُطْلَقَاتٌ = طلاق دی ہوئیں۔ (اسم مفعول۔ جمع مونث)

مَطْلُوبٌ = چاہا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُظْمِنٌ = اطمینان پکڑنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُظْمِنَةٌ = تسلی پانے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

نَفْسٌ مُظْمِنَةٌ = وہ نفس جو بے یاد الہی آرام نہ پائے۔ جیسے پیغمبروں کے نفس تھے۔ (مربک توصیفی)

مُظْمِنَاتٍ = آرام پکڑنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُطَوِّعِينَ = نقلی صدقہ اپنی طرف سے دینے والے۔ دل کھول کر خرچ کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مَطْوِيَّاتٌ = لپی ہوئیں۔ (اسم مفعول۔ جمع مونث)

مُطَهِّرٌ = پاک کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُطَهَّرَةٌ = پاک کی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)

مُطَهَّرُونَ = پاک کئے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر)

م-ظ

مَعَايِش = روزیاں۔ (اسم جمع) (واحد معاش ہے)

مُعْتَبِينَ = خوش کئے ہوئے۔ منائے ہوئے۔
(اسم مفعول۔ جمع مذکر) (اسم مصدر عتاب)

مُعْتَدٍ = حد سے بڑھنے والا۔ ظالم۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُعْتَدُونَ = حد سے بڑھنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُعْتَرِّضٌ = بے قرار۔ محتاج۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُعْجِزٌ = عاجز کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُعْجِزِينَ = تھکا دینے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مَعْدُودٌ = گنا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَعْدُودَاتٌ = گنی ہوئیں۔ (اسم مفعول۔ جمع مونث)

أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ = گنتی کے دن۔ (مکرم)

تومینی) مینہ بھر۔ ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی گیارہویں۔ بارہویں۔ تیرہویں تاریخیں۔

مَعْدُودَةٌ = گنی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)

مُعَذِّبٌ = عذاب کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُظْلِمٌ = اندھیرا کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُظْلِمُونَ = اندھیرا کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مَظْلُومٌ = ظلم کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

م-ع

مَعَ = ساتھ۔ (اسم ظرف)

مُعَاجِزِينَ = ہرانے والے (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مَعَادٌ = پھرنے کی جگہ۔ عالم آخرت۔ (اسم مکان)

مَعَادٌ = پناہ۔ (اسم مکان)

مَعَادِيزٌ = بہانے۔ عذر۔ (اسم جمع) (واحد معذرة ہے)

مَعَارِجٌ = سیڑھیاں۔ درجے۔ (اسم جمع) (واحد معراج ہے)

ذِي الْمَعَارِجِ = مراد اللہ تعالیٰ۔ (مکرم)

مَعَاشٌ = روزی۔ روزگار۔ (اسم واحد) (جمع مَعَايِش ہے)

مُعْشَرٌ = وس وس - گروه - جماعت - (اسم واحد) (جمع معاشر ہے)	مُعَذِّبُونَ = عذاب کرنے والے - (اسم فاعل - جمع مذکر)
مُعَصِرَاتٌ = نچوڑنے والیاں - (اسم فاعل - جمع مونث)	مُعَذِّبِينَ = عذاب کرنے والے - (اسم فاعل - جمع مذکر)
مُعَصِرَةٌ = نچوڑنے والی - (اسم فاعل - واحد مونث)	مُعَذِّبِينَ = عذاب دیئے گئے - (اسم مفعول - جمع مذکر)
مُعْصِيَةٌ = گناہ - (اسم واحد) (جمع معاصی ہے)	مُعْذِرَةٌ = بہانہ - عذر - (اسم مصدر)
مُعْظَلَةٌ = کئی - بیکار ہوئی - (اسم مفعول - واحد مونث)	مُعْذِرُونَ = بہانے کرنے والے - (اسم فاعل - جمع مذکر)
مُعَقَّبٌ = پیچھے ڈالنے والا - (اسم فاعل - واحد مذکر)	مَعْرَةٌ = گناہ - شر - نقصان - ایذا - (اسم مشتق)
مُعَقَّبَاتٌ = ایک کے پیچھے ایک آنے والے - مراد دن رات کے فرشتے جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں - (اسم فاعل - جمع مونث)	مُعْرِضُونَ = منہ پھیرنے والے - (اسم فاعل - جمع مذکر)
مَعْكُوفٌ = باز رکھی ہوئی - روکی ہوئی - (اسم مفعول - واحد مذکر)	مُعْرِضِينَ = منہ پھیرنے والے - (اسم فاعل - جمع مذکر)
مُعَلَّقَةٌ = لٹکتی ہوئی - (اسم مفعول - واحد مونث)	مَعْرُوشَاتٌ = اونچی کی گئیں - (اسم مفعول - جمع مونث)
مُعَلَّمٌ = سکھایا ہوا - (اسم مفعول - واحد مذکر)	مَعْرُوفٌ = پہچانا ہوا - (اسم مفعول - واحد مذکر)
مَعْلُومٌ = جانا ہوا - مقرر - (اسم مفعول - واحد مذکر)	مَعْرُوفَةٌ = پہچانی ہوئی - (اسم مفعول - واحد مونث)
حَقٌّ مَعْلُومٌ = زکاۃ - (مرکب توصیفی)	مَعْرٌ = بکری - بکریاں - (واحد - جمع)
يَوْمٌ مَعْلُومٌ = روز قیامت - (مرکب توصیفی)	مَعْرَلٌ = کنارہ - (اسم مکان)
	مَعْرُوفُونَ = موقوف کئے ہوئے - (اسم جمع)
	(واحد مَعْرُوفٌ ہے)
	مِعْشَارٌ = دسواں حصہ - (اسم عدد)

مُغْتَسِلٌ = نہانے کی جگہ۔ (اسم۔ ظرف مکان)	مَعْلُومَاتٌ = جانی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ جمع مونث)
مَغْرِبٌ = آفتاب غروب ہونے کی جگہ۔ (اسم۔ ظرف مکان)	أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ = ذی الحجہ کے پہلے دس دن۔ (مربک توصیفی)
مَغْرِبِينَ = دو غروب کی جگہیں۔ (اسم مکان)	مَعْمَرٌ = بوڑھا۔ عمر دراز کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)
مُغْرَقُونَ = غرق کئے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر)	مَعْمُورٌ = آباد کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)
مَغْرَمٌ = تاوان۔ جئی۔ (اسم مشتق)	الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ = ساتویں آسمان کا کعبہ جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ (مربک توصیفی)
مُغْرَمُونَ = تاوان دیئے ہوئے۔ پھنسائے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر)	مُعَوِّقِينَ = روکنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
مَغْشَى = بے ہوشی آئی ہوئی۔ (اسم مفعول)	مَعِيْشَةٌ = گزران۔ (اسم مصدر)
مَغْضُوبٌ = غصہ کیا ہوا۔ (قوم یہود) (اسم مفعول۔ واحد مذکر)	مَعِينٌ = چشمہ۔ جاری پانی۔ (اسم مکان)
مَغْفِرَةٌ = بخشا۔ (اسم مصدر)	
مَغْلُوبٌ = دبا یا ہوا۔ عاجز۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)	
مَغْلُوبَةٌ = بند کی ہوئی۔ بخیل۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)	
يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ = اللہ کا ہاتھ بندھ گیا ہے۔ (جملہ خبریہ) (مربک اضافی)	
مَغْنَمٌ = مال غنیمت۔ وہ مال جو کفار کی لڑائی سے مسلمانوں کو ہاتھ لگے۔ (اسم واحد) (جمع مغنم ہے)	
مُغْنُونَ = بچانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)	
	مَعَارَاتٌ = گڑھے۔ (اسم جمع) (واحد مغارة ہے)
	مَعَارِبٌ = ہر روز غروب ہونے کی جگہیں۔ (اسم جمع) (واحد مغرب ہے)
	مُعَاصِبٌ = غضب ناک ہونے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
	مَغَانِمٌ = غنیمت کے مال۔ (اسم جمع) (واحد مغنم ہے)

مُعَيَّرَةٌ = بدلنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
 مُعَيَّرَاتٌ = لوٹنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع مونث)

مَقَرٌّ = بھاگنے کی جگہ۔ (اسم۔ ظرف مکان)
 مَقَرُّطُونَ = سرکشی میں ڈالے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر)

م-ف

مَفَاتِحُ = کنجیاں۔ (اسم جمع) (واحد مفتاح ہے)

مُفْسِدٌ = بگاڑنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
 مُفَصَّلٌ = بیان کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَفَاتِيحُ = کنجیاں۔ (اسم جمع) (واحد مفتاح ہے)

مُفَصَّلَاتٌ = جدا کی ہوئیں۔ (اسم مفعول۔ جمع مونث)

مَفَازٌ = مراد ملنا۔ (اسم مکان۔ اسم مصدر)

مَفْعُولٌ = کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)
 مُفْلِحُونَ = فلاح پانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مَفَازَةٌ = میدان۔ فتح پانے کی جگہ۔ (اسم مکان)
 مُفْتَحَةٌ = کھولی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)

م-ق

مَقَابِرُ = قبرستان۔ (اسم جمع) (واحد مقبرة ہے)

مُفْتَرِيٌّ = افترا کرنے والا۔ بہتان کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مَقَاعِدُ = بیٹھنے کی جگہیں۔ (اسم جمع) (واحد مَقْعَدٌ ہے)

مُفْتَرِيٌّ = تہمت لگایا گیا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَقَالِيدُ = کنجیاں۔ (اسم جمع) (واحد مَقْلَادٌ ہے)

مُفْتَرُونَ = بہتان کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مَقَامٌ = کھڑا ہونا۔ کھڑا ہونے کی جگہ۔ (اسم مکان۔ اسم مصدر)

مُفْتَرِيَّاتٌ = جھوٹ باندھی ہوئیں۔ (اسم مفعول۔ جمع مونث)

مُقَامَةٌ = کھڑا ہونا۔ رہنا۔ (اسم مصدر)

مَفْتُونٌ = گمراہ کیا ہوا۔ مجنون۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

دَارُ الْمَقَامَةِ = بہشت۔ (اسم مکان۔ مرکب
اضافی)

مَقَامِعٌ = ہتھوڑے۔ وہ کبھی جو سخت گرمی
میں اونٹ پر بیٹھتی ہے اور ان کو کاٹتی ہے۔
(اسم جمع) (واحد قماہ ہے) (خلاف قیاس)

مَقْبُوحِينَ = بدی کئے ہوئے۔ (اسم مفعول۔
جمع مذکر)

مَقْبُوضَةٌ = قبضہ کی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد
مونث)

مَقْتٌ = غصہ۔ بیزاری۔ گناہ۔ (اسم مشتق)
مُقْتَحِمٌ = وھننے والا۔ درمیان میں آنے والا۔

(اسم فاعل۔ واحد مذکر)
مُقْتَدِرٌ = قدرت والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُقْتَدِرُونَ = قدرت والے۔ (اسم فاعل۔ جمع
مذکر)

مُقْتَدُونَ = پیروی کرنے والے۔ (اسم فاعل۔
جمع مذکر)

مُقْتَرٌ = تنگی کرنے والا۔ درویش۔ (اسم فاعل۔
واحد مذکر)

مُقْتَرِفُونَ = کمانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع
مذکر)

مُقْتَرِنِينَ = ملنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
مُقْتَسِمِينَ = بانٹنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع
مذکر)

مُقْتَصِدٌ = درمیان میں چلنے والا۔ (اسم فاعل۔
واحد مذکر)

مُقْتَصِدَةٌ = حد وسط۔ اعتدال سے چلنے والی۔
نگاہ رکھنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

مِقْدَارٌ = اندازہ۔ (اسم مصدر)
مُقَدَّسٌ = پاک کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد
مذکر)

مُقَدَّسَةٌ = پاک کی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد
مونث)

أَرْضٌ مُقَدَّسَةٌ = زمین شام۔
(مرکب توہینی)

مُقَدَّرٌ = ٹھہرایا ہوا۔ اندازہ کیا ہوا۔ (اسم
مفعول۔ واحد مذکر)

مُقَرَّبَةٌ = قربت۔ نزدیکی۔ (اسم صفت)
ذَا مُقَرَّبَةٍ = قربت والا۔ (مرکب اضافی)

مُقَرَّبُونَ = نزدیک کئے ہوئے (مراد انبیاء و
اولیاء) (اسم مفعول۔ جمع مذکر۔ بحالت رقی)

مُقَرَّبِينَ = مقابل ہونے والے۔ جکڑے
ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر)

مُقَرَّبِينَ = قابو میں لانے والے۔ (اسم فاعل۔
جمع مذکر)

مُقَسِّطِينَ = انصاف کرنے والے۔ (اسم
فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)

مُقَسِّمَاتٌ = بانٹنے والیاں۔ یعنی کام بانٹنے

والے فرشتے۔

مَقْسُومٌ = حصہ کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد

مذکر

مُقَصِّرِينَ = بال کترانے والے۔ (اسم فاعل۔

جمع مذکر

مَقْصُورَاتٌ = چھپائی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ جمع

مونث)

مَقْضِيٌّ = فیصلہ کیا ہوا۔ ادا کیا ہوا۔ (اسم

فاعل۔ واحد مذکر

مَقْطُوعٌ = کاٹا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر

مَقْطُوعَةٌ = کاٹی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد

مونث)

مَقْعَدٌ = بیٹھنے کی جگہ۔ (اسم مکان)

مُقَمَّحُونَ = سر بلند کئے ہوئے۔ (اسم مفعول۔

جمع مذکر

مُقَنْطَرَه = ڈھیر کی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد

مونث)

مُقْعِبِيٌّ = سراٹھانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر

مُقَوِّينَ = جنگل کے رہنے والے۔ مسافر۔

مخارج۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُقَيِّتٌ = روزی دینے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد

مذکر

مَقِيلٌ = آرام گاہ۔ دوپہر کے سونے کا وقت۔

(اسم مکان و زمان)

مُقَيِّمٌ = سیدھا کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد

مذکر

مُقَيِّمِينَ = رہنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر۔ بحالت نصی و جری)

م-ک

مُكَائَةٌ = منہ سے سیٹی بجانا۔ (اسم مصدر)

مَكَانٌ = گھر۔ (اسم مکان)

مَكَانَةٌ = مرتبہ۔ جگہ۔ (اسم مکان)

مُكَبِّبٌ = سرگلوں کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد

مذکر

مَكَّةٌ = ملت اسلامیہ کا مرکزی شہر جسے قرآن

نے اُمُّ الْقُرَى بھی کہا ہے۔ نام شہر جو مدینہ

منورہ سے ڈیڑھ سو کوس پر ہے اس میں رسول

اکرم ﷺ کا مولد اور بیت اللہ یعنی کعبہ شریف

ہے۔

مُكْتَوِبٌ = لکھا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر

مَكْتُتٌ = ٹھہرتا۔ انتظار کرتا۔ (مصدر)

مُكْدَبُونَ = جھٹلانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر

مُكْدُوبٌ = جھٹلایا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد

مذکر

مُكْرٌ = حیلہ کرتا۔ (اسم مصدر)

مَنْ = اس نے احسان کیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

مَنَات = ایک بت کا نام جس کو عرب میں
قبیلہ ہزئل و خزاعہ اور اہل قدر و ملل اور بنو
کعب پوجتے تھے بعد ظہور اسلام یہ بت نیست و
ناپود ہو گیا۔ (اسم علم)

مُنَاد = پکارنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر
مُنَادِئ = بلانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر
مَنَازِل = اترنے کی جگہیں۔ (اسم جمع) (واحد
منزل ہے)

مَنَاسِک = حج کے کام۔ قربانی کی جگہ۔ (اسم
جمع) (واحد منسک ہے)

مَنَاص = چارہ۔ بھاننا۔ نجات۔ خلاصی۔ (اسم
صدر)

مَنَاع = بڑا منع کرنے والا۔ (اسم مبالغہ)
مَنَافِع = فائدہ۔ (اسم جمع) (واحد منفعة ہے)

مُنَافِقَات = دغا باز عورتیں۔ (اسم فاعل۔ جمع
مونث)

مُنَافِقُونَ = دغا باز۔ جو زبان سے کلمہ پڑھیں
دل سے منکر ہوں یا شک میں پڑے ہوں کمزور
ایمان والے مسلمان۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔
بحالت رفق)

مُنَافِقِينَ = دغا باز۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر بحالت
نصی و جری۔ واحد منافق ہے)

مُمْسِكَتٌ = روکنے والیاں۔ (اسم فاعل۔ جمع
مونث)

مُمَظِرٌ = برسانے والا۔ برسنے والا۔ (اسم فاعل۔
واحد مذکر
مَمْلُوكٌ = غلام۔ (اسم واحد) (جمع ممالیک
ہے)

مِمْنٌ = کس شخص سے۔ مِمنٌ مَن سے مرکب
ہے۔ مِمنٌ حرف جر ہے مَن موصول۔

مَمْنُوعَةٌ = منع کی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد
مونث)

مَمْنُونٌ = احسان رکھا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد
مذکر)

أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ = ثواب نہ کم کیا ہوا۔
(مرکب توصیفی)

م-ن

مَنْ = کون۔ جو شخص۔ (اسم موصول اور اسم
استفہام۔ اسم شرط جازم بھی ہے۔ جیسے مَنْ
يَعْمَلُ)

مِنْ = سے۔ (حرف جر)
مَنْ = ایک قسم کا بیٹھا (طوہ) وہ چیز جس کو اللہ

تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنی اسرائیل کے
لئے غذا بنا کر اتارا تھا۔

مَنْ = احسان کرنا۔ (اسم مصدر)

مَنَاجِب - آدمیوں کے کندھے۔ (جمع۔ واحد منکب ہے)

مَنَام - خواب۔ سونا۔ (اسم مصدر)

مُنْبَث - پراگندہ ہونے والا۔ اڑتا ہوا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُنْتَشِر - بکھیرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
مُنْتَصِر - بدلہ لینے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر) (جمع منتصرین ہے)

مُنْتَظِرُونَ - انتظار کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت رفعی۔ واحد منتظر ہے)

مُنْتَقِمُونَ - بدلہ لینے والا۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت رفعی۔ واحد منتقم ہے)

مُنْتَهَى - انتہا کیا ہوا۔ تمام کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر۔ مصدر)

مُنْتَهُوْنَ - باز رہنے والے۔ آخر کو پہنچنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت رفعی)

مُنْتُوْر - بکھرے ہوئے موتی۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُنْجُوْ - نجات دینے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ اصل میں مُنْجُوْنَ تھا۔ اضافت کی وجہ سے "ن" گر گیا ہے)

مُنْحَبِقَةٌ - گلا گھونٹی ہوئی۔ گلا کھونٹنے سے مری ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)

مَنْ ذَا - کون ہے وہ۔ (اسم استفہام)

مُنْدِر - ڈرانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
مُنْدِرُونَ - ڈرانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت رفعی)

مُنْدِرِينَ - ڈرائے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)

مُنْزِل - اتارنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
مُنْزِلٌ - تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُنْزِلٌ - اتارنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)
مُنْزِلُونَ - اتارنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت رفعی)

مُنْزِلِينَ - اتارنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)

مُنْزِلِينَ - اتارے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر بحالت نصی و جری)

مِنْسَاةٌ - عشا۔ چھڑی۔ (اسم آلہ)

مِنْسَفٌ - سوپ۔ چھلنی اور چھاج۔ غلہ صاف کرنے کی چیز۔ (اسم آلہ)

مِنْسَكٌ - حاجی جہاں قربانی کرتے ہیں۔ عبادت کا طریقہ۔ (اسم واحد) (جمع مناسک ہے) (اسم مکان)

مِنْسِيٌّ - بھلایا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)
مِنْشَاتٌ - بادبان والی کشتیاں۔ (اسم مفعول۔ جمع مونث)

(جمع مونث)

مُنَشِّئُونَ = پیدا کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُنْقَطِرٌ = پھیننے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُنْفِقُونَ = خرچ کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُنشَّرَةٌ = کھلی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)

مُنْفَكِّينَ = جدا ہونے والے۔ اپنی راہ و رسم سے باز آنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی جری)

مُنشَرِينِ = اٹھائے ہوئے۔ زندہ کئے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر)

مُنْقُوشٌ = زھٹا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُنشُورٌ = کھلا ہوا۔ پھیلایا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُنْقَعِرٌ = جڑ سے اکھڑنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مَنْصُورٌ = مدد کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر۔ جمع مَنْصُورُونَ ہے)

مُنْقَلَبٌ = پھیرا ہوا۔ لوٹنے کی جگہ۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر) (طرف مکان)

مَنْصُورُونَ = مدد کئے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر۔ بحالت رفعی)

مُنْقَلِبُونَ = پھرنے والے۔ لوٹنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مَنْصُودٌ = پر = جمایا ہوا۔ گھٹا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَنْقُوضٌ = کم کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَنْطِقٌ = بولی۔ بات۔ (صدر)

مُنْكَرٌ = بری بات۔ برا کام۔ برائی۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَنْطِقُ الطَّيْرِ = پرندوں کی بولی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان عَلَیْهِ السَّلَام کو تعلیم فرمائی تھی۔

مُنْكَرَةٌ = انکار کرنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

(مرکب اضافی)

مُنْكَرُونَ = انکار کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر) (واحد منکر ہے)

مُنْظَرُونَ = مہلت دیئے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر۔ بحالت رفعی) (واحد منظر ہے)

مُنْكَرُونَ = غیر معلوم۔ نہ پہچانے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر)

مُنْظَرِينَ = مہلت دیئے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ بحالت نصی و جری)

مَنْتًا = ہم نے احسان کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

مَنْعٌ = اس نے پھیر رکھا۔ روک رکھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

مَنْوَع = منع کرنے والا۔ بخیل۔ (اسم فاعل)۔
واحد مذکر۔ مبالغہ)

مَوَاقِعِ النَّجُوم = تارے گرنے کی جگہ۔

آیات اترنے کی جگہ۔ یعنی پیغمبروں کے ول۔

مَنْوُن = موت۔ زمانہ۔

(مرکب اضافی۔ اسم ظرف۔ واحد مَوْقِع)

رَيْبَ الْمَنْوُن = گردش روزگار۔ زمانہ۔

مَوَاقِعُوعُوا = گرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع)

(مرکب اضافی)

مذکر۔ واحد مَوَاقِع)

مِنْهَاج = سیدھی راہ۔ (اسم واحد) (جمع)

مَوَاقِبَت = اوقات۔ (جمع۔ واحد مِيقَات ہے۔

مناہج ہے)

اسم ظرف)

مُنْهَمِر = بارش کا ریلا۔ بہت برسنے والا۔

مَوَّئِل = پھرنے کی جگہ۔ (اسم ظرف مکان۔

اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مصدر)

مَنِي = منی۔ نطفہ۔ مرد کا پانی۔

مَوَالِي = ورشہ۔ دوست۔ آزاد شدہ غلام۔ (اسم

مُنِيْب = اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ (اسم

جمع) (واحد مَوْلِي ہے)

فاعل۔ واحد مذکر)

مَوءٌ وَدَّة = زندہ درگور کی ہوئی لڑکی۔ (اسم

مُنِيْبِيْنَ = رجوع کرنے والے۔ (اسم فاعل۔

مفعول۔ واحد مَوئَث)

جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)

مَوْتَةٌ = ایک بار مرنا۔ (مصدر)

مُنِير = روشن۔ چمکنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد

مَوْبِق = ہلاکی کی جگہ۔ (اسم ظرف مکان۔ جمع

م - و

مَوَابِق)

مَوْت = مرنا۔ (مصدر)

مَوَاخِر = پانی میں چلنے والیاں۔ پانی پھاڑنے

و الْمَوْتُوْن = دینے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

والی کشتیاں۔ (جمع مَوئَث۔ واحد مَآخِرَة)

مذکر)

مَوَازِيْن = ترازو۔ وزن کے آلات۔ (جمع۔

مَوْتِي = مروے۔ (جمع۔ واحد مِيت ہے)

واحد میزان ہے۔ اسم مفعول۔ جمع مذکر۔ اسم آلہ)

مَوْتِفِكَات = الٹی ہوئی بستیاں۔ قوم لوط عَلَيْهِ السَّلَام

مَوَاضِع = رکھنے کی جگہیں۔ (جمع۔ واحد

کی بستیوں کا نام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کثرت

موضع ہے)

گناہ کے باعث اوندھا کر دیا۔ (اسم مفعول۔ جمع)

مَوَاطِن = مقامات۔ (اسم ظرف مکان۔ واحد

مُؤْتَفِكَةٌ - الٹی ہوئی بستی۔ (اسم مفعول)
واحد مونث)

مُؤْتَوًّا - تم مرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

مُؤْتِقٌ - عمدو بیان۔ (اسم ظرف۔ مصدر)

مُؤْجٌ - پانی کی لہر۔ (اسم واحد) (جمع امواج ہے)

مُؤْجَلٌ - وعدہ کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُؤَدَّةٌ - محبت۔ دوستی۔ کسی چیز کا چاہنا۔

مُؤَدِّنٌ - اذان دینے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُؤَرٌ - ہلنا۔ کانپنا۔ (مصدر)

مُؤْرُودٌ - وارد کیا ہوا۔ اترا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُؤْرِيَاتٌ - آگ پتھر سے نکالنے والیاں۔ (گھوڑوں کی صفت ہے کہ ان کے سموں سے

آگ نکلتی ہے) (اسم فاعل۔ جمع مونث۔ واحد مؤرِيَةٌ)

مُؤْرُوزٌ - تو ہوا۔ درست۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُؤْسِيٌ - ایک عظیم الشان پیغمبر کا نام ہے۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوہ

طور پر باتیں کرتے تھے ان پر توریت نازل ہوئی ان کی امت کو یہود کہتے ہیں ”موسیٰ“ نام رکھتے

کی وجہ یہ ہے کہ جب آل فرعون نے آپ کو عین الشمس میں درخت کے نیچے پایا موسیٰ نام رکھا۔ کیونکہ قبیلی زبان میں ”مو“ بمعنی پانی ”سا“ بمعنی درخت ہے۔ (اسم علم)

مُؤْسِعٌ - فراخی کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُؤْسِعُونَ - فراخی کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت رفعی)

مُؤْصِيٌ - وصیت کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مُؤْصِدَةٌ - موندی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)

مُؤْضُوعَةٌ - سلیقہ سے رکھی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)

مُؤْضُؤِنَةٌ - جواہر سے جڑی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد مونث)

مُؤْطِيٌ - چلنے کی جگہ۔ (اسم ظرف مکان)

مُؤْعِدٌ - وعدہ کی جگہ۔ وعدہ کا وقت۔ (اسم مکان)

مُؤْعِدَةٌ - وعدہ۔ (اسم واحد)

مُؤْعِظَةٌ - نصیحت۔ نصیحت کرنا۔ جس میں مخاطب کو ڈرایا جائے۔ (واحد۔ جمع مواعظ ہے)

مُؤْعُوْدٌ - وعدہ کیا ہوا۔ مراد قیامت کا دن۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مُوَلَّىٰ = پیٹھ پھیرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد

مذکر

مُؤْمِن = ایمان لانے والا۔ امن دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔ (اسم صفت)

مُؤْمِنَةٌ = ایمان لانے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد

مؤنث) (جمع مُؤْمِنَات ہے)

مُؤْمِنُونَ = ایمان لانے والے۔ (اسم فاعل۔

جمع مذکر۔ بحالت رفقی)

مُؤْمِنِينَ = ایمان لانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر۔ بحالت نصی و جری)

مُؤْمِنٍ = ست کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد

مذکر

م - ہ

مُهَاجِرٌ = ہجرت کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد

مذکر

مُهَاجِرَات = ہجرت کرنے والیاں۔ (اسم

فاعل۔ جمع مؤنث)

مُهَاجِرِينَ = ہجرت کرنے والے۔ (اسم فاعل۔

جمع مذکر

مِهَاد = فرش۔ بچھونے۔ (جمع۔ واحد مہد ہے)

مُهَان = خوار کیا گیا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر

مُهْتَدٍ = راہ پانے والا (اسم فاعل۔ واحد مذکر

مُهْتَدِينَ = راہ پانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مُوَفَّقٌ = خوب پورا دینے والا۔ (اسم مبالغہ۔

اصل میں مُوَفَّقُونَ تھا۔ بوجہ اضافت ”ن“ گر گیا۔)

مُوَفَّقٌ = پورا کیا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد

مذکر

مُوَفَّقُونَ = پورا کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر

مُوَفَّقَةٌ = آگ سلگائی ہوئی۔ (اسم مفعول۔

واحد مؤنث)

مُوَفَّقُونَ = یقین کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر

مَوْقُوتٌ = وقت مقرر کیا گیا۔ معین کیا ہوا۔

(اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَوْقُودَةٌ = چوٹ سے مرا ہوا جانور۔ (اس کا

کھانا حرام ہے) (اسم مفعول۔ واحد مؤنث)

مَوْقُوفُونَ = کھڑے کئے ہوئے۔ (اسم مفعول۔

جمع مذکر

مَوْلَىٰ = دوست۔ آزاد ہونے والا۔ یعنی مالک

کا آزاد کیا ہوا، یعنی غلام۔ (اسم فاعل۔ واحد

مذکر) (جمع موالی ہے)

مُؤَلَّفَةٌ = الفت کی ہوئی۔ (اسم مفعول۔ واحد

مؤنث)

مَوْلُودٌ = جنا ہوا۔ یعنی لڑکا جنمے کا وقت یا

جگہ۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)



مَهْمَا = جب کبھی۔ جب۔ (شرط کے معنی دیتا ہے) (اسم شرط)
 مَهِيل = چھتری۔ بھر بھری ریت کا ٹیلہ۔ (اسم مکان)

مُهَيِّمِن = گواہ۔ پناہ میں لینے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر۔ اللہ تعالیٰ کا اسم صفت)
 مُهَيِّن = ذلیل کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

مِهِين = ذلیل و خوار۔ حقیر۔ (صفت مشبہ۔ واحد مذکر)
 مَاءٌ مَهِينٌ = حقیر پانی۔ نطفہ۔ (مربک تو صیغی)

م-ی

مَيِّت = مردہ۔ مرا ہوا۔ (جمع اموات)
 مَيِّتٌ = مرنے والا۔ (اسم فاعل۔ جمع مؤنثی ہے)
 مَيِّتَةٌ = مردہ جانور۔ مردار۔ طبعی موت مرنے والا جانور۔ (اسم واحد)

مَيِّتُونَ = مرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)
 مَيْسَاقٌ = پختہ عمد۔ قول و قرار۔ (اسم آلہ و مصدر۔ جمع مؤنثی)

مِيْرَاثٌ = مال۔ مالِ مردہ۔ پیچھے چھوڑا ہوا مال۔ (اسم واحد) (جمع موارث ہے)
 مِيْرَانٌ = ترازو۔ آلہ وزن۔ (جمع موازن ہے)

مَذَكْر۔ بحالت نصی و جری)
 مُهْتَدُونَ = راہ پانے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت رفعی)
 مَهْجُوْرٌ = چھوڑا ہوا۔ ناق۔ بیہودہ۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)

مَهْدٌ = بچھونا۔ زمین۔ (جمع۔ واحد مہاد ہے)
 مَهْدُتٌ = میں نے تیار کیا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

مَهْرُومٌ = بھگایا ہوا۔ (اسم مفعول۔ واحد مذکر)
 مُهْطِعِيْنَ = دوڑتے آنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ واحد مہطع ہے)

مُهْلٌ = تاجا۔ پیپ۔ کھلا ہوا۔
 مَهْلٌ = تو سہلت دے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

مَهْلِكٌ = خراب ہونا۔ (مصدر)
 مُهْلِكُونَ = ہلاک کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُهْلِكِيْنَ = ہلاک کرنے والے مرد۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

مُهْلِكُوا = ہلاک کرنے والے۔ ("ن" بوجہ اضافت گر گیا۔)

مُهْلِكِيْنَ = ہلاک کئے ہوئے۔ (اسم مفعول۔ جمع مذکر)

مُهْلِكِيٌّ = ہلاک کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری۔ سقوط "ن")

مَيْسِر = جو- جو اٹھینا- (مصدر)

مَيْسِرَةٌ = آسانی- کشائش-

مَيْسُور = آسان- آسان ہوتا- (اسم مفعول-

واحد مذکر

مَيْعَاد = وعدہ کرتا- وعدہ کی جگہ- وعدہ کا

وقت- (جمع مَوَاعِيد - اسم ظرف مکان)

مِيقَات = وقت مقرر- جگہ مقرر- (اسم واحد)

(جمع مَوَاقِيت ہے)

مِيكَال = فرشتہ کا نام جو بارش برساتا ہے-

حَفْص اور نَافِع نے مِيكَال اور مِيكَال پڑھا ہے-

(اسم علم)

مَيْل = ٹیڑھا ہوتا- ظلم کرتا- (مصدر)

مَيْلَةٌ = ایک بار جھکنا- حملہ کرتا- (مصدر)

مَيْمَنَةٌ = مبارکی- داہنی طرف- (اسم ظرف)

أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ = جنتی لوگ- (مربک

اضافی)

أَصْحَابُ الْيَمِينِ = جنتی لوگ- (مربک

اضافی)



(ن)

أَعَجَبَنِي اس نے مجھ کو تعجب میں ڈالا-

نَا = ہم- ہم کو- ہمیں- (ضمیر جمع متکلم-

ضمیر منصوب مجرور)

نَاءٌ = دور ہوا- (ماضی- واحد مذکر غائب)

نَائِمٌ = سونے والا- (اسم فاعل- جمع نَائِمُونَ

ہے)

نَائِمُونَ = سونے والے- (اسم فاعل- جمع

مذکر

نَأَتْ = ہم لے آئیں- ہم لاتے ہیں-

(مضارع- جمع متکلم- سقوط "ی")

نُؤْتِي = ہم دیتے ہیں- ہم دیں گے-

ن-ا

۱- "ن" تانیث یا "ن" ضمیر-

۲- "ن" زائدہ جو مضارع کے ساتھ آتا ہے-

ن = تینوں پر نون ساکنہ زائدہ اس کے آخر

میں آتا ہے-

ن- حروف مقطعات- دوات اور مچھلی-

ن = تاکید ثقیلہ یا ن خفیفہ- بمعنی تاکید جیسے

يَفْعَلَنَّ يَا يَفْعَلَنَّ وہ ضرور کرے گا-

ن = وقایہ کے کچھ معنی نہیں ہوتے محض

ماقبل کی حرکت کی حفاظت کرتا ہے جیسے

(مضارع- جمع متکلم)

نُوْتِي - ہم دیئے جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔

جمع متکلم)

(ال) نَأْتِيَنَّ = ہم ضرور دیں گے۔ (مضارع۔

جمع متکلم۔ بلام تاکید نون ثقلیہ)

(لَنْ) نُوْتُوْا - ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔

(فعل مضارع۔ منفی ملن۔ جمع متکلم)

نَاج - بچنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر

نَاجِيْتُمْ - تم نے سرگوشی کی۔ (ماضی۔ جمع

مذکر حاضر)

نَأْخُذُ - ہم لیتے ہیں۔ ہم پکڑیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

نُوْتِيُوْا - ہم موخر کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع

متکلم)

نَادَى - اس نے پکارا۔ بلایا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

نَادَتْ - اس نے بلایا۔ (ماضی۔ واحد مؤنث

غائب)

نَادِيْمِيْنَ - پشیمان ہونے والے۔ (اسم فاعل۔

جمع مذکر)

نَادَوْا - انہوں نے بلایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

نَادَوْا - تم پکارو۔ (امر جمع مذکر حاضر)

نَادَى - مجلس۔ دوست۔ (اسم فاعل۔ واحد

نَادَيْتُمْ - تم نے بلایا۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

نَادَيْتَنَا - ہم نے پکارا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

نَار - آگ۔ (اسم واحد) (جنم کی آگ دنیا کی

آگ سے ستر ہزار گنا زیادہ ہے اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا)

نَارِعَات - کھینچنے والے۔ جان نکالنے والے۔

مراد وہ فرشتے جو کافروں کی جان نکالتے ہیں۔

(اسم فاعل۔ جمع مؤنث)

(ال) نَاس = انسان۔ آدمی۔ (جمع۔ واحد اِنْسَانٌ

ہے۔ اَلنَّاسُ اصل میں اُنَّاسٌ تھا۔ ہمزہ کو حذف

کر کے لام تعریف داخل کیا۔)

نَاسِكُوْا = قربانی کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مذکر)

نَاشِئَةٌ - نماز تہجد۔ رات کو اٹھنا۔ (مصدر)

نَاشِرَات - پر اُگندہ کرنے والی ہوائیں۔ پانی

جو روئیدگی کو پر اُگندہ کرتا ہے۔ (اسم فاعل۔ جمع

مؤنث)

نَاشِطَات - بند کھولنے والے۔ فرشتے۔ جان

نکالنے والے۔ مراد رحمت کے فرشتے جو مومن

کی جان نکالتے ہیں۔ (اسم فاعل۔ جمع مؤنث)

نَاصِبَةٌ - کھڑا کرنے والی۔ محنت کرنے والی۔

(اسم فاعل۔ واحد مؤنث)

نَاصِح - نصیحت کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد

مذکر)

نَاصِحُوْنَ - نصیحت کرنے والے۔ (اسم

فاعل۔ جمع مذکر

نَاصِرٌ = مدد کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد
مذکر۔ جمع نَاصِرُونَ ہے)

نَاصِرِينَ = مدد کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع
مذکر)

نَاصِيَةٌ = پیشانی کے بال۔ چوٹی۔ (اسم
واحد) (جمع نَوَاصِيَةٌ ہے)

نَاصِرَةٌ = تروتازہ۔ باروتق۔ (اسم فاعل۔ واحد
مونث)

نَاطِرَةٌ = دیکھنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)
نَاطِرِينَ = دیکھنے والے۔ (جمع۔ واحد نَاطِرٌ

ہے)
نَاعِمَةٌ = آسائش کرنے والی۔ آسودہ۔ تروتازہ۔
(اسم فاعل۔ واحد مونث)

نَافِقُونَ = وہ منافق ہوئے۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)

نَافِلَةٌ = زیادہ۔ انعام۔ (اسم فاعل۔ واحد
مونث۔ جمع نوافل ہے)

نَاقَةٌ = اونٹنی۔ (واحد۔ جمع نُوُقٌ ہے)
نَاقَةُ اللَّهِ = اللہ کی اونٹنی جو حضرت صالح

ﷺ کے معجزے سے پہاڑ سے نکل تھی اس میں
اضافت تشریحی ہے۔ (مرکب اضافی)

نَاقُورٌ = نقارہ۔ صور اسرائیل۔
نَاكِبُونَ = ٹیڑھے ہونے والے۔ (اسم فاعل۔

جمع مذکر

نَاكِسُونَ = سر اوندھا کرنے والے۔ (اسم
فاعل۔ جمع مذکر۔ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا

ہے)
نَاكُلٌ = ہم کھاتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَاهُونَ = منع کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع
مذکر)

ن - ب

نَبَأٌ = اس نے خبردار کیا۔ (ماضی واحد مذکر
غائب)

نَبَأٌ = خبر۔ واقعہ۔ (جمع أَنْبَاءٌ)
نَبَأٌ عَظِيمٌ = بڑی خبر یعنی قیامت۔ (مرکب
توصیفی)

نَبِئٌ = خبر
نَبِيٌّ = تو خبر کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

نَبَّأْتُ = اس نے ظاہر کیا۔ خبر کر دی۔ (ماضی۔
واحد مونث غائب)

نَبَّأْتُ = میں نے خبردار کیا۔ (ماضی۔ واحد
متکلم)

نَبَاتٌ = گھاس۔ جڑی بوٹیاں۔ (واحد۔ جمع
نباتات ہے)

نَبِئُوا = تم خبر کرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

نَبْتَعِيٌّ = ہم طلب کرتے ہیں یا کریں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

نَبِطُشُ = ہم سخت پکڑتے ہیں یا پکڑیں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

(لَا) نَبْتَغِيْ = ہم نہیں چاہتے۔ ہم نہیں پسند

نَبَعْتُ = ہم بھیجتے ہیں یا بھیجیں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

نَبْتَلِيْ = ہم جانچتے ہیں یا جانچیں گے۔

نَبَغِيْ = ہم چاہتے ہیں یا چاہیں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

نَبْتَهِلْ = ہم دعا اور زاری کریں

نَبَلُوْا = ہم جانچتے ہیں یا جانچیں گے۔ ہم

(مضارع- جمع متکلم)

نُبَدِّلْ = ہم بدل دیتے ہیں۔ ہم بدل دیں

آزماتے ہیں یا آزمائیں گے (مضارع- جمع متکلم)

(لَا) نَبْلُوْنَ = البتہ ہم ضرور آزمائیں گے۔

نَبَذَ = اس نے پھینکا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

(مضارع- جمع متکلم- لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ)

نُبَوِّئُ = ہم جگہ دیتے ہیں یا دیں گے۔

نُبَذَ = وہ پھینکا گیا۔ (ماضی مجہول- واحد

(مضارع- جمع متکلم)

(لَا) نُؤَيِّنَنَّ = البتہ ہم ضرور جگہ دیں گے۔

مذکر غائب)

(مضارع- جمع متکلم- لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ)

نُبُوَّةٌ = پیغمبری۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے

نَبَذْتُ = اس نے پھینکا۔ (ماضی- واحد مؤنث

بندوں کو پیغام پہنچانا۔ (اسم مصدر)

نَبِيٌّ = پیغمبر یعنی حشر نضر اور معاد سے خبر

غائب)

دینے والا۔ (اسم واحد) (جمع انبیاء ہے)

(لَا) نُؤَيِّنَنَّ = ہم رات کریں گے۔ ہم شب

نَبَوُّوا = انہوں نے پھینکا۔ (ماضی- جمع مذکر

خون کریں گے۔ (مضارع- جمع متکلم)

نَبِيَّتِيْنَ = پیغمبر۔ (اسم جمع) (واحد نَبِيٌّ ہے۔

غائب)

بحالت نصی و جری)

نَبِيُّوْنَ = پیغمبر (جمع- واحد نبی ہے۔ بحالت

نُبَشِّرُوْا = ہم خوشخبری دیتے ہیں یا دیں گے۔

رفعی)

(مضارع- جمع متکلم)

نُبَيِّنُ = ہم بیان کرتے ہیں یا بیان کریں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

ن-ت

نُبِغَ = ہم پیچھے لاتے ہیں۔ ہم بعد میں لاتے ہیں۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

نَتَّبِعُ = ہم پیچھے جاتے ہیں۔ پیروی کرتے ہیں۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نَتَبَّرُ = ہم بے زار ہو جائیں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَتَبَوُّا = ہم جگہ پھرتے ہیں یا پھریں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نَتَجَاوَزُ = ہم معاف کرتے ہیں یا کریں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَتَّخِذُ = ہم اختیار کریں گے۔ ہم بنا لیں۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

(أَل) نَتَّخِذَنَّ = ہم ضرور بنائیں گے۔ (جمع متکلم۔ منصوب بالام نو تاکید ثقیلہ)

نَتَّخِطُفُ = ہم اچک لئے جاتے ہیں یا اچک لے جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع متکلم)

نَتَرَبَّصُ = ہم انتظار کرتے ہیں یا کریں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نَتْرُكُ = ہم چھوڑتے ہیں یا چھوڑیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم۔ منصوب بہ أَنْ) نَتَقَبَّلُ = ہم قبول کرتے ہیں یا کریں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَتَقَفْنَا = ہم نے اٹھایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

نَتَكَلَّمُ = ہم بات کرتے ہیں یا بات کریں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم۔ منصوب)

نَتَلَوُّ = ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نَتَنَزِّلُ = ہم اترتے ہیں یا اتریں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نَتَوَفِّيَنَّ = ہم ضرور وفات دیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم۔ بانون ثقیلہ)

نَتَوَكَّلُ = ہم اللہ پر ہی بھروسا کرتے ہیں یا اللہ پر ہی بھروسا کریں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

ن-ث

نُثَبِتُ = ہم ثابت رکھتے ہیں یا رکھیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

ن-ج

نَجَّجَ = تو نجات دے۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

نَجَّجِي = اس نے نجات پائی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

نَجُوِي - اس نے نجات دی۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

نَجِيٌّ - ہم راز۔ (صفت شبہ)

نَجَاتٍ - بچاؤ۔ (مصدر)

نُجَاوِيٌّ - ہم بدلہ دیتے ہیں یا دیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نُجِبٌ - ہم جواب دیتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع
متکلم مجزوم)

اَلْمَ نَجِدُ - ہم نے نہیں پایا (نفی جمد۔ جمع
متکلم)

نَجْدٌ - گھاٹی۔ وہ ملک عرب جو حجاز و عراق
اور بصرہ و مکہ کے درمیان ہے اس کی زمین حجاز

و یمامہ کے بہ نسبت بلند ہے۔ (اسم مکان و علم)
نَجْدِيْنِ - دو گھاٹیاں۔ مراد دونوں چھاتیاں یا

کفر و ایمان۔ (اسم مکان)

اَلنَّجْوِيْنَ - ہم ضرور بدلہ دیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم۔ بلاام تاکید و نون ثقیلہ)

نَجْوِيٌّ - ہم بدلہ دیتے ہیں یا دیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نَجَسٌ - ناپاک۔ نجاست۔ گندگی۔

اَلنَّجْعَلُ - ہم ہرگز نہیں کریں گے۔
(نفی موکد بلن نامیہ۔ جمع متکلم)

نَجْعَلُ - ہم بنا دیں گے۔ (مضارع۔ جمع
متکلم)

نَجْمٌ = ستارہ۔ گھاس کہ زمین پر پھیلی۔ (اسم
واحد) (جمع نجوم ہے)

نَجْمَعٌ = ہم جمع کرتے ہیں یا کریں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نَجِيْنِيٌّ = مجھ کو نجات دے۔ (امر۔ واحد مذکر
حاضر)

نَجْوِيٌّ = مشورہ۔ سرگوشی۔ (اسم مصدر)

نَجْوَةٌ = تو نے خلاصی پائی۔ (ماضی۔ واحد
مذکر حاضر)

نُجُوْمٌ = گھاس نکلتا۔ تارے۔ (جمع۔ واحد نُجْمٌ
ہے)

نُجِيٌّ = وہ بچایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد
مذکر غائب)

نَجِيْنًا = ہم نے بچایا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ن-ح

نَحَّاسٌ = تانبا۔ آگ بغیر دھواں کے۔ (اسم
واحد)

نَحْبٌ = نذر۔ ذمہ۔ عمدہ۔ حصہ۔ (مصدر)

اَلنَّحْرَقَنَّ - ہم ضرور جلا دیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم۔ بلاام و نون تاکید ثقیلہ)

نَحْسٌ = نحوست۔ (مصدر)

نَحْسَاتٌ = برے۔ (صفت شبہ۔ جمع مونث۔
واحد ناحس ہے)

نَحْتِمُ = ہم مہر کرتے ہیں یا کریں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نَحْرَةٌ = گلی ہوئی ہڈی۔ بوسیدہ ہڈی۔ (صفت
شبہ)

نُخِرُجُ = ہم نکالیں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

(ال) نُخْرِجَنَّ = ہم ضرور نکالیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم۔ بلاام و نون تاکید ثقیلہ)

(ال) نَخْرِجَنَّ = ہم ضرور نکلیں گے۔ (جمع
متکلم بانون تاکید و لام تاکید)

نَخْرُزِي = ہم رسوا ہوں گے۔ (مضارع۔ جمع
متکلم)

نَخْسِفُ = ہم زمین میں دھنسا دیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نَخْشِي = ہم ڈرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع
متکلم)

نُخْفِي = ہم چھپاتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع
متکلم)

نَخْلٌ = کھجور۔ کھجور کے درخت۔ (جمع۔ واحد
نَخْلَةٌ ہے)

نَخْلَةٌ = کھجور کا ایک درخت۔ (اسم واحد
جمع نَخْلٌ نَخِيلٌ ہے)

نُخْلِفُ = ہم خلاف کریں گے۔ (مضارع۔ جمع
متکلم)

(لَمْ) نَخْلُقُ = ہم نے پیدا نہیں کیا۔

أَيَّامَ نَحِسَاتٍ = قوم عاد کے عذاب کے
دن۔ (مرکب تومینفی)

نَحْشُرُ = ہم جمع کرتے ہیں یا کریں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

(ال) نَحْشُرَنَّ = ہم ضرور اکٹھا کریں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم بلاام و نون تاکید)

(ال) نُحْضِرَنَّ = ہم ضرور سامنے لائیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم۔ بلاام نون تاکید ثقیلہ)

نَحْفِظُ = ہم حفاظت کرتے ہیں یا کریں
گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَحْلُ = شد کی مکھی۔ (اسم۔ اسم جنس)
نَحْلَةٌ = مہر قرض حسد' جو خوشی سے دیا
جائے۔

نَحْمِلُ = ہم اٹھاتے ہیں یا اٹھائیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نَحْنُ = ہم۔ (ضمیر مرفوع منفصل۔ جمع متکلم)

نَحْيُ = ہم زندہ رہتے ہیں یا رہیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نُحْيِي = ہم زندہ کرتے ہیں یا کریں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

ن-خ

نَخَافُ = ہم ڈرتے ہیں یا ڈریں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نَدُّلٌ = ہم راہ بتاتے ہیں یا بتائیں گے۔
(مضارع- جمع متکلم)
نَدِيَّتًا = مجلس۔

ن-ذ

نَذْرٌ = منت- عمدہ۔
نَذْرٌ = ڈرانا- (اسم مصدر)
نَذْرٌ = ڈرانے والے- (جمع- واحد نذیر ہے)
نَذْرٌ = ہم چھوڑتے ہیں- (مضارع- جمع متکلم)
نَذْرَتٌ = میں نے عمدہ کیا- میں نے منت
مانی- (ماضی- واحد متکلم)
نَذَرْتُمْ = تم نے منت مانی- (ماضی- جمع مذکر
حاضر)
نَذِقٌ = ہم چکھاتے ہیں یا چکھائیں گے۔
(مضارع مجزوم- جمع متکلم)
نَذْكُورٌ = ہم یاد کرتے ہیں یا کریں گے۔
(مضارع- جمع متکلم)
نَذِيْلٌ = ہم خوار ہوتے ہیں- ہم خوار ہوں
گے۔ (مضارع- جمع متکلم)
نَذْوَرٌ = منتیں- (جمع- واحد نذر ہے)
(ل) نَذْهَبَنَّ = ہم ضرور لے جائیں گے۔
(مضارع- جمع متکلم- بالام و نون تاکید ثقیلہ)
نَذْهَبَنَّ = ہم لے جائیں گے۔ (مضارع- جمع
متکلم- بانون تاکید ثقیلہ)

(مضارع- جمع متکلم- نفی مجد بلہ)
(كُنَّا) نَحْوُصٌ = ہم بے فائدہ بحث کرتے
تھے۔ (مضارع- جمع متکلم)
نُحَوِّفٌ = ہم ڈراتے ہیں۔ (مضارع- جمع
متکلم)
نَحِيْلٌ = کھجور کے درخت- (اسم جمع- واحد
نخل ہے)

ن-د

نِدَاءٌ = پکارنا- (مصدر)
نِدَامَةٌ = پشیمانی- (مصدر)
نُدَاوِلٌ = ہم پھیرتے رہتے ہیں یا پھیرتے
رہیں گے۔ ہم بدلتے ہیں یا بدلتے رہیں گے۔
(مضارع- جمع متکلم)
(لن) نُدْخِلَنَّ = ہم ہرگز داخل نہیں ہوں
گے۔ (مضارع- جمع متکلم- نفی موکد بلن)
(ل) نُدْخِلَنَّ = ہم ضرور داخل کریں گے۔
(مضارع- جمع متکلم- لام تاکید و نون ثقیلہ)
نُدْخِلُ = ہم داخل کرتے ہیں یا کریں گے۔
(مضارع- جمع متکلم)
نُدْرِيٌّ = ہم جانتے ہیں یا جائیں گے۔
(مضارع- جمع متکلم)
نُدْعُوْا = ہم بلاتے ہیں یا بلائیں گے۔
(مضارع- جمع متکلم)

نَذِيرٌ = ڈرانے والا۔ (اسم واحد۔ جمع نذیر ہے)
نَذِيقٌ = ہم چکھاتے ہیں یا چکھائیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نُورِي = ہم دکھاتے ہیں یا دکھائیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نُورِدُ = ہم چاہتے ہیں یا چاہیں گے۔ (مضارع۔
جمع متکلم)

نُورِيقٌ = ہم ضرور دکھلا دیں گے۔ (مضارع)
جمع متکلم۔ بانون ثقیلہ)

ن-ز

نَزَاعَةٌ = کھینچ لینے والی۔ (اسم مبالغہ)

نَزِدُ = ہم بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں گے۔
(مضارع مجزوم۔ جمع متکلم)

نَزْدَادٌ = ہم زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ لائیں
گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَزَعٌ = اس نے نکالا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)
نَزَعْنَا = ہم نے نکالا۔ ہم نے کھینچا۔ (مضارع۔
جمع متکلم)

نَزَعٌ = ورغلانا۔ فتنہ اٹھانا۔ (مصدر)
نَزَعٌ = اس نے فتنہ میں ڈالا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

نَزَلٌ = مسمانی
نَزَلَ = وہ اترا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

نَزَلَ = اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔

نُورِي = ہم دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھ لیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نُورِدُ = ہم آمادہ کریں گے۔ ہم پھسلائیں
گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نُورِيقٌ = ہم نے نہیں پالا۔ (مضارع۔ جمع
متکلم۔ نفی جمد)

نُورِثُ = ہم وارث ہوتے ہیں۔ ہم وارث
ہوں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نُورِجْمَنٌ = ہم ضرور سنگسار کریں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم۔ بالام تاکید و نون ثقیلہ)

نُورِذٌ = ہم لوٹائے جاتے ہیں یا لوٹائے جائیں
گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نُورِزُقٌ = ہم روزی دیتے ہیں یا دیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نُورِيسَلَنٌ = ہم ضرور بھیجیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم۔ بانون تاکید و نون ثقیلہ)

نُورِيسَلٌ = ہم بھیجتے ہیں یا بھیجیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نُورِفَعٌ = ہم بلند کرتے ہیں۔ ہم بلند کریں

(ماضی- واحد نکرغائب)

نُزِّلَ = وہ اتارا گیا۔ (ماضی مجہول- واحد

نکرغائب)

نُزِّلَةٌ = ایک بار اترنا۔ (مصدر- اسم مرہ)

نُزِّلْتُ = وہ اتاری گئی۔ (ماضی مجہول- واحد

مونث غائب)

نُزِّلْنَا = ہم نے آہستہ آہستہ اتارا۔ (ماضی- جمع

متکلم)

نُزِّدُ = ہم بڑھاتے ہیں یا بڑھائیں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

ن - س

نِسَاءٌ = عورتیں۔ (جمع- واحد امرأۃ ہے۔

خلاف قیاس)

نُسَارِعُ = ہم جلدی کرتے ہیں یا کریں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

نَسْتَلُ = ہم پوچھتے ہیں یا پوچھیں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

(لَا) نُسْتَلُ = ہم نہیں پوچھ جاتے۔ (فعل

نفی مجہول- جمع متکلم)

نَسَبٌ = قرابت۔ (اسم واحد) (جمع انساب

ہے)

نُسَبِّحُ = ہم پاکی بیان کرتے ہیں یا کریں

گے۔ (مضارع- جمع متکلم)

نَسْتَبِقُ = ہم سبقت کرتے ہیں یا کریں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

لَمْ نَسْتَحْوَذْ = ہم نے نہیں گھیرا۔ ہم نے

حفاظت میں نہیں لیا۔ (مضارع- جمع متکلم- نفی

جمہد)

نَسْتَحْضِي = ہم زندہ چھوڑتے ہیں یا

چھوڑیں گے۔ (مضارع- جمع متکلم)

نَسْتَدْرُجُ = ہم آہستہ آہستہ کھینچتے ہیں یا

کھینچیں گے۔ (مضارع- جمع متکلم)

نَسْتَعِينُ = ہم مدد چاہتے ہیں یا چاہیں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

نَسْتَسْبِغُ = ہم لکھواتے ہیں یا لکھوائیں

گے۔ (مضارع- جمع متکلم)

نَسْجُدُ = ہم سجدہ کرتے ہیں یا کریں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

نُسْخَةٌ = کتاب۔ لکھی ہوئی چیز۔ (اسم واحد)

(جمع نسخ ہے)

نَسْخُوْ = ہم مذاق کرتے ہیں یا کریں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

نَسْرٌ = بت کا نام ہے جس کو قوم نوح-

حضرت ادریس علیہ السلام کے بیٹے کی صورت یا

کرگس کی صورت بنا کر پوجتی تھی۔

نَسْفٌ = پھیلاؤ۔ اڑانا۔ (مصدر)

نَسِفْتُ = وہ ہوا پر اڑائی گئی۔ (ماضی مجہول-

واحد مونث غائب)

(ل) نَسْفَعَنَّ = ہم ضرور گھسیٹیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم۔ بلام تاکید و نون ثقیلہ)

نُسْقِطُ = ہم ساقط کرتے ہیں۔ ہم گرا دیں

گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

(لَا) نُسْقِيْ = ہم پانی نہیں پلاتے۔ (فعل نہی۔

جمع متکلم)

نُسْقِيْ = ہم پلاتے ہیں یا پلائیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

نُسْكُ = قربانیاں۔ (اسم جمع) (واحد نسيكة

ہے)

(ل) نُسْكِنَنَّ = ہم ضرور بادیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم۔ بلام تاکید و با نون ثقیلہ)

نَسْلُ = اولاد۔ جان۔ (اسم واحد) (جمع انسال

ہے)

نَسْلُخُ = ہم باہر کھینچتے ہیں یا کھینچیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

نَسْلُكُ = ہم چلاتے ہیں یا چلائیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

نُسْلِمُ = ہم فرمانبرداری کریں گے۔ ہم سلام

کرتے ہیں۔ ہم سلام کریں گے۔ (مضارع۔ جمع

متکلم)

نَسِيْمٌ = ہم داغ دیتے ہیں یا دیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

نَسْمَعُ = ہم سنتے ہیں یا سنیں گے۔ (مضارع۔

جمع متکلم)

نَسُوْا = وہ بھول گئے۔ انہوں نے بھلا دیا۔

(ماضی۔ جمع مذکر غائب)

نِسْوَةٌ = عورتیں۔ (جمع۔ واحد امرأة ہے)

نَسُوْقٌ = ہم چلاتے ہیں۔ ہم ہانکتے ہیں۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

نُسُوْیٌ = ہم برابر کرتے ہیں یا کریں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

نَسِيْ = بھولنا۔ (مصدر)

نَسِيْ = وہ بھولا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

نَسِيْ = وہ بھلایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد

مذکر غائب)

نَسِيْ = ادھار۔ ویر کرنا۔ پیچھے ہٹایا گیا۔ (اسم

مصدر) عربوں کی عادت تھی کہ حج کے مہینے کو

پیچھے ہٹا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع

فرمایا۔

نَسِيْ = بھول جانے والا۔ (صفت مشبہ)

نَسِيْنَا = وہ دونوں بھولے۔ (ماضی۔ تثنیہ

مذکر غائب) حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع علیہما السلام

نَسِيْنَا = بھولنا۔ (مصدر)

نَسِيْتٌ = تو بھولا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

نَسِيْتُ = میں بھولا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

نَسِيْتُمْ = تم بھولے۔ (ماضی۔ جمع مذکر حاضر)

نُسَيْتُو - ہم چلاتے ہیں۔ سیر کراتے ہیں۔
(مضارع۔ جمع متکلم)
نَسِيْنَا = ہم بھولے۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ن-ش

نَشَاءُ - ہم چاہتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)
نَشَأَةٌ - پیدا کرنا۔ (مصدر)
نَشْتَرِيْ - ہم خریدتے ہیں یا خریدیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)
نَشُدُّ = ہم مضبوط کرتے ہیں یا کریں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)
نَشْرُوْ = خوشبو پراگندہ کرنا۔ بکھیرنا۔ (مصدر)
نَشِرَتْ = وہ پراگندہ کی گئی۔ (ماضی مجہول)
واحد مونث غائب
(لَمْ) نَشْرُخْ - ہم نے کشادہ نہیں کیا۔
(مضارع۔ جمع متکلم۔ منفی جحد)
نَشْرِكْ = ہم شریک کرتے ہیں یا کریں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)
نَشْطُ = گرہ کھولنا۔ (مصدر)
نُشُوْر = زندہ ہونا۔ مرنے کے بعد جی اٹھنا۔
(مصدر)

يَوْمَ النُّشُوْرِ - قیامت کا دن۔ (مرکب اضافی)
نُشُوْرٌ = بد خوئی کرنا۔ عورت کا اپنے خاوند
سے کینہ رکھنا۔ مرد کا بیوی سے زیادتی کرنا۔ (اسم)

(مصدر)

نَشْهَدُ = ہم گواہی دیتے ہیں یا دیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

ن-ص

نَصَارِيْ = حضرت عیسیٰ ﷺ کی امت (جمع)۔
واحد نَصْرَانِيٌّ ہے)
نُصْبٌ - بت۔ پتھر کے تھان۔ جو چیز اللہ تعالیٰ
کے سوا پوجی جائے۔ (اسم واحد۔ جمع انصاب
ہے)
نَصَبٌ = رنج۔ تکلیف۔ (مصدر)
نُصِبْتُ = وہ کھڑی کی گئی۔ (ماضی مجہول)۔
واحد مونث غائب
(لَنْ) نَصِيْوٌ = ہم ہرگز نہیں مبر کریں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)
(اَلْ) نَصِيْرَةٌ = ہم ضرور ضرور مبر کریں
گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم۔ لام تاکید بانون تاکید
ثقیلہ)
نُصْحٌ = سمجھانا۔ نصیحت کرنا۔ (مصدر)
نُصْحْتُ = میں نے نصیحت کی۔ (ماضی۔ واحد
متکلم)
نَصَحُوْا - انہوں نے نصیحت کی۔ (ماضی۔ جمع
مذکر غائب)
(اَلْ) نَصَدَّقَنَّ = ہم ضرور ضرور خیرات کریں

نَصِير = مد کرنے والا۔ (اسم صفت۔ اسم
مبالغہ۔ واحد مذکر)

ن-ض

نَضَاحَتَان = دو جٹھے جوش مارتے ہوئے۔
(اسم تشبیہ) (واحد نضاخة ہے۔ بحالت رفقی۔
صیغہ مبالغہ)

نَضِجَتْ = وہ جل گئی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث
غائب)

نَضْرِبُ = ہم مارتے ہیں یا ماریں گے۔ ہم
بیان کرتے ہیں یا کریں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)
(أَفْ) نَضْرِبُ = کیا ہم پھیر دیں گے۔ (جبکہ
اس کا صلہ عن ہو۔)

نَضْرَةٌ = منہ کی تازگی۔ (مصدر)
نَضَطْرٌ = ہم لے جائیں گے۔ (مضارع۔ جمع
متکلم)

نَضَعُ = ہم رکھتے ہیں یا رکھیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نَضِيدٌ = تہ بہ تہ۔ (مصدر)
نُضِيعٌ = ہم نقصان کرتے ہیں۔ ہم ضائع
کریں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

ن-ط

گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم۔ لام تائید و نون ثقید)

نَصْرٌ = مد کرنا۔ (مصدر)

نَصَرَ = اس نے مد کی۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

نَصْرَانٌ = ملک شام میں ایک بستی ہے جس
میں نصاری رہتے تھے۔ (اسم ظرف مکان و علم)

نَصْرَانِيٌّ = نصران والے امت حضرت عیسی
ﷺ۔ (اسم واحد) (جمع نصاری ہے)

نَصْرِفٌ = ہم باز رکھتے ہیں یا رکھیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نُصْرِفٌ = ہم بار بار پھیرتے ہیں۔ ہم پھیر
پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَصْرْنَا = ہم نے مد کی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
نَصْرُوا = انہوں نے مد کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر
غائب)

نِصْفٌ = آدھا۔

نُصَلِيٌّ = ہم پہنچاتے ہیں۔ ہم داخل کریں
گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نِصْوَحٌ = خالص صاف۔ (صیغہ مبالغہ)

نِصِيبٌ = حصہ۔ قسمت۔ (اسم واحد۔ جمع
انصبہ و انصباء و نصب ہے)

نُصِيبٌ = ہم پہنچتے ہیں۔ ہم پہنچائیں گے۔
(مضارع۔ جمع متکلم)

نُظِعُ = ہم مہر کرتے ہیں یا کریں گے۔
 (مضارع- جمع متکلم)
 نُظِعِمُ = ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم کھانا کھلائیں
 گے۔ (مضارع- جمع متکلم)
 نُظْفَةُ = منی کا پانی۔ (اسم واحد) (جمع نطفاء
 و نطف ہے)
 نُظِقُ = بات کرنا۔ (مصدر)

(أَنْ) نَظْمِسُ = یہ کہ ہم مٹادیں۔ ہم بے
 نشان کر دیں گے۔ (مضارع- جمع متکلم)
 نَظْمَعُ = ہم بھروسا کرتے ہیں یا کریں گے۔
 (مضارع- جمع متکلم)
 نَظْوِيٌّ = ہم لپٹتے ہیں یا لپٹیں گے۔
 (مضارع- جمع متکلم)
 نَظِيحَةٌ = سیگ سے ماری گئی۔ وہ جانور جو
 سیگ کے مارنے سے مر جائے شریعت میں اس
 کا کھانا حرام ہے۔ (اسم واحد مونث۔ جمع نطحاء
 و نطائح ہے)
 نُظْيِعُ = ہم فرمانبرداری کرتے ہیں یا کریں
 گے۔ (مضارع- جمع متکلم)

ن-ظ

نَظَرٌ - دیکھنا۔ (اسم واحد- جمع انظار ہے)
 نَظَرَ - اس نے دیکھا۔ (ماضی- واحد مذکر قائب)
 نَظْرَةٌ - ایک بار دیکھنا۔ (مصدر برائے مرہ)

نَظْرَةٌ = ملت دینا۔ ڈھیل دینا۔ تاخیر کرنا۔
 نَظَلُّ = ہم سارے دن رہتے ہیں یا رہیں
 گے۔ (مضارع- جمع متکلم۔ فعل ناقص)
 نَظُنُّ = ہم گمان کرتے ہیں یا کریں گے۔
 (مضارع- جمع متکلم)

ن-ع

نِعَاجٌ = دنیاویاں۔ بھینڑیں۔ (جمع- واحد نعجة
 ہے)
 نِعَاسٌ = اونگھ۔ نیند۔
 نَعْبُدُ = ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔
 (مضارع- جمع متکلم)
 نَعْبَجَةٌ = ونی۔ (اسم واحد) (جمع نعاج ہے)
 (أَلَنْ) نَعِجَزُ = ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکیں
 گے۔ (مضارع منصوب۔ جمع متکلم)
 نَعُدُّ = ہم پھیریں گے۔ ہم لوٹیں گے۔
 (مضارع- جمع متکلم۔ اصل میں نَعُوذُ ہے۔)
 نَعِدُّ = ہم وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے۔
 (مضارع- جمع متکلم)
 نَعُدُّ = ہم گنتے ہیں یا گنیں گے۔ (مضارع-
 جمع متکلم)
 نَعْدَبُ = ہم عذاب کرتے ہیں۔ ہم عذاب
 کریں گے۔ (مضارع- جمع متکلم)
 نَعْفُ = ہم معاف کرتے ہیں یا کریں گے۔

(مضارع- جمع متکلم- بصلہ عن)

نَعْفِلُ = ہم سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

نَعْلَمُ = ہم جانتے ہیں۔ ہم جانیں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

نُعَلِّمُ = ہم سکھاتے ہیں۔ ہم سکھائیں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

نُعَلِّنُ = ہم ظاہر کرتے ہیں۔ ہم ظاہر کریں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

نُعَلِّي = دو جوتیاں۔ (اسم تشبیہ- بحالت نصی و

جری- واحد نعل اور جمع نعال ہے۔ اضافت کی

وجہ سے ”نون“ گرا ہوا ہے۔)

نِعْمٌ = نعمتیں۔ (جمع- واحد نعمۃ ہے)

نِعْمٌ = خوب ہے۔ اچھا ہے۔ (فعل بدح- واحد

مذکر غائب)

نَعَمٌ = چارپائے۔ (اسم واحد) (جمع انعام ہے)

نَعَمٌ = ہاں۔ حرف ایجاب۔ اگلے مضمون میں

اثبات یا نفی کے ثبوت کے لئے آتا ہے مگر

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کے جواب میں بلی آتا ہے

نَعَمْ کتنا کفر ہے)

نَعَمٌ = اس نے نعمت دی۔ (ماضی- واحد

مذکر غائب)

نُعَمَاءٌ = نعمتیں۔ (اسم جمع- واحد نعیم ہے)

نِعْمًا هِيَ = وہ کیا ہی اچھی ہے۔ (فعل

تعجب)

نِعْمَةٌ = عنایت۔ احسان۔ (اسم واحد) (جمع نعم

ہے)

نُعَمِّوْا = ہم عمر دیتے ہیں۔ ہم عمر دیں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

لَمْ نُعَمِّرْ = ہم نے عمر نہیں دی۔ (مضارع-

جمع متکلم- نفی جمد)

نُعْمَلُ = ہم کام کرتے ہیں۔ ہم کام کریں

گے۔ (مضارع- جمع متکلم)

كُنَّا نَعْمَلُ = ہم کام کرتے تھے۔ (مضارع-

جمع متکلم)

نُعَوِّذُ = ہم پھرتے ہیں یا پھریں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

نُعِيدُ = ہم اعادہ کریں گے۔ ہم لوٹائیں گے۔

(مضارع- جمع متکلم)

نُعِيشُ = نیکی۔ نعمتیں۔ عیش۔ (جمع- واحد نعمۃ

ہے)

ن-غ

لَمْ نُعَادِرْ = ہم نے نہیں چھوڑا۔ (مضارع-

جمع متکلم- نفی جمد)

نُغْرِقُ = ہم غرق کرتے ہیں۔ ہم غرق کردیں۔

(مضارع مجزوم۔ جمع متکلم)

(ل) نَغْرَيْنَ = ہم ضرور ورغلا دیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم۔ بالام تاکید و نون ثقیلہ)

نَغْفِرُوْا = ہم بخشتے ہیں یا ہم بخش دیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

ن-ف

نَفَاثَاتٌ = پھونکنے والیاں۔ جادوگر نیاں۔ (اسم)

(مبالغہ۔ جمع مونث)

نَفَادٌ = ختم ہونا۔ کم ہونا۔ (مصدر)

نِفَاقٌ = دو منہ والے ہونا۔ دوغلے ہونا۔

(مصدر)

نَفْتِنٌ = ہم جانچتے ہیں۔ ہم جانچیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

نَفْحَةٌ = ہوا کا ایک جھونکا۔ خوشبو پھونکنا۔

(مصدر برائے مرہ)

نَفْحٌ = اس نے پھونکا۔ (ماضی۔ واحد)

(مضارع۔ جمع متکلم)

نُفِحَ = وہ پھونکا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد)

(مضارع۔ جمع متکلم)

نَفْحَةٌ = ایک بار پھونکنا۔ (اسم مصدر)

نَفْحَتٌ = میں نے پھونکا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

نَفَخْنَا = ہم نے پھونکا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

نَفَدَ = وہ ختم ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

نَفَدْتُ = وہ ختم ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مؤنث)

(غائب)

نَفَرٌ = جماعت۔ (تین سے دس تک) (اسم)

(عدو) (اسم واحد) (جمع انفار ہے)

نَفَرَ = وہ جنگ کے لئے نکلا۔ (ماضی۔ واحد)

(مضارع۔ جمع متکلم)

نَفْرُغٌ = ہم متوجہ ہوں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

(مضارع۔ جمع متکلم)

(لَا) نَفَرْتُ = ہم نہیں جدا کرتے۔ (مضارع)

(نہی۔ جمع متکلم)

نَفْسٌ = جان۔ خون۔ آدمی۔ ذات۔ (اسم واحد)

(جمع نَفُوسٌ ہے) جس کی تین قسمیں ہیں امارۃ۔

لوامۃ۔ مطمئنۃ۔ نفس امارۃ بدی اور برائی کا

حکم کرنے والا۔ نفس لوامۃ بدی سے روکنے

والا۔ نفس مطمئنۃ اطمینان والا نفس۔ کہ بدی

سے خالی اور نیکی سے بھرا ہو۔

نَفْسِدٌ = ہم فساد کرتے ہیں یا کریں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

نَفَسْتُ = وہ رات کو چر گئیں۔ (ماضی۔ واحد)

(مضارع۔ جمع متکلم)

نَفَصِلُ = ہم کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ہم

کھول کر بیان کریں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَفَصِلُ = ہم زیادہ کرتے ہیں۔ ہم فضیلت

دیتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَفَعٌ = فائدہ دینا۔ (مصدر)

نَفَعٌ = اس نے فائدہ دیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

نَفَعْتُ = اس نے فائدہ دیا۔ کام کیا۔ (ماضی۔

واحد مؤنث غائب)

نَفَعْتُ = ہم کرتے ہیں۔ ہم کریں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

نَفَقٌ = راہ۔ باریک۔ سوراخ۔ سرنگ۔

نَفَقَاتٌ = عطیات۔ روزی۔ (جمع۔ واحد نفقة ہے)

نَفَقَةٌ = روزی۔ ضروری خرچ۔ (اسم واحد جمع نفقات ہے)

نَفَقْدُ = ہم گم پاتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَفَقَهُ = ہم سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

نُفُورٌ = بھاگنا۔ نفرت کرنا۔ (مصدر)

نُفُوسٌ = جانیں۔ (اسم جمع) (واحد نفس ہے)

نَفِيرٌ = بھیڑ۔ قوم۔ جماعت۔ جو کسی کام کے لئے آگے جائے۔

ن-ق

نُقَاتِلُ = ہم لڑائی کرتے ہیں۔ ہم لڑائی کریں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَقَبٌ = راہ۔ سوراخ۔ (مصدر۔ جمع نقاب و

انقاب ہے۔)

نَقَبُوا = انہوں نے کھریا۔ چھید ڈالا۔ (ماضی۔

غائب)

نَقَبْتُ =

ہم پڑھیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَقَرُوا = ہم پڑھاتے ہیں یا پڑھائیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

جمع مذکر غائب)

نَقَّسَ = ہم چنگاری لے لیں۔ ہم سلگاتے

ہیں۔ ہم سلگائیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم۔ اقتباس

آگ کی چنگاری لینے کو کہتے ہیں۔ مجازاً تحصیل

علم کے لئے۔)

نَقَّطُوا = ہم مار ڈالیں گے۔ (مضارع۔ جمع

متکلم)

نَقَّطُوا = ہم خوب مار ڈالیں گے۔ (مضارع۔

جمع متکلم)

نَقَدُوا = ہم ہرگز تنگی نہ ڈالیں گے۔

ہم قدرت نہیں رکھیں گے۔ (مضارع۔ منفی موکد

بہ لن ناصبہ۔ جمع متکلم)

نَقَدُوا = ہم پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہم پاکی

بیان کریں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَقَذُوا = ہم پھینک مارتے ہیں۔ (مضارع۔

جمع متکلم)

نُقِرُّ = ہم ٹھہراتے ہیں۔ (مضارع - جمع متکلم)

نُقَرَّبُ = ہم نزدیک کرتے ہیں یا نزدیک کریں گے۔ (مضارع - جمع متکلم)

نُقْصُ = گھٹا۔ کم کرنا۔ (مصدر)

نُقْصُ = ہم بیان کرتے ہیں۔ (مضارع - جمع متکلم)

لَمْ نَقْضُصْ = ہم نے بیان نہیں کیا۔ (مضارع نفی جحد بلم - جمع متکلم)

لَمْ نَقْضَنَّ = ہم ضرور ضرور بیان کریں گے۔ (مضارع - جمع متکلم - بلاام تاکید و نون ثقیلہ)

نَقَضَ = توڑنا۔ (مصدر)

نَقَضَ = اس نے توڑا۔ (ماضی - واحد مذکر غائب)

نَقَضَتْ = اس نے توڑا۔ (ماضی - واحد مؤنث غائب)

نَقِيعَ = گردوغبار۔ (اسم واحد - جمع انفعلة ہے)

كُنَّا نَقْعُدُ = ہم بیٹھتے تھے۔ (ماضی استمراری - جمع متکلم)

نُقَلِبُ = ہم پلٹتے ہیں۔ ہم کروٹیں بدلتے ہیں۔ (مضارع - جمع متکلم)

نَقَمُوا = انہوں نے دشمنی کی۔ بدلہ لیا۔ (ماضی - جمع مذکر غائب)

نَقُولُ = ہم کہتے ہیں۔ ہم کہیں گے۔

(مضارع - جمع متکلم)

لَمْ نَقُولَنَّ = البتہ ہم کہہ دیں گے۔ (مضارع - جمع متکلم بلاام تاکید نون ثقیلہ)

نَقِيبُ = سردار۔ قوم کی نبیوں کو جاننے والا۔ (واحد مذکر - جمع نقباء ہے۔ صفت مشبہ)

نَقِيرُ = کھجور کی گٹھلی۔ کا گڑھا۔ مراد حقیر چیز۔ (اسم واحد) (جمع انقرہ ہے)

نَقَيْصُ = ہم تعینات کرتے ہیں۔ (مضارع - جمع متکلم)

نَقِيمُ = ہم کھڑا کرتے ہیں۔ سیدھا کرتے ہیں۔ (مضارع - جمع متکلم)

لَا نَقِيمُ = ہم قائم نہیں کریں گے۔ (مضارع - جمع متکلم)

ن-ک

لَمْ نَكُ = ہم نہیں تھے۔ "ن" خلاف قیاس گر گیا۔ (مضارع نفی جحد - جمع متکلم)

نِكَاحُ = بیاہنا۔ جماع کرنا۔ (مصدر)

نَكَالُ = عذاب۔ سزا۔ عبرت۔ (مضارع - جمع متکلم)

نَكْتُلُ = ہم پیمائش کریں گے۔ ہم پیمانہ بھر کر لائیں گے۔ (مضارع - جمع متکلم)

نَكْتُمُ = ہم چھپاتے ہیں۔ ہم چھپائیں گے۔

نَكَصَ = وہ اٹا پڑا۔ وہ پھر گیا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

نَكَفُوا = ہم منکر ہوں گے۔ (مضارع۔ جمع

متکلم)

نُكْفِرُوا = ہم دور کریں گے۔ (مضارع۔ جمع

متکلم)

نِکَل = لوہے کی لگام۔ (اسم واحد) (جمع

انکال و نکول ہے)

(لَا) نُكَلِّفُ = ہم نہیں تکلیف دیتے۔ ہم

نہیں ذمہ دار بناتے۔ (مضارع منفی۔ جمع متکلم)

نُكَلِّمُ = ہم بات کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع

متکلم)

(لَمْ) نُنْکُنْ = ہم نہیں تھے۔ (مضارع نفی جمد۔

جمع متکلم)

نُكُونُ = ہم ہوں گے۔ ہم ہو جائیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

نُكَيِّرُ = انکار کرنا۔ بدل ڈالنا۔

ن-ل

نَلْزِمُ = ہم لازم کر دیتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع

متکلم)

(كُنَّا) نَلْعَبُ = ہم کھیلتے تھے۔ (مضارع۔ جمع

متکلم)

(مضارع۔ جمع متکلم)

نَكَثَ = اس نے عہد توڑا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

نَكَثُوا = انہوں نے عہد توڑا۔ (ماضی۔ جمع

مذکر غائب)

نَكَحَ = اس نے نکاح کیا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

نَكَحْتُمْ = تم نے نکاح کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

حاضر)

نَكِد = ناقص۔ کم اگنے والا۔

(لَا) نُكَدِّبُ = ہم نہیں جھٹلاتے۔ (مضارع

منفی۔ جمع متکلم)

نُكَدِّبُ = ہم جھٹلاتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع

متکلم)

نُكْرُ = نا پسندیدہ۔ بن دیکھی۔ ناخوش۔ (اسم

شأن)

نُكِرَ = اس نے نہ پہچانا۔ اجنبی سمجھا۔ (ماضی۔

واحد مذکر غائب)

نُكِرُوا = تم روپ بدلو۔ شکل بدلو۔ (امر۔ جمع

مذکر حاضر)

نُكْسُوْ = ہم پسنا تے ہیں یا پسنائیں گے۔

(مضارع۔ جمع متکلم)

نُكْسُوا = وہ اوندھے کئے گئے۔ (ماضی مجہول۔

جمع مذکر غائب)

نَلْعَنُ = ہم لعنت کرتے ہیں۔ ہم لعنت کریں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

جَمْعُ تَكْلَمٍ = ہم مرتے ہیں۔ ہم مریں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نُلْقَى = ہم ڈالتے ہیں۔ ہم ڈالیں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نُمِيتُ = ہم مارتے ہیں۔ ہم ماریں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

ن - م

نَمَارِقُ = بچھونے۔ (جمع۔ واحد نمرة ہے)

نَمِيرُ = ہم رسد لا کر دیں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَمْتَعُ = ہم فائدہ دیتے ہیں۔ ہم فائدہ دیں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَمِيمٌ = چھپور۔ (اسم واحد) (جمع نمائم ہے)

نَمُدُّ = ہم کھینچتے ہیں۔ ہم کھینچیں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

ن - ن

(أ) نُنَبِّئَنَّ = ہم ضرور آگاہ کریں گے۔ (مضارع بالام و نون تاکید ثقیلہ۔ جمع متکلم)

نَمُدُّ = ہم مد کرتے ہیں۔ ہم مد کریں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نُنَبِّئُ = ہم خبردار کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نُمْكِنُ = ہم قدرت دیتے ہیں۔ ہم جگہ دیتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نُنَجِّئُ = ہم بچائیں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

(أ) نُمْكِنُ = ہم نے قدرت نہیں دی۔ (مضارع نفی جمد۔ جمع متکلم)

نُنَجِّئَنَّ = ہم ضرور نجات دیں گے۔ (مضارع بالام و نون تاکید ثقیلہ۔ جمع متکلم)

نَمَلُ = چوٹیاں۔ (جمع۔ واحد نملة ہے)

نُنَجِّئُ = ہم نجات دیتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَمَلَةٌ = چوٹی۔ (واحد۔ جمع نمل ہے)

(أ) نَنْزِعَنَّ = ہم ضرور نکالیں گے۔ (مضارع بالام و نون تاکید ثقیلہ۔ جمع متکلم)

نُمْلِي = ہم ڈھیل دیتے ہیں۔ ہم مسلت دیتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نَنْزِلُ = ہم آہستہ آہستہ اتارتے ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ اتاریں گے۔ (مضارع مجزوم۔ جمع متکلم)

نَمُنُّ = ہم احسان رکھتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

(أ) نَمْنَعُ = ہم نے نہیں منع کیا۔ (نفی جمد۔ جمع متکلم)

نَوَى = کھجور کی گٹھلیاں۔ (جمع۔ واحد نَوَاة ہے)

نَوَاصِي = پیشانیاں۔ پیشانی کے بال۔ (جمع۔ واحد نَاصِيَة ہے)

نُؤِبَت = ہم دیتے ہیں۔ ہم دیں گے۔ ("می" گر گئی۔ مضارع۔ جمع متکلم)

(لَنْ) نُؤَيِّرُ = ہم ہرگز نہیں ترجیح دیں گے۔ (مضارع نفی موکد۔ جمع متکلم)

نُوح = ایک اولو العزم پیغمبر کا نام۔ جو ساڑھے نو سو سال زندہ رہے ان ہی کے زمانے میں پانی

کے طوفان کا عذاب آیا تھا سب لوگ غرق ہو گئے صرف اسی آدمی جو ان کی کشتی میں سوار تھے

بچے۔ ان کی اولاد سے ساری دنیا کے لوگ ہیں۔ اسی لئے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ (اسم علم)

نُوحِي = ہم وحی بھیجتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نُؤَيِّرُ = ہم دیر کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نُؤَدُّوْا = وہ پکارے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذکر غائب)

نُؤَدِي = وہ پکارا گیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

نُؤِر = روشنی۔ روشن کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔ (اسم واحد) (جمع انوار ہے)

نُؤِرْتُ = ہم وارث کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

(أَوْ) نُنْسِي = ہم بھلا دیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم۔ آخر سے "می" گری ہوئی ہے)

نُنْسِي = ہم بھولتے ہیں۔ ہم بھول جائیں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

(مَا) نُنْسَخُ = ہم جو منسوخ کرتے ہیں۔ (مضارع مجزوم۔ جمع متکلم)

(لَ) نُنْسِفَنَّ = ہم ضرور بکھیریں گے۔ (مضارع بلام تاکید و نون ثقیلہ۔ جمع متکلم)

نُنْشِي = ہم پیدا کرتے ہیں۔ ہم اٹھا کھڑا کریں گے۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نُنْشِرُ = ہم ابھارتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نُنْصُرُ = ہم مدد کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

(لَ) نُنْصُرَنَّ = ہم ضرور مدد کریں گے۔ (مضارع بلام تاکید و نون ثقیلہ۔ جمع متکلم)

نُنْظُرُ = ہم دیکھتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نُنْقُصُ = ہم کم کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع متکلم)

نُنْكَسُ = ہم اونڈھا کرتے ہیں۔ (مضارع مجزوم۔ جمع متکلم)

(لَمْ) نُنْهَ = ہم نے منع نہیں کیا۔ (مضارع نفی جمد۔ جمع متکلم)

(و)

و-۱

وَأَرْدُونَ = بچنے والے۔ اترنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

وَأَزْرَةً = بوجھ اٹھانے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مؤنث)

وَأَسِيعَ = فراخی والا۔ کشائش والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

وَأَسِيعَةً = فراخ۔ کشادہ۔ (اسم فاعل۔ واحد مؤنث)

وَأَصِيبَ = ہمیشہ۔ سخت۔ چٹنے والا۔ لازم ہونے والا۔

وَأَعْدَنَّا = ہم نے وعدہ کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

وَأَعِظُ = نصیحت کرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

وَأَعْظِيْن = نصیحت کرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

وَأَعِيَةَ = یاد رکھنے والی نگاہ۔ رکھنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مؤنث)

وَأَقِي = بچانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

وَأَقِيعَ = گرنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

وَأَقِيعَةً = قیامت۔ مصیبت۔ لڑائی۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

وَأَبِيلٌ = بڑے بوند کی بارش۔

وَأَثَقَ = اس نے مضبوط کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

وَأَجِفَّةٌ = ڈرنے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد مؤنث)

وَأَجِدٌ = ایک مرد۔ (اسم عدد۔ مذکر کے لئے)

وَأَجِدَةٌ = ایک عورت۔ (اسم عدد۔ مؤنث کے لئے)

وَأِدِيٌّ = درہ۔ ٹیکرا۔ اصل میں وادی تھا)

وَأِدِيٌّ = درہ۔ ٹیکرا۔ دو پہاڑوں کے درمیان پانی بننے کی جگہ۔

وَأِدِ الْمُقَدَّسِ = وہ جگہ جہاں حضرت موسیٰ ﷺ اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوئی تھیں۔

وَأَرِثَ = میراث لینے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر۔ جمع وراثہ ہے)

وَأَرِثُونَ = وارث ہونے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

وَأَرِدٌ = پانی پر بچنے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

(واحد مونث)

وَتَيْنٍ = دل کی رگ جس کے کٹنے سے آدمی
مرجاتا ہے۔ (اسم واحد- جمع وتنه ہے)

وَالٍ = کارساز- حاکم- حمایتی- نزدیک ہونے
والا۔ (اسم فاعل- واحد مذکر)

وَالِدَةٌ = ماں۔ (اسم فاعل واحد مونث)

وَالِدٌ = باپ۔ (اسم فاعل- واحد مذکر)

وَالِدَاتٌ = مائیں۔ (اسم جمع) (واحد والدة
ہے)

وَالِدَيْنِ = ماں باپ۔ (اسم فاعل- تثنیہ مذکر-
بحالت نصی و جری)

وَالِدَانٍ = ماں باپ۔ (اسم فاعل- تثنیہ مذکر-
بحالت رفعی)

وَالِدَيَّْ = میرے ماں باپ۔ (اصل میں
وَالِدَيْنِ تھا۔ یائے متکلم کی طرف مضاف ہونے
کی وجہ سے "نون" گر گیا۔)

وَاهِيَةً = بودی- ست ہونے والی۔ (اسم فاعل-
واحد مونث)

و-ب

وَبَالٍ = عذاب جو برداشت نہ کیا جاسکے۔

وَبَيْلٍ = ناگوار۔ (اسم صفت شبہ- واحد مذکر)

و-ت

وَتْرٌ = طاق۔ طاق نماز۔ یعنی نماز مغرب و نماز
وتر۔ (اسم واحد- جمع اوتار ہے)

و-ث

وَثَاقٌ = قید- باندھنا۔ (مصدر)

وُثْقَى = مستحکم- مضبوط۔ (اسم تفضیل- واحد
مونث)

و-ج

وَجَبَتْ = وہ پڑی۔ وہ مری۔ (ماضی- واحد
مونث غائب)

وُجِدَ = مقدر۔ طاقت۔

وَجَدَ = اس نے پایا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

وَجَدَا = دونوں نے پایا۔ (ماضی- تثنیہ
مذکر غائب)

وَجَدْتُ = میں نے پایا۔ (ماضی- واحد متکلم)

وَجَدْتُمْ = تم نے پایا۔ (ماضی- جمع مذکر حاضر)

وَجَدْنَا = ہم نے پایا۔ (ماضی- جمع متکلم)

وَجَدُوا = انہوں نے پایا۔ (ماضی- جمع مذکر
غائب)

وَجِلَّةٌ = ڈرنے والی۔ (اسم فاعل- واحد
مونث)

وَجِلْتُ = وہ ڈری۔ وہ کپکپائی۔ (ماضی- واحد
مونث غائب)

کے بیٹے کا نام ہے۔ قوم نوح شیطان کے برکانے سے ان کی صورت کا بت بنا کر پوجتی تھی۔ طوفان کے بعد بنو قضاہ نے دومہ الجندل میں رکھا ان کے بعد بنو کلب پوجنے لگے اسلام پھیلنے ہی گم ہو گیا۔ (اسم علم)

وَدَّ = محبت۔ دوستی رکھنا۔ (مصدر)

وَدًّا = اس نے چاہا۔ دوست رکھا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

وَدَّوْا = دونوں نے دوست رکھا۔ (ماضی۔ تثنیہ مذکر غائب)

وَدَدَتْ = اس نے چاہا۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

وَدَّعَ = اس نے رخصت کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

وَدَّقَ = بارش۔ برسا۔ (مصدر)

وَدَّوْا = انہوں نے دوست رکھا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

وَدَّوْدٌ = دوست رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا نام۔ (مبالغہ۔ واحد مذکر و اسم صفت)

و-ر

وَرَاءَ = پیچھے۔ گردا گرد۔ آگے اور پیچھے۔ (اسم ظرف۔ ضد الاضداد)

وَرِثٌ = وہ وارث ہوا۔ (ماضی۔ واحد

وَجِلُونَ = ڈرنے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر)

وَجُوهُ = چہرے۔ منہ۔ (جمع۔ واحد وجہ ہے)

وَجْهٌ = رخ۔ منہ۔ ذات۔ (اسم واحد۔ جمع وجوہ ہے)

وَجْهَةُ التَّهَارِ = اول دن۔ (مركب اضافی)

وَجْهَةٌ = قبلہ۔ طرف۔ (اسم ظرف)

وَجَّهْتُ = میں نے منہ کیا۔ (ماضی۔ واحد تکلم)

وَجِيهٌ = خوب صورت۔ بزرگی والا۔ (اسم واحد) (جمع وجہاء ہے)

و-ح

وَحْدٌ = ایک۔ (اسم عدد۔ یہ لفظ ضمیر واحد کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔)

وَحْدَةٌ = وہی اکیلا۔ (مركب اضافی)

وَحْشٌ = جنگلی و پہاڑی جانور۔ (جمع۔ واحد وحشی ہے)

وَحْیٌ = حکم و پیغام الہی دل میں ڈالنا۔ (مصدر)

وَحِيدٌ = اکیلا۔ یکتا۔

و-د

وَدَّ = ایک بت کا نام۔ حضرت ادریس عليه السلام

مذکر غائب)

وَرْتُوَا = وہ وارث ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

وَرْدٌ = پیاسے۔ پانی کو آنے والے۔ (اسم جمع)

وَرْدٌ = وہ پانی کو پہنچا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

وَرْدَةٌ = گلابی۔ گلاب کا پھول۔ (اسم جنس)

وَرْدُوَا = وہ وارد ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

وَرِقٌ = سکہ بنائی ہوئی چاندی۔ (جمع۔ واحد

وَرِقَةٌ ہے)

وَرَقٌ = پتی۔ تراشا ہوا کاغذ۔ (اسم واحد) جمع

أَوْرَاقٌ ہے)

وَرَقَةٌ = ایک پتہ۔ (اسم واحد) جمع ورقات

ہے)

وَرِيدٌ = رگ جان۔ گردن کی رگ۔ بڑی

رگ۔ (اسم واحد) جمع اوردة و ورد و ورود

ہے)

و-ز

وَزْرٌ = پناہ کی جگہ۔ (اسم مکان)

وَزْرٌ = بچاؤ۔ پناہ۔ (مصدر)

وِزْرٌ = بوجھ۔ گناہ۔ (اسم واحد) جمع اوزار ہے)

وِزْنٌ = تولنا۔ (مصدر)

غائب)

وَزَنُوا = انہوں نے تول دیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

وَزِيرٌ = بوجھ اٹھانے والا۔ (اسم واحد) جمع

وزراء ہے)

و-س

وَسَطٌ = درمیانہ۔ معتدل۔ (اسم واحد) جمع

اوساط ہے)

وُسْطَى = درمیانی۔ (اسم تفصیل۔ واحد

مونث)

الصَّلَاةُ الوُسْطَى = نماز عصر۔ جو نماز سری

و جبری کے درمیان ہے بقول بعض پانچویں وقت

کی نماز۔ (مركب توہین)

وَسْطَنٌ = وہ بیٹھ گئیں۔ وہ گھس گئیں۔

(ماضی۔ جمع مونث غائب)

وُسْعٌ = فراغت۔ فراخی۔ (اسم مصدر)

وَسِيعٌ = وہ کشادہ ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

وَسِيعَةٌ = وہ فراخ ہوئی۔ (ماضی۔ واحد مونث

غائب)

وَسِيعَةٌ = تو نے سالیہ گھیر لیا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر حاضر)

وَسَقَى = اس نے سمیٹا۔ جمع کیا۔ (ماضی۔ واحد

مذکر غائب)

وَسْوَأَسٌ = اندیشہ بد۔ سنگار۔ نام شیطان جو

گناہ پر ابھارتا ہے۔ برے خیال ڈالنا۔ (اسم

واحد۔ جمع وساوس ہے)

جب ز و مادہ ہوتے تو دونوں کو رکھ لیتے اس کو
 وید کہتے مگر بعد ظہور اسلام یہ سب رسمیں
 مٹ گئیں۔

وَصَيَّنَا = ہم نے تاکید کی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

و-ض

وَضَع = اس نے رکھا۔ (ماضی۔ واحد
 مذکرغائب)

وُضِعَ = وہ رکھا۔ بنایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد
 مذکرغائب)

وَضَعْتُ = اس نے جتا۔ (ماضی۔ واحد مؤنث
 غائب)

وَضَعْتُ = میں نے جتا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

وَضَعْنَا = ہم نے اتار رکھا۔ (ماضی۔ جمع
 متکلم)

و-ط

وَطَأَ = نفس کا پامال کرنا۔ (اسم مصدر)

وَطَرَ = ضرورت۔ حاجت۔ (اسم واحد) (جمع
 اوطار ہے)

و-ع

وِعَاءَ = برتن۔ خرمی۔ (اسم واحد) (جمع اوعیۃ
 ہے)

وَسْوَسَ = اس نے دل میں دوسوہ ڈالا۔
 (ماضی۔ واحد مذکرغائب)

وَسْوَسَةٌ = برا خیال ڈالنا۔ (مصدر)

وَسِيْلَةٌ = ذریعہ۔ دستاویز۔ (اسم واحد۔ جمع
 وسائل ہے) نام مقام قرب الہی جو رسول اللہ
 ﷺ کو بروز قیامت عطا ہوگا۔

و-ص

وَصَّى = اس نے وصیت کی۔ (ماضی۔ واحد
 مذکرغائب) نافع بن عامر نے اوصی پڑھا ہے)

وَصَفَ = تعریف۔ بات گھڑنا۔ (اسم واحد) (جمع
 اوصاف ہے)

وَصَلْنَا = ہم نے ملایا۔ ہم نے پے در پے
 بھیجا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

وَصِيَّةٌ = وصیت، جو مرتے وقت کی جائے۔
 (مصدر۔ جمع وَصَايَا)

وَصِيْدٌ = چوکھٹ۔ (جمع وُصْدٌ)

وَصِيْلَةٌ = ملانے والی۔ (اسم فاعل۔ واحد
 مؤنث) جاہلیت میں عادت تھی کہ جو اونٹنی

سات بار مادہ بچہ جنتی اور آٹھویں بار ز و مادہ
 دونوں مل کر جنتی تو اس اونٹنی کو وید کہتے اور

آزاد کر دیتے تھے۔ بقول ابنض جاہلیت میں یہ
 رسم تھی کہ اونٹنی کے ز بچے کو بت کے نام

پر ذبح کرتے تھے اور مادہ بچہ کو پالتے تھے پھر

وَلَدَنَّ = انہوں نے جنا۔ (ماضی۔ جمع مونث

غائب)

وَلَوْا = انہوں نے منہ پھیرا۔ (ماضی۔ جمع مذکر

غائب)

وَلَوْا = تم منہ پھیرو۔ (امر۔ جمع مذکر حاضر)

وَلِيٌّ = دوست۔ حمایتی۔ (اسم واحد) (جمع اولیاء

ہے)

وَلَيْتَ = تو بھاگا۔ تو پھرا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

حاضر)

وَلَيْتُمْ = تم پھرے۔ تم بھاگے۔ (ماضی۔ جمع

مذکر حاضر)

وَلِيحَةٌ = بھیدی۔ دل۔ دوست۔ ہماز۔

وَلِيدٌ = بچہ۔ چھوٹا لڑکا۔ (اسم واحد) (جمع

ولدان ہے)

وَلِيٌّ دِينٍ = اور مجھ کو میرا دین کافی ہے۔

”د“ حرف عطف۔ ”لام“ حرف جار ”می“ ضمیر

متکلم مجرور۔ خبر متقدم۔ ”دین“ مضاف۔ آخر میں

”می“ ضمیر متکلم حذف ہے۔ مبتداء موخر۔ جملہ

خبریہ۔

و-و

وُورِيٌّ = وہ چھپایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد

مذکر غائب)

وَعَدَّ = وعدہ۔ اقرار کرتا۔ (مصدر)

وَعَدَّ = اس نے اقرار کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

غائب)

وَعَدَّتْ = تو نے اقرار کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر

حاضر)

وَعَدْنَا = ہم نے وعدہ کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

وُعِدْنَا = ہم وعدہ دیئے گئے۔ (ماضی مجہول۔

جمع متکلم)

وَعَدُّوا = انہوں نے وعدہ کیا۔ (ماضی۔ جمع

مذکر غائب)

وَعَظَّتْ = تو نے نصیحت کی۔ (ماضی۔ واحد

مذکر حاضر)

وَعِينِدْ = ڈرانا۔ عذاب کا وعدہ۔ (مصدر)

و-ف

وَفَى = اس نے پورا دیا۔ اس نے حق ادا

کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

وَفَاقٌ = موافق۔ پورا۔ (مصدر)

وَفْدٌ = وہ جماعت جو اپنی غرض کی خاطر بادشاہ

کے ہاں جائے۔ (اسم واحد۔ جمع وفود ہے)

وَفِيَتْ = وہ تمام دی گئی (ماضی مجہول۔ واحد

و-ل

وُلِدْتُ = میں جنا گیا۔ (ماضی۔ واحد متکلم)

و-ہ

وَهَّابٌ = خوب بخشنے والا۔ دینے والا۔ (اسم مبالغہ۔ واحد مذکر)

وَهَّاجٌ = چپکنے والا۔ مراد آفتاب۔ (اسم مبالغہ۔ واحد مذکر)

وَهَبٌ = اس نے بخشا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

وَهَبْتِ = تو نے بخشا۔ (ماضی۔ واحد مذکر حاضر)

وَهَبْنَا = ہم نے بخشا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

وَهْنٌ = کمزوری۔ سستی۔ (مصدر)

وَهِنَ = وہ کمزور ہوئے۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

وَهِنُوا = وہ ست ہوئے۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

و-ی

وَيْكَانٌ = تعجب ہے کہ۔ افسوس ہے کہ۔ (کلمہ تعجب و زجر ہے۔ مرکب منع صرف) کسانے نے کہا اس کے معنی ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا۔ ان کے نزدیک یہ مرکب ہے وئی۔ كَ - اَنَّ سے۔ (جملہ حسرت) اور غلیل کے نزدیک مرکب ہے وئی كَانٌ سے بعض کے نزدیک مرکب ہے۔ و-ی-ک۔ کا خطابی۔ اَنَّ حرف مشبہ بہ فعل سے اور بعض کے نزدیک وَئِكَ مُخَفَّفٌ وَيَلِكٌ کا ہے۔ اَنَّ الگ ہے۔

وَيْلٌ = خرابی۔ عذاب۔ دوزخ کے ایک میدان کا نام ہے۔

وَيْلَتِي = ہائے میرے افسوس۔ (کلمہ حسرت۔ اصل میں وَيْلَتِي يَائِي متکلم کو الف سے بدل دیا گیا۔)



(ہ)

ہ-ا

جیسے نَدَا
هَأَ = اس کو۔ وہ عورت۔ (ضمیر منصوب۔ واحد مونث غائب۔ جیسے لہا اس کے لئے۔)

هُؤُ = وہ مرد۔ اس کو۔ (ضمیر مفرد منصوب۔ جیسے دَعَفْنَا، ضمیر مفرد مجرور مذکر غائب۔)



ہَار = گرنے والا۔ منہدم ہونے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

هَارُونَ = اس فرشتے کا نام ہے جو ماروت فرشتے کے ساتھ بائبل شہر میں اترے تھے۔

هَارُونَ = حضرت موسیٰ ﷺ کے بھائی کا نام ہے۔ (اسم علم)

هَكَذَا = ایسا ہے۔ اسی طرح۔ (اسم کنایہ)

هَالِك = ہلاک ہونے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

هَالِكِينَ = ہلاک ہونے والے۔ (اسم فاعل۔ جمع مذکر۔ بحالت نصی و جری)


هَامَانَ = فرعون کے وزیر کا نام ہے۔ دونوں کافر تھے۔

هَامِدَةٌ = دبی ہوئی بے گھاس کی زمین۔ سوکھی گھاس۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث) (جمع هوامد ہے)

هَامِيَةٌ = گرنے والی۔ گڑھا۔ دوزخ کے نیچے کا طبقہ جو منافقوں کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب

مسلمانوں کو بچائے۔ آمین۔ (اسم فاعل۔ واحد مونث)

هَهُنَا = یہاں۔ اس جگہ۔ (اسم ظرف مکان)



هَب = تو دے۔ تو عطا کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

هَآ = خبردار۔ (حرف تنبیہ)

هَؤُلَاءِ = یہ لوگ۔ (اسم اشارہ۔ جمع مذکر مونث)

هَأْوَمُ = تم پکڑو۔ تم لو۔ تم آؤ۔ (اسم فعل بمعنی امر۔ جمع مذکر حاضر)

هَاتُوا = تم لاؤ۔ خلیل کے نزدیک اٹوا تھا الف کو "ہ" سے بدل دیا۔ (اسم فعل)

هَاتَيْنِ = یہ دو عورتیں۔ (اسم اشارہ تثنیہ مونث)

هَاجِرٌ = اس نے ہجرت کی۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

هَاجِرُونَ = انہوں نے ہجرت کی۔ (ماضی۔ جمع مونث غائب)

هَاجِرُونَ = انہوں نے ہجرت کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

هَادُوا = وہ یسوی ہوئے۔ انہوں نے توبہ کی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

هَادِيٌّ = راہ بتانے والا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

هَذَا = یہ مرد۔ (اسم اشارہ مذکر کے لئے)

هَذَانِ = یہ دو مرد۔ (اسم اشارہ تثنیہ کے لئے)

هَذِهِ = یہ عورت۔ (اسم اشارہ واحد مونث کے لئے)

هَبَاءٌ = غبار۔ گرو۔ (اسم واحد) (جمع اهباء ہے)

ہ-ج-ہ

هَجْرٌ = چھوڑنا۔ پریشان بات کہنا۔ (مصدر)

ہ-د-ہ

هَدًا = دھم سے گر جانا۔ توڑنا۔ ویران کرنا۔ (مصدر)

هَدَى = راہنمائی۔ راہ بتانا۔ (مصدر)

هَدَى = اس نے راہ بتائی۔ (ماضی۔ واحد مذكر غائب)

هِدَايَةٌ = راہ دکھلانا۔ (مصدر)

هَدِمْتُ = وہ گرائی گئی۔ (ماضی مجہول۔ واحد مؤنث غائب)

هَدُنَا = ہم نے رجوع کیا۔ ہم نے توبہ کی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

هَدُّوْا = وہ راہ بتائے گئے۔ (ماضی مجہول۔ جمع مذكر غائب)

هَدُّدٌ = سلیمانی چڑیا۔ ہد ہد۔ جس کے سر پر تاج ہوتا ہے۔ (اسم علم)

هَدَى = قربانی کا جانور۔ جو مکہ کو بھیجتے ہیں۔ (اسم واحد) (جمع ہدی ہے)

هَدِيٌّ = وہ راہ بتایا گیا۔ (ماضی مجہول۔ واحد

مذكر غائب)

هَدَيْتَ = تو نے راہ بتائی۔ (ماضی۔ واحد مذكر حاضر)

هَدِيَّةٌ = تحفہ جو دوست کو دوست بھیجتے ہیں۔ (اسم واحد) (جمع ہدایا ہے)

هَدَيْتُنَا = ہم نے راہ بتائی۔ (ماضی۔ جمع متکلم)

ہ-ذ-ہ

هَذَا = یہ۔ اس۔ (اسم اشارہ۔ واحد مذكر غائب)

ہ-ر-ہ

هَرَبٌ = بھاگنا۔ (مصدر)

ہ-ز-ہ

هَزَلٌ = بیہودہ بات۔ ہنسی کی بات۔ (مصدر)

هَزَمُوا = وہ بھاگے۔ (ماضی۔ جمع مذكر غائب)

هَزُوٌّ = وہ جس سے مذاق کیا جائے۔ (مصدر بمعنی مفعول)

هَزَيْتَنِي = تو حرکت دے۔ تو ہلا دے۔ (امر۔ واحد مؤنث حاضر)

ہ-ش-ہ

هَشِيمٌ = بھوسہ۔ سوکھی گھاس۔ روندی ہوئی۔ (مصدر بمعنی مفعول)

هَمَزَاتٌ = وسوسے۔ (اسم جمع) (واحد همز ہے)

هَمَزَةٌ = اشارہ چشم سے حقارت کرنے والا۔
بدکننے والا۔ (اسم مبالغہ۔ واحد مذکر)

هَمْسٌ = نرم و آہستہ آواز۔ (مصدر)

هَمُوًا = انہوں نے ارادہ کیا۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)

ہ-ن

هَنَّ = وہ سب عورتیں۔ (ضمیر جمع مؤنث غائب)

هُنَالِكَ = وہاں۔ اس وقت۔ (اسم اشارہ بعید اور لام زائد اور کاف ضمیر حاضر مفتوح یا مکسور سے مرکب ہے۔)

هَنِيئٌ = بخوبی ہنسم ہونے والا۔ خوش ہنسم۔ (صفت مشبہ۔ واحد مذکر)

ہ-و

هَوٌ = وہ مرد۔ (ضمیر واحد مذکر غائب)

هَوِيٌّ = وہ گرا۔ نفس۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

هَوَاءٌ = خالی۔ (اسم واحد و جمع یکساں)

هَوِيٌّ = خواہش نفس۔ (واحد۔ جمع اَهْوَاءُ)

هَوْدٌ = ایک پیغمبر کا نام ہے۔

هَوْدٌ = یہودی قوم۔

ہ-ض

هَضَمٌ = حق کم کرنا۔ حق توڑنا۔ (مصدر)

هَضِيمٌ = ٹوٹا ہوا۔ کٹی۔ نرم و نازک چیز (مصدر بمعنی مفعول)

ہ-ل

هَلٌ = بے شک۔ کیا۔ آیا۔ (حرف استفہام و حرف تحقیق)

هَلَكٌ = وہ ہلاک ہوا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

هَلَمٌ = تم آؤ۔ تم لے آؤ۔ (اسم فعل۔ امر)

هَلْوَعٌ = بے صبرا۔ لاپٹی۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر)

ہ-م

هَمٌ = وہ سب مرد۔ (ضمیر جمع مذکر غائب)

هَمٌّ = اس نے ارادہ کیا۔ (ماضی۔ واحد مذکر غائب)

هَمًّا - وہ دو مرد یا دو عورتیں۔ (اسم ضمیر تشبیہیہ مذکر غائب)

هَمَّازٌ = بہت عیب جوئی کرنے والا۔ (اسم مبالغہ۔ واحد مذکر)

هَمَّتٌ = اس نے ارادہ کیا۔ (ماضی۔ واحد مؤنث غائب)

هَيْئَةٌ = شکل - صورت۔

هَيْئَتٌ لَكَ = آؤ۔ تو آجا۔ (اسم فعل)

هَيْمٌ = پیاسے اونٹ۔ (جمع۔ واحد اَهْيِمُّمُ ہے)

هَيْئٌ = آسان۔ (صفت مشبہ)

هَيْهَ = وہ عورت۔ آخر میں ”ہ“ سکتے زائد

ہے۔ (اسم اشارہ۔ واحد مونث)

هَيْهَاتَ = بعید ہے۔ دور ہے۔ (اسم فعل

بمعنی بَعْدَ دور ہوا۔

هُونٌ = زلت۔ خواری۔

هَوْنٌ = وقار۔ آہستہ۔

ہ-ی

هَيٌّ = وہ عورت۔ (اسم ضمیر واحد مونث

غائب)

هَيَّيْ ع = تیار کر۔ (اسم فعل بمعنی امر۔ واحد

مذکر حاضر)



(ی)

معرف باللام

يَا أَيُّهَا = اے مزد۔ (حرف ندا برائے مذکر

معرف باللام)

(لَا) يَأْتِي = نہ انکار کرے۔ (فعل نھی۔ واحد

مذکر غائب)

يَأْبَسُ = سوکھا۔ (اسم فاعل۔ واحد مذکر

يَأْبَسَاتٌ = سوکھے۔ (اسم جمع مونث۔ واحد

يَأْبَسَةٌ ہے)

(لَا) يَأْتِلُ = وہ نہ قسم کھائے۔ (نھی۔ واحد

مذکر غائب) اصل میں يَأْتِلِي تھائی ”می“ گر گئی۔

يَأْتُ = وہ آئے گا۔ وہ لائے گا۔ (مضارع

مجزوم۔ واحد مذکر)

ی-ا

ی = مجھ کو۔ میرا۔ (اسم ضمیر ضمیر متکلم کبھی

فعل کے آخر میں آتی ہے جیسے کہ ضَرْبِيٌّ اس

نے مجھ کو مارا۔ کبھی اسم پر جیسے فَوْبِيٌّ میرا کپڑا۔

کبھی حذف ہو جاتی ہے اور کسہ ماقبل دلالت

کے لئے رہ جاتا ہے۔ جیسے يَا عِبَادِ اے میرے

بندے۔

يَا = اے۔ (حرف ندا قریب و بعید اسم منادی

پر آتا ہے۔) مگر اَلَا يَا اسْجُدُوا میں منادی

محذوف ہے۔

يَا أَيُّهَا = اے۔ (حرف ندا برائے مونث

يَأْتِي = وہ آتا ہے۔ وہ آئے گا۔ وہ آئے۔
بصورت متعدی وہ لاتا ہے۔ وہ لائے گا۔

(لَمْ) يَأْتِ = وہ نہیں آیا۔ نہیں معلوم ہوا۔
(نفی جمد۔ واحد مذکر غائب)

يَأْتِمُرُونَ = وہ مشورہ کرتے ہیں یا کریں گے
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَأْتُونَ = سب مرد آتے ہیں یا آئیں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَمَّا) يَأْتِ = ابھی تک نہیں آیا۔ (نفی جمد۔
واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يَأْتِ = وہ نہیں آیا۔ (مضارع نفی جمد۔
واحد مذکر غائب)

يَأْتُوا = وہ آئیں گے۔ وہ آجائیں۔ (مضارع
منصوب و مجزوم۔ جمع مذکر غائب)

يَأْتِيَانِ = وہ دو مرد آتے ہیں۔ وہ دو مرد
آئیں گے۔ (مضارع۔ تثنیہ مذکر غائب)

(لَمْ) يَأْتُوا = وہ نہیں آئے۔ وہ نہیں لائے۔
(مضارع نفی جمد۔ جمع مذکر غائب)

يَأْتِينَ = وہ سب عورتیں آتی ہیں یا آئیں
گی۔ (جبکہ صلہ "یا" نہ ہو اور "ب صلہ" وہ
لائی ہیں۔ مضارع۔ جمع مؤنث غائب)

يَأْتُونَ = وہ آتے ہیں۔ وہ حاضر ہوتے ہیں۔
وہ ادا کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لِ) يَأْتِيَنَّ = وہ ضرور آئے گا۔ (مضارع بلام

تاکید و نون ثقیلہ۔ واحد مذکر غائب)

يَأْتِيَنَّ = وہ آ جائے۔ (مضارع بانون ثقیلہ۔
واحد مذکر غائب)

يَأْجُوجُجُ = اولاد یافث بن نوح عَلَيَّہِ السَّلَام سے
ماجون کے ساتھی کا نام ہے۔ (اسم علم)

(لِ) يَأْخُذُوا = چاہئے کہ لے لیں۔ (امر۔ جمع
مذکر غائب)

يَأْخُذُ = وہ لیتا ہے۔ وہ پکڑتا ہے۔ (مضارع۔
واحد مذکر غائب)

يَأْخُذُوا = وہ لے لیں۔ وہ پکڑیں۔ (مضارع۔
جمع مذکر غائب)

يَأْخُذُونَ = وہ لیتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر
غائب)

يُؤَخِّرُ = ڈھیل دے گا۔ مہلت دے گا۔ تاخیر
کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُؤَدِّي = وہ پہنچاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد
مذکر غائب)

يَأْذُنُ = وہ حکم کرتا ہے۔ وہ حکم کرے گا۔ وہ
خبر کرتا ہے۔ وہ خبر کرے گا۔ وہ اجازت دیتا ہے۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُسُ = حروف مقطعات۔ قرآن شریف کی
سورہ کا نام۔

يُكْسِ = وہ ناامید ہوا۔ (مضارع۔ واحد
مذکر غائب)

یَا لَیْتَهَا = اے کاش کیا اچھا ہوا ہوتا کسی طرح وہی ہوتی۔ یعنی موت یا قیامت۔ (کلمہ حسرت۔ یہ مرکب ہے حرف ندا، حرف تمنی اور ضمیر مونث سے)	یَسْتَسْنَ = وہ ناامید ہوئیں۔ آس توڑی۔ (ماضی۔ جمع مونث غائب)
یَأْمُرُ = وہ حکم کرتا ہے یا کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	یَسْتَسُوا = وہ ناامید ہوئے۔ آس توڑی۔ (ماضی۔ جمع مذکر غائب)
یَأْمُرُونَ = وہ حکم کرتے ہیں یا کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	یَأْفِكُونَ = وہ تمہمت لگاتے ہیں یا لگائیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
یَأْمَنُ = وہ امن میں ہوتا ہے۔ بے خوف ہوتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	یَأْقُوتُ = نام جواہر جو اکثر سرخ۔ کوئی سفید۔ کوئی زرد اور کوئی کیودا ہوتا ہے مگر سرخ عمدہ ہوتا ہے اور سفید نایاب ہے۔ ایک قیمتی پتھر۔ (اسم واحد) (جمع یَوَاقِیْتُ ہے)
یَأْمَنُوا = وہ بے خوف ہو جائیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	یَأْكُلُ = وہ کھاتا ہے یا کھائے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
”نون“ گرا ہوا ہے۔	یَاكُلَانِ = وہ دونوں کھاتے تھے۔ (مضارع۔ تشنیہ مذکر غائب)
(لَمْ) یَأْنِ = ابھی وقت نہیں آیا۔ ”ی“ بحالت جزئی گر گئی۔ (مضارع نفی جحد۔ واحد مذکر غائب)	یَاكُلْنَ = وہ سب کھا جائیں گی۔ (مضارع۔ جمع مونث غائب)
(لَا) یُؤَدُّهُ = وہ نہیں تھکاتی اس کو۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	یَاكُلُوا = وہ کھائیں۔ (مضارع مجزوم و منصوب۔ جمع مذکر غائب)
یَأْوِسُ = ناامید ہونے والا۔ (اسم مبالغہ۔ واحد مذکر)	یَاكُلُونَ = وہ کھاتے ہیں یا کھائیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
یُؤَيِّدُ = وہ مدد کرتا ہے۔ وہ قوت دیتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	یَالْمُونَ = وہ تکلیف اٹھاتے ہیں۔ وہ بے آرام ہوتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
	یَالُونَ = وہ کم کرتے ہیں۔ وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

ب-۱

یُبَايِعُنَ = وہ اقرار کرتی ہیں یا کریں گی۔ وہ

بیعت کرتی ہیں یا کریں گی۔ (مضارع۔ جمع مونث غائب)	يَبْعَثُ = وہ بخل کرتا ہے یا بخل کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
یُبَايِعُونَ = وہ اقرار کرتے ہیں۔ بیعت کرتے ہیں۔ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	يَبْخُلُونَ = وہ بخل کرتے ہیں۔ وہ بخل کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
(هَنْ) يَبْتِغِ = جو کوئی تلاش کرے۔ جو کوئی چاہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب۔ مجزوم)	(لَمْ) يَبْتَدِ = اس نے ظاہر نہیں کیا۔ (نفی جحد۔ واحد مذکر غائب)
يَبْتِغُونَ = وہ چاہتے ہیں یا چاہیں گے۔ وہ ڈھونڈتے ہیں یا ڈھونڈیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	يَبْدُلُ = وہ بدل کرتا ہے یا بدل کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
(لَ) يَبْتَكِنَنَّ = وہ ضرور ضرور کاٹیں گے۔ (مضارع۔ بانون ثقیلہ۔ جمع مذکر غائب)	يَبْدُلُ = وہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ (مضارع۔ مجہول۔ واحد مذکر غائب)
يَبْتَكِنَنَّ = وہ ضرور کاٹیں گے۔ وہ چیرتے ہیں۔ وہ چیریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	يَبْدُلُ = وہ عوض دیتا ہے یا عوض دے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
يَبْتَلِيَنَّ = وہ آزما تا ہے۔ وہ آزمائے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	(لَ) يَبْدِلَنَّ = وہ ضرور ضرور بدل دے گا۔ (مضارع۔ لام تاکید بانون ثقیلہ۔ واحد مذکر غائب)
يَبْتُ = وہ پراگندہ کرتا ہے یا پراگندہ کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يَبْدِلُونَ = وہ بدل دیتے ہیں۔ وہ بدل دیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
يَبْتَحُثُّ = وہ کھینچتا ہے یا کھینچے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يَبْدُونَ = وہ ظاہر کرتے ہیں یا ظاہر کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
يَبْتَحِضُّ = وہ کم کرتا ہے یا کم کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يَبْدِي = شروع کرتا ہے یا شروع کرے گا۔ ازسرنو پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
يَبْتَحْسُونَ = وہ کم کئے جاتے ہیں یا کم کئے جائیں گے۔ (مضارع۔ مجہول۔ جمع مذکر غائب)	يَبْدِي = وہ ظاہر کر دے۔ (مضارع۔ مجزوم۔ واحد)



مذکر غائب)

يُتِطَّلُ = وہ باطل کرتا ہے یا کرے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)۔ (مضارع نئی)۔ وہ نہ ظاہر کریں۔

(لَنْ) يَبْعَثُ = وہ ہرگز نہیں اٹھائے گا۔

جمع مونث غائب)

يَبْسُ = خشک۔ (صفت مشبہ)

(مضارع نفی تاکید بہ لن نائبہ - واحد مذکر غائب)

يُبْعَثُونَ = وہ اٹھائے جائیں گے۔ (مضارع

يَبَسَ = وہ خشک ہوا۔ (ماضی- واحد مذکر غائب)

مجمول- جمع مذکر غائب)۔ وہ کشادہ کرتا ہے یا کرے گا۔

(لَنْ) يُبْعَثُوا = ان کو ہرگز نہیں اٹھایا جائے

(مضارع- واحد مذکر غائب)

گا۔ (مضارع منقی مجمول- منقی موکد)۔ وہ بڑھائیں۔

يَبْسُطُوا = وہ پھیلائیں۔ وہ بڑھائیں۔

يَبْعَوْنَ = وہ بغاوت کرتے ہیں یا کریں گے۔

(مضارع منصوب و مجزوم- جمع مذکر غائب)

(مضارع- جمع مذکر غائب)۔ وہ خوشخبری دیتا ہے۔ (مضارع- واحد

(لَ) يَبْعَثَنَّ = وہ ضرور بھیجے گا۔ (مضارع

مذکر غائب)

موکد بہ لام تاکید و بانون ثقیلہ- واحد مذکر غائب)

يَبْصُرُ = وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا۔ وہ دکھلاتا

ہے یا دکھلائے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يَبْغِي = وہ حد سے گزرتا ہے۔ (مضارع-

يَبْصُرُونَ = وہ دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھیں گے۔

واحد مذکر غائب)

(مضارع- جمع مذکر غائب)

(لَا) يَبْغِيَانِ = دونوں زیادتی نہیں کرتے یا

يَبْصُرُونَ = وہ دکھلائے جائیں گے۔ (مضارع

نہیں کریں گے۔ (مضارع نفی- تنزیہ مذکر غائب)

يَبْقَى = وہ باقی رہے گا۔ وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔

مجمول- جمع مذکر غائب)

(لَ) يَبْطِئَنَّ = وہ ضرور دیر کرتا ہے یا کرے

گا۔ (مضارع بانون و لام تاکید ثقیلہ- واحد

مذکر غائب)

(مضارع- جمع مذکر غائب)

(لَ) يَبْكُوا = چاہئے کہ وہ روئیں۔ (امر- جمع

يَبْطِئُ = وہ سخت پکڑتا ہے یا پکڑ لے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَبْلَى = وہ پرانا ہوتا ہے۔ وہ پرانا ہوگا۔

يَبْطِشُونَ = وہ پکڑتے ہیں یا پکڑیں گے۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

(مضارع- جمع مذکر غائب)

يُبْتَلِسُ = وہ ناامید ہوتا ہے یا ہوگا۔ (مضارع-
واحد مذکر غائب)

(حَتَّى) يَبْلُغُ = وہ پہنچے۔ (مضارع منصوب-
واحد مذکر غائب)

يَبْلُغَنَّ = ضرور پہنچ جائے۔ (مضارع بانون
ثقلیدہ۔ واحد مذکر غائب)

يَبْلُغَا = وہ دونوں پہنچ جائیں۔ (مضارع- تشبیہ
مذکر غائب)

(لَمْ) يَبْلُغُوا = وہ نہیں پہنچے۔ (مضارع نفی
حمد۔ جمع مذکر غائب)

يَبْلُغُونَ = وہ پہنچاتے ہیں یا پہنچائیں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَبْلُؤُ = وہ آزماتا ہے۔ وہ آزمائے گا۔ (مضارع-
واحد مذکر غائب)

(لِ) يَبْلُؤَنَّ = وہ ضرور آزمائے گا۔ (مضارع
بلاام تاکید و نون ثقلیدہ۔ واحد مذکر غائب)

(لِ) يَبْلُؤِي = تاکہ وہ آزمائش کرے۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب۔ ناصب بلاام "کنی")

يَبْؤُزُ = وہ خراب ہوگا۔ وہ ہلاک ہوگا۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَبْيِثُونَ = وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُبَيِّنُ = وہ اچھی طرح بیان کرتا ہے۔ وہ اچھی
طرح بیان کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَبْيِثُونَ = وہ رات گزارتے ہیں۔ (مضارع-
جمع مذکر غائب)

(لِ) يَبْيِثَنَّ = وہ ضرور بیان کرے گا۔
(مضارع۔ بلاام تاکید نون ثقلیدہ۔ واحد مذکر غائب)

ی-ت

يَتَأَخَّزُ = وہ پیچھے رہتا ہے یا رہے گا۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَتَأَمُّهُ = بے باپ کے لڑکے اور لڑکیاں۔
(اسم جمع) (واحد یتیم ہے)

(لَمْ) يَتَّبِعْ = اس نے توبہ نہیں کی۔ (نفی
حمد۔ واحد مذکر غائب)

يَتَبَدَّلُ = وہ تبدیل کرتا ہے۔ وہ بدل ڈالے
گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لِ) يَتَبَدَّرُوا = تاکہ وہ ہلاک کریں۔ (مضارع-
جمع مذکر غائب۔ لام "کنی" کی وجہ سے "نون"
گر گیا۔)

يَتَّبِعُ = وہ پیروی کرتا ہے۔ وہ پیروی کرے گا۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَتَّبِعُ = وہ پیچھے آئے۔ (مضارع۔ واحد
مذکر غائب)

يَتَّبِعُ = وہ پیروی کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔
(مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

(لَا) يَتَّبِعُونَ = وہ نہیں پیچھے لاتے۔ (مضارع

نفی۔ جمع مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ پیروی کرتے ہیں یا کریں گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ جگہ پکڑتا ہے یا پکڑے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ ظاہر ہو جائے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ گھونٹ گھونٹ پیتا ہے یا پئے

گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ اجتناب کرتا ہے۔ وہ بچتا ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ آپس میں جھگڑیں گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ فیصلہ چاہتے ہیں یا چاہیں

گے۔ (مضارع منصوب۔ جمع مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ چپکے چپکے کہتے ہیں۔ وہ چپکے

چپکے کہیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ دیوانہ بنا دیتا ہے یا بنائے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ اختیار کرے۔ وہ بنائے۔ وہ پکڑتا

ہے۔ وہ بناتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يَتَّبِعُونَ = اس نے نہیں پکڑا۔ (مضارع

نفی جمد۔ واحد مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ اختیار کریں۔ (مضارع منصوب

و مجزوم۔ جمع مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ پکڑتے ہیں یا پکڑیں گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَتَّبِعُونَ = انہوں نے اختیار نہیں کیا۔

(نفی جمد۔ مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ اچک لے جاتا ہے یا لے

جائے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ اچک لیا جاتا ہے یا لیا جائے

گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

(أَنْ) يَتَّبِعُونَ = یہ کہ وہ بھیجے رہیں۔

(مضارع منصوب۔ جمع مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ پسند کرتے ہیں۔ وہ پسند کریں

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَّبِعُونَ = وہ سوچتے ہیں۔ وہ سوچیں گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

تَتَذَكَّرُونَ = وہ نصیحت پکڑتا ہے۔ وہ نصیحت

پکڑے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَتَذَكَّرُونَ = وہ نصیحت مانتے ہیں۔ وہ نصیحت

مانیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

تَتَذَكَّرُونَ = وہ نصیحت پکڑتا ہے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

(لَنْ) يَتَّبِعُونَ = وہ ہرگز کم نہیں کرے گا۔

(مضارع نفی موكد معلوم بالن نائب۔ واحد

مذکر غائب)

(أَنْ) يَتَرَجَعًا = وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں۔ (مضارع۔) تنزیہ مذکر غائب۔ ان کی وجہ سے ”نون“ گرا ہوا ہے۔

يَتَرَبَّصُّ = وہ انتظار کرتا ہے۔ وہ انتظار کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَتَرَبَّصُّنَّ = وہ انتظار کریں۔ (مضارع۔ جمع مونث غائب۔ بمعنی امر)

يَتَرَبَّصُّونَ = وہ انتظار کرتے ہیں یا کریں گے۔ امید رکھتے ہیں یا رکھیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَرَدَّدُونَ = وہ بھٹکتے ہیں یا بھٹکیں گے۔ وہ پھرتے ہیں یا پھریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَرَقَّبُ = وہ راہ دیکھتا ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُتْرَكُ = وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

(أَنْ) يُتْرَكُوا = وہ چھوڑ دیئے جائیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب۔ با ”ان“ ناصب۔)

يَتَرَكُّنِي = وہ پاک ہوتا ہے یا ہو گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَتَسَأَلُوا = وہ آپس میں پوچھیں۔ (مضارع۔ منصوب۔ جمع مذکر غائب)

يَتَسَاءَلُونَ = وہ آپس میں پوچھتے۔ آپس میں

پوچھیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَسَلَّلُونَ = وہ آنکھ بچا کر نکل جاتے ہیں یا نکل جائیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَتَسَنَّهْ = وہ نہیں بد مزہ ہوا۔ وہ باسی نہیں ہوا۔ (مضارع نفی جحد۔ واحد مذکر غائب)

(اصل میں يَتَسَنَّئُنَّ تھا آخر کا ”ن“ خلاف قیاس ”ه“ سے بدل گیا۔)

يَتَصَرَّغُونَ = وہ گڑگڑاتے ہیں یا گڑگڑائیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(أَنْ) يَتَطَهَّرُوا = یہ کہ وہ اچھی طرح پاک ہوں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَطَهَّرُونَ = وہ خوب پاک ہوتے ہیں۔ وہ خوب پاک ہوں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَعَارَفُونَ = وہ آپس میں پہچانتے ہیں۔ وہ آپس میں پہچانیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَعَدَّدُ = وہ حد سے گزرتا ہے۔ وہ حد سے گزرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَتَعَلَّمُونَ = وہ سیکھتے ہیں یا سیکھیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَغَامَرُونَ = وہ آنکھ سے آپس میں کنایہ کرتے ہیں۔ وہ حقارت سے دیکھتے ہیں۔ وہ حقارت سے دیکھیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَتَغَيَّرْ = وہ نہیں متغیر ہوا۔ نہیں بدلا۔

(مضارع نفی جمد- واحد مذکر غائب)

يَتَفَجَّرُ = وہ جاری ہوتا ہے یا ہوگا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

(أَنْ) يَتَفَرَّقَا = یہ کہ وہ دونوں جدا ہوں۔

(مضارع- تشبیہیہ مذکر غائب)

يَتَفَرَّقُونَ = وہ منتشر ہوتے ہیں۔ وہ جدا ہوں

گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

(أَنْ) يَتَفَضَّلَ = وہ فضیلت حاصل کرے۔

(مضارع منصوب- واحد مذکر غائب)

يَتَفَطَّرُونَ = وہ پھٹ پڑیں۔ (مضارع- جمع

مونث غائب)

(لِ) يَتَفَقَّهُوْا = تاکہ وہ سمجھ پیدا کریں۔

(مضارع منصوب- جمع مذکر غائب)

يَتَفَكَّرُونَ = وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ غور

و فکر کریں۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَتَفَكَّرُوا = انہوں نے غور نہیں کیا۔

(نفی جمد- جمع مذکر غائب)

يَتَفَيَّئُوا = وہ ڈھلتا ہے۔ وہ رجوع کرتا ہے۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَتَقَبَّلُ = وہ قبول کرتا ہے یا کرے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

(لَنْ) يَتَقَبَّلَ = ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

(مضارع مجہول منفی موکد- واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يَتَقَبَّلُ = نہیں قبول کیا گیا۔ (مضارع

مجہول منفی جمد- واحد مذکر غائب)

(أَنْ) يَتَقَدَّمَ = یہ کہ وہ آگے بڑھے۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَتَقَفَّوْنَ = وہ بچتے ہیں۔ وہ بچیں۔ وہ ڈریں۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

يَتَقَفَّى = وہ پرہیز کرتا ہے یا کرے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَتَكَيَّفُونَ = وہ تکیہ لگاتے ہیں یا لگائیں گے۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

يَتَكَبَّرُونَ = وہ تکبر کرتے ہیں۔ وہ تکبر کریں

گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَتَكَلَّمُ = وہ بات کرتا ہے یا کرے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَتَكَلَّمُونَ = وہ بات کرتے ہیں یا کریں گے۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

يُنَلِّي = وہ پڑھا جاتا ہے۔ وہ پڑھا جائے گا۔

(مضارع مجہول- واحد مذکر غائب)

يَتَلَاوَمُونَ = وہ آپس میں ملامت کرتے ہیں

یا کریں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

(ف + ل) يَتَلَطَّفُ = چاہئے کہ وہ نرمی

برتے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يَتَلَقَّى = وہ لیتا ہے۔ (مضارع- واحد

مذکر غائب)

يَتَلَوُّوا = وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ (تلاوة

سے۔ مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَتَلَوْنَ = وہ پیچھے آتا ہے۔ (تلاً سے۔ مضارع۔
واحد مذکر غائب)

يَتَلَوْنَ = وہ پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتِمُّ = وہ تمام کرتا ہے۔ وہ پورا کرے
گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(أَنْ) يَتِمَّاسًا = وونوں آپس میں چھوئیں۔
جماع کریں۔ (مضارع۔ تثنیہ مذکر غائب)

يَتَمَتَّعُونَ = وہ فائدہ لیتے ہیں یا لیں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَمَتَّعُوا = وہ فائدہ اٹھائیں۔ (مضارع مجزوم۔
جمع مذکر غائب)

يَتَمَطَّى = وہ اگڑتا ہے۔ وہ اتراتا ہے۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَنْ) يَتَمَنَّوْا = وہ ہرگز آرزو نہیں کریں
گے۔ (مضارع نفی موکد بالن نامبہ۔ جمع مذکر
غائب)

(لَا) يَتَمَنَّوْنَ = نہ وہ آرزو کریں گے۔
(مضارع منفی۔ جمع مذکر غائب)

يَتَنَاجَوْنَ = وہ کان میں سرگوشیاں کرتے ہیں
یا کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَنَازَعُونَ = وہ آپس میں جھگڑتے ہیں۔ وہ
آپس میں جھگڑیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَنَافُسُونَ = وہ خواہش کرتے ہیں۔ وہ
خواہش کریں گے۔ وہ رغبت کرتے ہیں۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَنَاهَوْنَ = وہ آپس میں منع کرتے ہیں۔ وہ
باز آتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَنَزَّلُ = وہ اترتا ہے یا اترے گا۔ (مضارع۔
واحد مذکر غائب)

يَتَوَازَى = وہ چھپتا ہے یا چھپے گا۔ (مضارع۔
واحد مذکر غائب)

يَتُوبُ = وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا۔ وہ
رجوع کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لِ) يَتُوبُوا = وہ توبہ کریں۔ (امر۔ جمع مذکر
غائب)

يَتُوبُونَ = وہ توبہ کرتے ہیں۔ وہ توبہ کریں
گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَوَقَّى = وہ پورا لیتا ہے۔ وہ پورا لے گا۔ وہ
قبض کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَتَوَقَّى = وہ پورا لیا جاتا ہے۔ وہ قبض کر لیا
جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يَتَوَقَّفُونَ = وہ اٹھائے جائیں۔ ان کی جان
قبض کر لی جائے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَوَكَّلُ = وہ بھروسہ کرتا ہے۔ وہ بھروسہ
کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَتَوَكَّلُونَ = وہ بھروسا کرتے ہیں یا کریں

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَوَلَّى = وہ پیٹھ پھیرتا ہے یا پھیرے گا۔
دوست بنانا ہے یا دوست بنائے گا۔ (مضارع۔
واحد مذکر غائب)

(هَنْ) يَتَوَلَّى = جو کوئی پیٹھ پھیرے۔ (واحد مذکر
غائب۔ مجزوم)

يَتَوَلَّوْنَ = وہ دوست بناتے ہیں۔ وہ پیٹھ
پھیرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَتَوَلَّوْا = وہ پیٹھ پھیریں گے۔ (مضارع مجزوم۔
جمع مذکر غائب)

يَتِيمٌ = نابالغ بچہ جس کا باپ مر جائے۔ (اسم
واحد) (جمع یتامی ہے)

يَتِيمَيْنِ = بے باپ کے دو لڑکے۔ (اسم
تثنیہ) (واحد یتیم اور جمع یتامی ہے۔ بحالت
نصی و جری)

يَتِيهُونَ = وہ حیران پھریں گے۔ وہ پریشان
ہوں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

ی-ث

يُثَبِّتُ = وہ ثابت رکھتا ہے۔ وہ قائم
رکھتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُثَبِّتُ = وہ برقرار رکھتا ہے۔ وہ باقی رکھتا
ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(ل) يُثَبِّتُوا = تاکہ وہ قید کریں۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب۔ منصوب کی وجہ سے ”نون“ گر گیا۔)

(ل) يُثَبِّتْنَ = تاکہ وہ خون ریزی کرے۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب۔ منصوب بوجہ لام
”کتی“)

يُثْرِبُ = نبی اکرم ﷺ کی تشریف آوری سے
پہلے مدینہ منورہ کا نام تھا۔ بعد ازاں مدینہ منورہ
کو اس نام سے پکارنا منع کر دیا گیا۔

(أَنْ) يُثَقِّفُوا = اگر وہ پائیں۔ (مضارع۔ أَنْ کی
وجہ سے مجزوم ہے۔ جمع مذکر غائب)

يُثْتَوْنَ = وہ دوہرے کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع
مذکر غائب)

ی-ج

يُجَادِلُ = وہ جھگڑتا ہے۔ وہ جھگڑے گا۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُجَادِلُونَ = وہ جھگڑتے ہیں۔ وہ جھگڑیں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُجَاوِزُ = وہ پناہ دیا جاتا ہے۔ وہ پناہ دیا جائے
گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يُجَاوِزُونَ = وہ نزدیک ہوں گے۔ وہ ہمسایہ
ہوں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُجَاوِزُونَ = وہ چلائیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر
غائب)

يُجَاهِدُ = وہ جہاد کرتا ہے یا جہاد کرے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُجَاهِدُونَ = وہ لڑائی کرتے ہیں یا لڑائی

کریں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

(أَنْ) يُجَاهِدُوا = یہ کہ وہ جہاد کریں۔

(مضارع- جمع مذکر غائب- منصوب بوجہ "أَنْ")

يُجِيبِي = وہ کھینچا جاتا ہے۔ وہ کھینچا جائے گا۔

(مضارع مجہول- واحد مذکر غائب)

(لَا) يُجِيبُ = وہ نہ قبول کرے۔ (مضارع-)

مجزوم بوجہ لام نہی- واحد مذکر غائب)

يَجْتَنِي = وہ چھانٹ لیتا ہے۔ (مضارع- واحد

مذکر غائب)

يَجْتَنِيُونَ = وہ بچتے ہیں۔ وہ پرہیز کرتے

ہیں۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَجْحَدُ = وہ انکار کرتا ہے۔ وہ انکار کرے

گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يَجْحَدُونَ = وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ انکار

کریں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَجِدُ - وہ پاتا ہے۔ وہ پائے گا۔ (مضارع-)

واحد مذکر غائب)

يَجِدُونَ = وہ پاتے ہیں۔ وہ پائیں گے۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَجِدْ - اس نے نہیں پایا۔ (لفظی حمد-

واحد مذکر غائب)

(وَل) يَجِدُوا = چاہئے کہ وہ معلوم کریں۔

(مضارع مجزوم بوجہ لام- امر- جمع مذکر غائب)

(لَمْ) تَجِدُوا = تم نہ پاؤ۔ (مضارع مجزوم بوجہ

لَمْ- جمع مذکر حاضر)

(لَنْ) يَجِدُوا = وہ ہرگز نہیں پائیں گے۔

(مضارع- لفظی موکد معلوم منصوب بوجہ لَنْ -

جمع مذکر غائب)

(لِ) يَجِدُوا = چاہئے کہ وہ پائیں۔ (مضارع

بمعنی امر- جمع مذکر غائب)

يَجِزُّ = وہ کھینچتا ہے۔ وہ کھینچے گا۔ (مضارع-

واحد مذکر غائب)

يُجِزُّ = وہ پناہ دے گا۔ (مضارع مجزوم- واحد

مذکر غائب)

(لَا) يَجْرِمَنَّ = نہ آمادہ کرے۔ (نہی بانوں

تاکید ثقلید- واحد مذکر غائب)

يَجْرِي = وہ بہتا ہے۔ (مضارع- واحد

مذکر غائب)

يُجْزِي = وہ بدلہ دیا جاتا ہے۔ وہ بدلہ دیا

جائے گا۔ (مضارع مجہول- واحد مذکر غائب)

يُجْزُونَ = وہ بدلہ دیئے جاتے ہیں۔ وہ بدلہ

دیئے جائیں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَجْزِي = وہ بدلہ دیتا ہے۔ وہ بدلہ دے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَجْعَلُ = وہ کرتا ہے۔ وہ کرے گا۔ وہ مقرر

کرے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

یُجِیْرُ = وہ پناہ دیتا ہے۔ وہ بچاتا ہے۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَنْ) یُجِیْعَلُ = وہ ہرگز پناہ نہیں دے گا۔
(مضارع نفی موکد بہ لن۔ واحد مذکر غائب)

ی-ح

یُحَاجُّوْنَ = وہ جھگڑا ڈالتے ہیں۔ وہ جھگڑا
ڈالیں گے۔ وہ حجت کرتے ہیں۔ وہ حجت کریں
گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لِ) یُحَاجُّوْا = تاکہ وہ جھگڑا کریں۔ (مضارع
منصوب۔ جمع مذکر غائب)

(مَنْ) یُحَادِدُ = جو کوئی دشمنی کرے۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب۔ مجزوم بوجہ مَنْ شرطیہ)
یُحَادِّثُوْنَ = وہ خلاف کرتے ہیں۔ وہ مخالفت
کریں گے۔ وہ دشمنی کرتے ہیں۔ وہ دشمنی کریں
گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

یُحَادِرِیْوْنَ = وہ لڑائی کرتے ہیں یا لڑائی کریں
گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

یُحَاسِبُ = وہ حساب کرتا ہے۔ وہ حساب
کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

یُحَاسِبُ = وہ حساب لیا جائے گا۔ (مضارع
مجمول۔ واحد مذکر غائب)

یُحَاطُ = وہ گھیرا جائے گا۔ (مضارع مجمول۔
واحد مذکر غائب)

(لَمْ) یَجْعَلْ = اس نے نہیں بنایا۔ (مضارع
مجزوم بوجہ لَمْ۔ واحد مذکر غائب)

(لَنْ) یَجْعَلُ = وہ ہرگز نہیں کرے گا۔
(مضارع۔ منصوب بوجہ لَنْ۔ واحد مذکر غائب)

(أَنْ) یَجْعَلُوْا = وہ ڈال دیں۔ (مضارع
منصوب۔ بوجہ أَنْ ”نون“ گر گیا۔ جمع مذکر غائب)
یَجْعَلُوْنَ = وہ کرتے ہیں یا کریں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

یُجَلِّیْ = وہ ظاہر کرے گا۔ وہ روشن کرے
گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

یَجْمَحُوْنَ = وہ سرکشی کرتے ہیں۔ وہ
سرکشی کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

یَجْمَعُ = وہ جمع کرتا ہے۔ وہ جمع کرے گا۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

یَجْمَعُوْنَ = وہ جمع کرتے ہیں۔ وہ جمع کریں
گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لِ) یَجْمَعَنَّ = وہ ضرور جمع کرے گا۔
(مضارع لام تاکید بانون ثقیلہ۔ واحد مذکر غائب)

یُجَنَّبُ = وہ بچایا جائے گا۔ وہ دور رکھا جائے
گا۔ (مضارع مجمول۔ واحد مذکر غائب)

یُجْهَلُوْنَ = وہ جہالت کرتے ہیں۔ وہ جہالت
کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

یُجِیْبُ = وہ جواب دیتا ہے۔ وہ قبول کرتا
ہے۔ وہ قبول کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)



واحد مذکر غائب)	يُحَافِظُونَ = وہ تمہاری کرتے ہیں۔ وہ
(لَمْ) يَحْتَسِبُوا = انہوں نے گمان نہیں کیا۔	حفاظت کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
(مضارع نفی جحد۔ جمع مذکر غائب)	يُحَاوِرُ = وہ سوال و جواب کرتا ہے یا سوال
يُحَدِّثُ = وہ پیدا کرتا ہے۔ وہ پیدا کرے گا۔	و جواب کریں گے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يُحِبُّ = وہ دوست رکھتا ہے۔ وہ محبت
يُحَدِّدُ = وہ ڈراتا ہے۔ وہ ڈرائے گا۔	رکھتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يُحِبُّ = وہ محبت کرے گا۔ وہ دوست رکھے
يَحْدُرُ = وہ ڈرتا ہے۔ وہ ڈرے گا۔ (مضارع۔	گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب۔ مجزوم)
واحد مذکر غائب)	يُحَبِّرُونَ = وہ آؤ بھگت کئے جائیں گے۔ وہ
(كَانُوا) يَحْدُرُونَ = وہ بچیں۔ وہ ڈریں۔	تعظیم کئے جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)	غائب)
يُحَرِّفُونَ = وہ حرف پھیرتے ہیں۔ وہ بدل	يُحْبِسُ = وہ روکتا ہے۔ وہ روکے گا۔
دیتے ہیں۔ وہ عبارت میں تغیر و تبدل کرتے	(مضارع۔ واحد مذکر غائب)
ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	(لَا) يُحْبِطُ = وہ ضائع نہیں کرے گا۔
يُحَرِّمُ = وہ حرام کرتا ہے یا حرام کرے گا۔	(مضارع۔ واحد مذکر غائب)
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)	(لَا) يُحْبِطَنَّ = البتہ وہ ضرور ضائع ہوں۔
يُحَرِّمُونَ = وہ حرام سمجھتے ہیں۔ وہ حرام	(مضارع بانون ثقیلہ۔ واحد مذکر غائب)
سمجھیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	يُحِيطُ = وہ ختم کرے گا۔ وہ ضائع کرے
(لَا) يُحَزِّنُ = وہ غم نہ کھائیں۔ (فعل نھی۔	گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
جمع مونث غائب)	يُحِبُّونَ = وہ دوست رکھتے ہیں۔ وہ محبت
(لَا) يُحَزِّنُ = وہ غمگین کرتا ہے۔ (مضارع	کریں۔ وہ پسند کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر
منسوب۔ واحد مذکر غائب)	غائب)
يُحْزِنُونَ = وہ غمگین ہوتے ہیں۔ وہ غمگین	يَحْتَسِبُ = وہ امید رکھتا ہے یا امید رکھے
ہوں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	گا۔ وہ خیال رکھتا ہے یا خیال رکھے گا۔ (مضارع۔

يَحْسَبُ = وہ خیال کرتا ہے۔ وہ خیال کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَحْسَبُونَ = وہ سمجھتے ہیں۔ وہ گمان کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَا) يَحْسَبَنَّ = ہر گز گمان نہ کریں۔ (مضارع نہی۔ بانوں ثقلید۔ واحد مذکر غائب)

يَحْسُدُونَ = وہ حسد کرتے ہیں۔ وہ حسد کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُحْسِنُونَ = وہ نیکی کرتے ہیں۔ وہ احسان کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَحْشُرُ = وہ جمع کرتا ہے۔ وہ جمع کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُحْشِرُ = وہ جمع کیا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يُحْشِرُونَ = وہ جمع کئے جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)

يُحْضِضُ = وہ تاکید کرتا ہے۔ وہ ترغیب دلاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُحْضِرُونَ = وہ حاضر ہوں میرے پاس۔ وہ میرے نزدیک ہوں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

اصل میں يُحْضِرُونِي تھا۔ (لَمْ) يَحْضِرَنَّ = وہ حیض والی نہیں ہوں گی۔

وہ حیض نہیں لائیں۔ (مضارع نفی جمد۔ جمع مونث غائب)

يَحْطِمُ = وہ توڑتا ہے یا توڑے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَا) يَحْطِمَنَّ = وہ نہ توڑ دے۔ (مضارع نفی موکد۔ واحد مذکر غائب)

يُخْفِ = وہ تنگ کرے مانگنے میں۔ وہ سختی سے تقاضا کرے۔ وہ لپٹ کر مانگے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَحْفَظَنَّ = وہ حفاظت کریں۔ وہ بچائیں۔ (مضارع۔ جمع مونث غائب)

يَحْفَظُونَ = وہ حفاظت کرتے ہیں۔ وہ حفاظت کریں گے۔ وہ یاد کرتے ہیں یا یاد کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَحْفَظُوا = وہ حفاظت کریں۔ (مضارع مجزوم۔ جمع مذکر غائب)

يَحِقُّ = وہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ درست ہوتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُحِقُّ = وہ درست اور سچا کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَحْكُمُ = وہ فرماتا ہے۔ وہ حکم کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُحْكِمُ = وہ مضبوط کرتا ہے۔ وہ پختہ کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

ہے۔ وہ استوار کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يَحْكَمْ = اس نے حکم نہیں کیا۔

(مضارع نفی جمد- واحد مذکر غائب)

يُحْكَمَانِ = وہ دونوں حکم کرتے ہیں۔ وہ

دونوں فیصلہ کرتے ہیں۔ مراد حضرت داؤد عليه السلام

اور حضرت سلیمان عليه السلام - (مضارع- تشبیہ

مذکر غائب)

يُحْكَمُونَ = وہ حکم فرماتے ہیں۔ وہ حکم

فرمائیں گے۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ (مضارع- جمع

مذکر غائب)

يُحْكَمُونَ = وہ حکم مانتے ہیں۔ وہ فیصل

مانتے ہیں۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يُحِلُّ = وہ حلال ہوتا ہے۔ وہ حلال ہوگا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُحِلُّ = وہ حلال کرتا ہے۔ وہ حلال کرے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُخْلِقُونَ = وہ قسم کھاتے ہیں۔ وہ قسم

کھائیں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

(أَل) يَخْلِفَنَّ = وہ ضرور قسم کھائیں

گے۔ (مضارع بلام تاکید نون ثقیلہ- جمع مذکر

غائب)

(هَنْ) يَحْلِلُ = جس پر وارد ہو۔ جس پر

نازل ہو۔ (اس کو یحلُّ بھی پڑھتے ہیں۔ مضارع

مجزوم- واحد مذکر غائب)

يَحِلُّونَ = وہ حلال ہوتے ہیں۔ (مضارع- جمع

مذکر غائب)

يَحِلُّوْ = حلال کریں۔

يُحِلُّونَ = وہ حلال سمجھتے ہیں۔ وہ حلال قرار

دے لیتے ہیں۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يُحِلُّونَ = وہ پہنائے جائیں گے۔ اس کی

اصل يُحِلِّفِيُونُ تھی۔ ”ی“ گر گئی۔ (مضارع

مجہول- جمع مذکر غائب)

يُخْمِي = وہ گرم کیا جائے گا۔ وہ دھکایا جائے

گا۔ (مضارع مجہول- واحد مذکر غائب)

يُحْمَدُوا = وہ تعریف کئے جائیں گے۔

(مضارع منصوب و مجزوم مجہول- جمع مذکر غائب)

يُحْمِلُ = وہ اٹھاتا ہے یا اٹھائے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُحْمَلُ = وہ اٹھایا جاتا ہے۔ وہ بوجھ ڈالا

جائے گا۔ (مضارع مجہول- واحد مذکر غائب)

يَحْمِلُنَ = وہ اٹھائیں۔ وہ اٹھائیں گی۔

(مضارع- جمع مؤنث غائب)

(أَل) يَحْمِلَنَّ = وہ ضرور اٹھائیں گے۔

(مضارع بلام تاکید و نون ثقیلہ- جمع مذکر غائب)

يَحْمِلُونَ = وہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اٹھائیں گے۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

يَحْمِلُوا = وہ اٹھائیں۔ (مضارع منصوب- جمع

مذکر غائب)

(لَمْ) يَحْمِلُوا = انہوں نے نہیں اٹھایا۔

(مضارع نفی جمد- جمع مذکر غائب)

يَحْمُومُ = کالا دھواں۔ دوزخ میں آگ کے ایک پہاڑ کا نام ہے جس کے سایہ میں دوزخی پناہ لیں گے۔

(لَنْ) يَحُوْرُ = وہ ہرگز نہیں پھرے گا۔ (مضارع نفی بہ لن- واحد مذکر غائب)

يَحُوْرُ = وہ روک لیتا ہے۔ وہ حائل ہو جاتا ہے۔ وہ گھیرتا ہے۔ وہ گھیرے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يَحْيِي = وہ جیتا ہے۔ وہ جنے گا۔ زندہ رہے گا۔ نام پیغمبر جو حضرت زکریا عليه السلام کے بیٹے تھے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب- اسم علم)

يُحْيِي = وہ زندہ کرتا ہے۔ وہ زندہ کرے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يُحْيِي = اس نے دعا نہیں دی۔ اس نے سلام نہیں کیا۔ (مضارع نفی جمد- واحد مذکر غائب)

يُحْيِطُونَ = وہ گھیرتے ہیں۔ وہ گھیریں گے۔ وہ پاتے ہیں۔ وہ پائیں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يُحْيِطُوا = انہوں نے نہیں گھیرا۔ (مضارع نفی جمد- جمع مذکر غائب)

(أَنْ) يَحْيِفُ = وہ ظلم کرے۔ وہ زیادتی کرے۔ (مضارع منصوب بوجہ ان- واحد

مذکر غائب)

يَحْيِقُ = وہ پکڑتا ہے۔ وہ پکڑے گا۔ وہ گھیرتا ہے۔ وہ گھیرے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

ی-خ

يُخَادِعُونَ = وہ آپس میں فریب دیتے ہیں۔ وہ آپس میں فریب دیں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَخَافُ = وہ ڈرتا ہے۔ وہ ڈرے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يَخَافَا = وہ ڈریں۔ (مضارع- تثنیہ مذکر غائب)

يَخَافُونَ = وہ ڈرتے ہیں۔ وہ ڈریں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَخَافُوا = وہ ڈریں۔ (مضارع منصوب- جمع مذکر غائب)

يُخَالِفُونَ = وہ مخالفت کرتے ہیں۔ وہ مخالفت کریں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَخْتَارُ = وہ پسند کرتا ہے۔ وہ پسند کرے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يُخْتَانُونَ = وہ خیانت کرتے ہیں۔ وہ خیانت کریں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَخْتَصُّ = وہ خاص کرتا ہے۔ وہ خاص کرے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يَخْتَلِفُونَ = وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ

اختلاف کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَخْتِمُ = وہ مہر کر دے۔ (مضارع مجزوم۔ واحد مذکر غائب)

يَخْتَصِمُونَ = وہ جھگڑتے ہیں۔ وہ جھگڑیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَخْدَعُونَ = وہ فریب دیتے ہیں۔ وہ فریب دیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(أَنْ) يَخْدُلُ = اگر وہ مدد نہ کرے۔ اگر وہ ذلیل کر دے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُخْرِبُونَ = وہ خراب کرتے ہیں۔ وہ ویران کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَخْرُجُ = وہ باہر نکلتا ہے۔ وہ نکلے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُخْرِجُ = وہ نکالتا ہے۔ وہ نکالے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَنْ) يُخْرِجَ = وہ ہرگز نہیں نکالے گا۔ (مضارع نفی موكد معلوم۔ واحد مذکر غائب)

(أَنْ) يُخْرِجَا = وہ دونوں نکال دیں۔ (مضارع منصوب بوجہ أَنْ - تشبیہیہ مذکر غائب)

(لَا) يَخْرُجَنَّ = وہ نہ نکلیں۔ (نہی۔ جمع مونث غائب)

يَخْرُجُونَ = وہ نکلتے ہیں یا نکلیں گے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَا) يَخْرُجَنَّ = وہ ضرور نکلیں گے۔ (مضارع)

بِالام تآکید بانون ثقیلہ۔ جمع مذکر غائب)

(لَا) يَخْرُجَنَّ = وہ ضرور نکلیں گے۔ (مضارع بِالام تآکید و نون ثقیلہ۔ جمع مذکر غائب)

(لَا) يَخْرُجَنَّ = وہ ضرور نکال دے گا۔ (مضارع بانون ثقیلہ۔ واحد مذکر غائب)

(لَا) يَخْرُجَنَّ = وہ ہرگز نہ نکالے۔ (نہی بانون ثقیلہ۔ واحد مذکر غائب)

(حَتَّى) يَخْرُجُوا = وہ نکل جائیں۔ (مضارع منصوب۔ جمع مذکر غائب)

(لَا) يَخْرُجُوا = وہ نکال دیں۔ (مضارع منصوب۔ جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَخْرُجُوا = انہوں نے نہیں نکالا۔ (نہی جمد۔ جمع مذکر غائب)

يُخْرَجُونَ = وہ باہر نکالے جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)

يُخْرَجُونَ = وہ نکالتے ہیں۔ وہ نکالیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَخْرُصُونَ = وہ اندازے لگاتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَخْرُونَ = وہ گرتے ہیں۔ وہ گریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُخْرِى = وہ رسوا کرتا ہے۔ وہ رسوا کرے گا۔ وہ شرمندہ کرتا ہے۔ وہ شرمندہ کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

یُخْفَى = وہ چھپتا ہے یا چھپے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يُخْزِرُ = وہ رسوا کرے گا۔ (مضارع مجزوم۔ واحد مذکر غائب)
يُخْفِفُ = وہ ہلکا کر دے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يُخْسِرُ = وہ نقصان پاتا ہے۔ وہ نقصان پائے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
يُخَفِّفُ = وہ ہلکا کیا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)	يُخْسِرُونَ = وہ کم کر کے دیتے ہیں۔ وہ کم کر کے دیں گے۔ وہ گھٹا دیتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
يُخْفُونَ = وہ چھپتے ہیں۔ وہ چھپیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	يُخْسِفُ = وہ دھندلا دے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
يُخْفُونَ = وہ چھپاتے ہیں۔ وہ چھپائیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	يُخْشَى = وہ ڈرتا ہے۔ وہ ڈرے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
يُخْفِينَ = وہ چھپاتی ہیں۔ وہ چھپائیں گی۔ (مضارع۔ جمع مونث غائب)	(ل) يَخْشَى = چاہئے کہ ڈرے۔ (مضارع مجزوم باللام امر۔ واحد مذکر غائب)
يَخْلُ = وہ خالی ہوگا۔ (آخر سے ”و“ گر گیا) (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يَخْشُونَ = وہ ڈرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
يَخْلُدُ = وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ رہے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يَخْصِفَانِ = وہ دونوں (آدم و حوا) سیتے ہیں اور جوڑتے ہیں۔ (مضارع۔ تثنیہ مذکر و مونث غائب)
يَخْلُفُ = وہ پیچھے آتا ہے یا پیچھے آئے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يَخْصِمُونَ = وہ دشمنی کرتے ہیں۔ وہ جھگڑتے ہیں۔ (اصل میں یخصمون تھا بقاعدہ صنی ”ت“ کو ”ص“ سے بدل کر اوقام کر دیا) (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
(لَنْ) يُخْلِفُ = وہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا۔ (مضارع نفی موكد بہ لن ناصب۔ واحد مذکر غائب)	يَخْلُقُونَ = وہ خلیفہ ہوں۔ وہ جانشین بنیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
يَخْلُقُ = وہ پیدا کرتا ہے۔ وہ پیدا کرے گا۔ (واحد مذکر غائب)	يَخْطُفُ = وہ اچک لے جائے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُخْلَقُ = وہ پیدا کیا جاتا ہے۔ (مضارع مجہول۔

واحد مذکر غائب)

(لَنْ) يَخْلُقُوا = وہ ہرگز پیدا نہیں کریں

گے۔ (مضارع نفی موكد بہ لن۔ جمع مذکر غائب)

يَخْلُقُونَ = وہ پیدا کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب)

يُخْلَقُونَ = وہ پیدا کئے جاتے ہیں۔ (مضارع

مجہول۔ جمع مذکر غائب)

يَخْوُضُونَ = وہ بیٹھتے ہیں۔ وہ مشغول ہوتے

ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُخَوِّفُ = وہ ڈراتا ہے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يُخَوِّفُونَ = وہ ڈراتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب)

يُخَيِّلُ = وہ خیال میں ڈالا جاتا ہے۔ (مضارع

مجہول۔ واحد مذکر غائب)

کی وجہ سے گر گیا)

يُدْفَعُ = وہ دور کرتا ہے۔ وہ روکتا ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُدَبِّرُ = وہ تدبیر کرتا ہے۔ وہ تدبیر کرے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لِ) يَدَّبَّرُوا = وہ سوچیں۔ وہ تدبیر کریں۔

(مضارع نفی جمد۔ جمع مذکر غائب)

يُدْحِضُونَ = وہ باطل کریں۔ وہ ٹکلت دے

دیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَدْخُلُ = وہ داخل ہوتا ہے۔ وہ داخل

ہو جائے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُدْخِلُ = وہ داخل کیا جائے گا۔ (مضارع

مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يُدْخِلُونَ = وہ داخل کرتا ہے۔ وہ داخل کرے

گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُدْرُونَ = وہ دفع کرتے ہیں۔ وہ دفع کریں

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُدْرُسُونَ = وہ پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھیں گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُدْرِكُ = وہ پاتا ہے۔ وہ پکڑے گا۔ وہ احاطہ

کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُدْرِي = وہ خبردار کرتا ہے۔ وہ خبردار کرے

گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُدْشُ = وہ گاڑتا ہے۔ وہ گاڑے گا۔

ی - د

يُدُّ = ہاتھ۔ قوت۔ نعمت۔ (اسم واحد۔ جمع

ایدی اور جمع الجمع ایادی ہے ید کی اصل

يُدِّي تھی "ی" گر گئی۔)

يُدَا = دو ہاتھ۔ (اسم تثنیہ) (واحد ید اور جمع

يُدِّي ہے) (اصل میں یدان تھا۔ "ن" اضافت

(مضارع- واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يَدْعُ = اس نے نہیں پکارا۔ (مضارع

نفی جحد- واحد مذکر غائب)

يَدْعُ = وہ بلائے۔ (مضارع مجزوم- واحد مذکر

غائب)

يَدْعُ = وہ دھکیلا ہے۔ وہ دھکیلے گا۔ (مضارع-

واحد مذکر غائب)

يُدْعَى = وہ بلایا جاتا ہے یا بلایا جائے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَدْعُو = وہ بلاتا ہے یا بلائے گا۔ (مضارع-

واحد مذکر غائب)

يُدْعَوْنَ = وہ بلاتے ہیں یا بلائیں گے۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

يُدْعَوْنَ = وہ بلائے جاتے ہیں یا بلائے جائیں

گے۔ (مضارع مجہول- جمع مذکر غائب)

يُدْعَوْنَ = وہ دھکیلے جائیں گے۔ (مضارع

مجہول- جمع مذکر غائب)

يُدْمَعُ = وہ پھوڑتا ہے۔ وہ توڑتا ہے۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ = لٹکا لیں اوپر اپنے۔

(مضارع- جمع مونث غائب)

يُدْهِنُونَ = وہ مہانت کریں۔ وہ نرمی برتیں۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

يُدَيِّنِي = دو ہاتھ۔ رو برو۔ (ان بوجہ اضافت گر

گیا۔ اسم تثنیہ۔ بحالت نصی و جری۔ واحد يَدُّ

اور جمع يَدَيُّ (ہے)

يَدِينُونَ = وہ دین اختیار کرتے ہیں یا دین

اختیار کریں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

ی - ذ

يُذَبِّحُ = وہ ذبح کرتا ہے۔ وہ ذبح کرے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُذَبِّحُونَ = وہ ذبح کرتے ہیں۔ وہ ذبح کریں

گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَذَرُ = وہ چھوڑتا ہے۔ وہ چھوڑے۔ (مضارع-

واحد مذکر غائب)

يَذَرُونَ = وہ چھوڑتے ہیں یا چھوڑیں گے۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

يُذَكِّرُ = وہ یاد کیا جاتا ہے۔ وہ یاد کیا جائے۔

(مضارع مجہول- واحد مذکر غائب)

يُذَكِّرُ = وہ ذکر کرتا ہے۔ وہ یاد کرتا ہے۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُذَكِّرُ = وہ نصیحت پکڑتا ہے۔ وہ نصیحت

پکڑے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يُذَكِّرُونَ = وہ ذکر کریں۔ (مضارع منصوب-

جمع مذکر غائب)

يُذَكِّرُونَ = وہ یاد کرتے ہیں۔ وہ یاد کریں

گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَذْكُرُونَ = وہ نصیحت پاتے ہیں۔ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَذُوقُ = وہ چکھتا ہے۔ وہ چکھے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَمَّا) يَذُوقُوا = انہوں نے ابھی تک نہیں چکھا۔ (مضارع نفی جمد۔ جمع مذکر غائب)

يَذُوقُوا = وہ چکھیں۔ (مضارع مجزوم بلام امر۔ جمع مذکر غائب)

يَذْهَبُ = وہ جاتا ہے۔ وہ لے جائے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَذْهَبُ = وہ دور کر دے۔ وہ لے جائے۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يَذْهَبَا = وہ دونوں مٹا دیں۔ وہ دونوں دور لے جائیں۔ (مضارع۔ تشبیہ مذکر غائب)

يَذْهَبَا يَطْرِبُ يَنْقَتِكُمُ الْمَثَلِي = دونوں لے جائیں تم کو پسندیدہ راہ سے۔ (ب تعدیہ کی وجہ سے۔ یہ متعدی ہو گیا) (جملہ خبریہ)

يَذْهَبْنَ = وہ لے جاتی ہیں۔ وہ دور کر دیتیں ہیں۔ (مضارع۔ جمع مونث غائب) (ب تعدیہ کے ساتھ)

(لَمْ) يَذْهَبُوا = وہ نہیں جاتے۔ وہ نہیں گئے۔ (مضارع نفی جمد۔ جمع مذکر غائب)

يَذْهَبَنَّ = وہ ضرور دور کر دے گا۔ (مضارع موکد بانون ثقیلہ۔ واحد مذکر غائب)

يَذُقُّ = وہ چکھاتا ہے۔ وہ چکھائے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

ی-ر

(لَمْ) يَرُ = اس نے نہیں دیکھا۔ (مضارع نفی جمد۔ واحد مذکر غائب)

يَرَى = وہ دیکھتا ہے۔ وہ دیکھے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُرَى = وہ دیکھا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يُرَاءُ وَنَ = وہ دکھلاوا کرتے ہیں۔ آپس میں دکھاتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُرَادُ = وہ ارادہ کیا جاتا ہے یا ارادہ کیا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

(لِ) يَرْبِطُ = وہ باندھے۔ (مضارع منصوب۔ واحد مذکر غائب)

(لِ) يَرْبُؤَا = تاکہ وہ بڑھے۔ (مضارع منصوب۔ واحد مذکر غائب)

يُرْبِي = وہ بڑھاتا ہے۔ وہ اضافہ کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَرْتَابُ = وہ شک کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يَرْتَابُوا = انہوں نے شک نہیں کیا۔ (مضارع نفی جمد۔ جمع مذکر غائب)

یَرْحَمُ = وہ مہربانی کرتا ہے۔ وہ مہربانی کرے گا۔ وہ مہربانی کرے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	أَنْ يَرْتَدَّ = یہ کہ وہ پلٹے۔ وہ پھر جائے۔ وہ پھرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
يُرِدُّ = وہ ارادہ کرے۔ (مضارع مجزوم۔ واحد مذکر غائب)	مَنْ يَرْتَدِّدْ = جو کوئی پھر جائے۔ (مضارع مجزوم۔ واحد مذکر غائب)
يُرَدُّ = وہ پھیرا جاتا ہے۔ وہ پھیرا جائے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يَرْتَعُ = وہ فراغت سے کھائے پئے۔ (مضارع مجزوم۔ واحد مذکر غائب)
لَمْ يُرِدْ = اس نے ارادہ نہیں کیا۔ (مضارع نفی جمد۔ واحد مذکر غائب)	أَلْ يَرْتَقُوا = چاہئے کہ چڑھیں۔ (امر۔ جمع مذکر غائب)
يُرْدُّوا = وہ پھیر دیں۔ (مضارع منصوب و مجزوم۔ جمع مذکر غائب)	يَرِثُ = وہ وارث ہو۔ وہ وارث ہوگا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
يُرْدُّونَ = وہ پھیرتے ہیں۔ وہ پھیر دیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	يَرِثُونَ = وہ وارث ہوتے ہیں۔ وہ وارث ہوں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
يُرْدُّونَ = وہ پھیرے جاتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	يَرْجِعُ = وہ پھرتا ہے۔ وہ لوٹے۔ وہ لوٹاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
يُرْدُّوا = وہ تباہ کر دیں۔ (مضارع منصوب۔ جمع مذکر غائب)	يَرْجِعُ = وہ پھیرا جاتا ہے۔ وہ پھیرا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)
أَلْ يُرْدُّوْا = تاکہ وہ تباہ کر دیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	يَرْجِعُونَ = وہ پھرتے ہیں۔ وہ پھریں۔ وہ لوٹیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
يُرْزُقُ = وہ روزی دیتا ہے۔ وہ روزی دے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يَرْجُمُوا = وہ سنگسار کر دیں گے۔ (مضارع مجزوم۔ جمع مذکر غائب)
يُرْزُقُونَ = وہ روزی دیتے جاتے ہیں۔ وہ رزق دیتے جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)	يَرْجُمُوْا = وہ امید رکھتا ہے۔ وہ امید رکھے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
يُرْزُقَنَّ = وہ ضرور رزق دے گا۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	يَرْجُونَ = وہ امید رکھتے ہیں۔ وہ امید رکھیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

مضارع بلام تاکید نون ثقیلہ۔ واحد مذکر غائب)

يُرْسَلُ = وہ بھیجا جائے گا۔ وہ چھوڑا جائے گا۔

(مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يُرْسَلُ = وہ بھیجتا ہے۔ وہ بھیجے گا۔ وہ بھیجے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُرْسُدُونَ = وہ راہ پاجائیں۔ وہ راہ پا لیں۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُرْضَى = وہ پسند کرے گا۔ (مضارع مجزوم۔

واحد مذکر غائب)

يُرْضَى = وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ خوش

ہو جائے گا۔ وہ پسند کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يُرْضَعْنَ = وہ دودھ پلائیں۔ (مضارع بمعنی

امر۔ جمع مونث غائب)

يُرْضَوْنَ = وہ پسند کریں گے۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب)

يُرْضَوْنَ = وہ پسند کریں۔ (مضارع منصوب۔

جمع مذکر غائب)

يُرْضُونَ = وہ راضی کرتے ہیں۔ وہ راضی

کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُرْضُوا = وہ راضی کریں۔ (مضارع منصوب۔

جمع مذکر غائب)

يُرْضِينَ = وہ خوش ہو جائیں۔ (مضارع۔ جمع

مونث غائب)

يُوعَبُ = وہ منہ پھیرتا ہے۔ وہ روگردانی

کرتا ہے۔ وہ انکار کرتا ہے۔ (انکار کے معنی

”عن“ کے ساتھ دیتا ہے) (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يُوعَبُوا = وہ آرزو کریں۔ (مضارع منصوب یا

مجزوم۔ جمع مذکر غائب)

يُورَفَعُ = وہ بلند کرتا ہے۔ وہ بلند کرے گا۔ وہ

اٹھاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُورَقَّبُوا = وہ لحاظ کریں گے۔ (مضارع مجزوم۔

جمع مذکر غائب)

يُورَقَّبُونَ = وہ پاسداری کرتے ہیں۔ وہ لحاظ

کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُورَكَّبُونَ = وہ سوار ہوتے ہیں۔ وہ سوار ہوں

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُورَكَّبُونَ = وہ گھوڑا بھگاتے ہیں۔ وہ بھاگتے

ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُورَكَّبُونَ = وہ رکوع کرتے ہیں۔ وہ جھکتے

ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُورَكَّبُونَ = وہ تہ بہ تہ رکھے گا۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يُورَمُونَ = وہ تمہمت لگاتے ہیں۔ وہ عیب

لگاتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُورَمِي = وہ پھینکتا ہے یا پھینکے گا۔ (آخر سے

”می“ گری ہوئی ہے) (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

یُرِيدُونَ = وہ ارادہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)
 يُرِيكُمُوهَا = وہ تم کو دکھاتا ہے یا دکھائے گا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب) (مركب ہے۔ آخر میں ضمیر ہے)

ی-ز

يَرَأَى = وہ دور ہوتا ہے یا ہوگا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)
 (لَا) يَرَأَى = وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ رہے گا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب۔ فعل ناقص)
 (لَا) يَرَأُونَ = وہ ہمیشہ رہیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب۔ فعل ناقص)
 يُرْجَى = وہ اٹھاتا ہے۔ وہ چلاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)
 يَرِدُ = وہ بڑھائے گا۔ اضافہ کرے گا۔ (مضارع۔ مجزوم۔ واحد مذكر غائب)
 يَرِدَادُ = وہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ زیادہ ہوگا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)
 (لِ) يَرِدَادُوهَا = وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ (مضارع منصوب۔ جمع مذكر غائب)
 (لَمْ) يَرِدُ = اس نے نہیں زیادہ کیا۔ (مضارع نفی جمد۔ واحد مذكر غائب)
 يَرِزُونَ = وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وہ اٹھائیں

يَرَوَا = وہ دیکھیں۔ (مضارع منصوب۔ جمع مذكر غائب)
 يَرَوَا = وہ دکھلائیں جائیں۔ (مضارع مجہول منصوب و مجزوم۔ جمع مذكر غائب)
 يَرُونَ = وہ دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)
 (لَمْ) يَرَوَا = انہوں نے نہیں دیکھا۔ (مضارع نفی جمد۔ جمع مذكر غائب)
 يَرَهُبُونَ = وہ ڈرتے ہیں۔ وہ ڈریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)
 يَرَهُقُ = وہ ڈھانکتا ہے۔ وہ ڈھانکے گا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)
 يَرَهُقُ = وہ عاجز کر دے۔ وہ بے بس کر دے۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)
 يُرِيئِي = وہ دکھاتا ہے۔ وہ دکھائے گا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)
 يُرِيدُ = وہ ارادہ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)
 يُرِيدَانِ = وہ دونوں ارادہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں ارادہ کریں گے۔ (مضارع۔ تشنیہ مذكر غائب)
 يُرِيدَا = وہ دونوں چاہیں گے۔ (مضارع۔ تشنیہ مذكر غائب۔ حرف جازم کی وجہ سے "نون" گرا ہوا ہے۔)

یَزِيدُونَ = وہ بہت ہوں گے۔ وہ بڑھاتے ہیں۔ وہ بڑھتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
 (كَادَ) يَزِيغُ = وہ ٹیڑھا ہو جائے۔ وہ پھر جائے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

س — س

يُسَارِعُونَ = وہ دوڑتے ہیں۔ وہ جلدی کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
 يُسَاقُونَ = وہ کھینچے جاتے ہیں۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)
 يَسْتَسَلُّ = وہ پوچھتا ہے۔ وہ مانگتا ہے۔ وہ مانگے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
 يُسْتَسَلُّ = وہ پوچھا جاتا ہے۔ وہ سوال کیا جاتا ہے۔ وہ پوچھا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

(أَل) يُسْتَسَلَّنَّ = ان سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ (مضارع مجہول بالام تاکید و نون ثقيلة۔ جمع مذکر غائب)
 يَسْتَسَلُّونَ = وہ پوچھتے ہیں۔ وہ مانگتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
 يَسْتَسَلُّوْا = وہ مانگیں۔ (مضارع مجزوم۔ جمع مذکر غائب)
 يُسْتَسَلُّونَ = وہ پوچھے جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
 يَزْعُمُونَ = وہ گمان کرتے ہیں۔ وہ گمان کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
 (هَنْ) يَزِيغُ = وہ منحرف ہو گا۔ وہ پھرے گا۔ (مضارع مجزوم۔ واحد مذکر غائب)
 يَزِفُونَ = وہ دوڑتے ہیں۔ وہ بھاگتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
 يَزِيغِي = وہ پاک ہو جائے۔ وہ سنور جائے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
 يَزِيكُونَ = وہ پاک سمجھتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
 يَزِيكِي = وہ پاک کرتا ہے۔ وہ پاک کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
 يَزُولُونَ = وہ پھسلا دیں۔ وہ گرا دیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَزُونُونَ = وہ زنا کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
 (أَل) يَزِينِينَ = وہ زنا نہیں کریں گی۔ وہ بدکاری نہیں کریں گی۔ (مضارع نہی۔ جمع مونث غائب)
 يَزْوِجُ = وہ جوڑا ملا دیتا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
 يَزِيدُ = وہ زیادہ کرتا ہے۔ وہ اضافہ کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

مذکر غائب)	يَسْأَلُونَ = وہ پوچھتے ہیں۔ وہ مانگتے ہیں۔
يَسْبِقُونَ = وہ سبقت کرتے ہیں۔ وہ سبقت	(مضارع۔ جمع مذکر غائب)
کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	(لَا) يَسْأَمُ = وہ نہیں تھکتا ہے۔ (مضارع
يَسْتَوُوا = وہ برا بھلا کہیں گے۔ وہ گالی دیں	منفی۔ واحد مذکر غائب)
گے۔ (مضارع منصوب۔ جمع مذکر غائب)	يَسْأَمُ = وہ تھکتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر
يَسْتَأْخِرُونَ = وہ دیر کرتے ہیں۔ وہ دیر	غائب)
کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	يَسْأَهُونَ = وہ ملول ہوتے ہیں۔ وہ تھکتے
يَسْتَأْذِنُ = وہ اجازت چاہتا ہے۔ وہ اجازت	ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
چاہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	(لَا) يَسْتُونَ = وہ ہفتہ نہیں مناتے۔
يَسْتَأْذِنُونَ = وہ اجازت مانگ لیں۔ (مضارع۔	(مضارع نفی۔ جمع مذکر غائب)
جمع مذکر غائب)	يُسَبِّحُ = وہ تسبیح کرتا ہے۔ وہ پاکی بیان کرتا
يَسْتَبْشِرُونَ = وہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ	ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
خوش ہوں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	يُسَبِّحُ = وہ تسبیح کیا جاتا ہے یا تسبیح کیا جائے
يَسْتَشْتُونَ = وہ قسم میں استثناء کرتے ہیں۔	گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)
(یعنی ان شاء اللہ کہتے ہیں) (مضارع۔ جمع مذکر	يُسَبِّحُنَّ = وہ پاکی بیان کرتی ہیں۔ (مضارع۔
غائب)	جمع مؤنث غائب)
يَسْتَجِيبُ = وہ جواب دے۔ پکار کو پہنچے گا۔	يُسَبِّحُونَ = وہ تسبیح کرتے ہیں۔ وہ تسبیح
وہ فریاد کو پہنچاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
يَسْتَجِيبُونَ = وہ جواب دیتے ہیں۔ وہ	يُسَبِّحُونَ = وہ تیرتے ہیں۔ وہ دوڑتے ہیں
جواب دیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	تیزی سے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
(لَا) يَسْتَجِيبُوا = وہ قبول کریں۔ (امر۔ جمع	يَسْبِقُ = وہ آگے ہوتا ہے۔ وہ بڑھتا ہے۔
مذکر غائب)	(مضارع۔ واحد مذکر غائب)
يَسْتَجِيبُونَ = وہ دوست رکھتے۔ وہ پسند	(أَنْ) يَسْبِقُوا = وہ بڑھ جائیں گے۔ وہ
کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	سبقت لے جائیں گے۔ (مضارع منصوب۔ جمع

(لَمْ) يَسْتَجِيبُوا = انہوں نے قبول نہیں

کیا۔ (مضارع نفی جمد۔ جمع مذکر غائب)

يَسْتَحْسِرُونَ = وہ تھکتے ہیں۔ وہ سستی

کرتے ہیں۔ وہ سستی کریں گے۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب)

يَسْتَحْيُونَ = وہ زندہ چھوڑتے ہیں۔ وہ زندہ

چھوڑیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَسْتَحْيِي = وہ شرماتا ہے۔ وہ زندہ رکھتا

ہے۔ وہ زندہ رکھے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَسْتَخْرِجَا = وہ دونوں نکال لیں۔ (مضارع

مجزوم منصوب۔ تثنیہ مذکر غائب)

(لَا) يَسْتَخِفُّنَّ = وہ کبھی بھی ہلکا نہ سمجھے۔

(مضارع بانون ثقلیہ۔ واحد مذکر غائب)

يَسْتَحْفُونَ = وہ چھپتے ہیں یا چھپیں گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَسْتَحْفُوا = وہ چھپ جائیں۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب)

يَسْتَخْلِفُ = وہ خلیفہ کرتا ہے۔ وہ خلیفہ

کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَسْتَخْلِفُونَ = وہ جانشین ہوں گے۔

(مضارع نون تاکید ثقلیہ۔ جمع مذکر غائب)

يَسْتَخْلِفَنَّ = وہ ضرور جانشین بنائے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَسْتَسْخِرُونَ = وہ ہنسی کرتے ہیں۔ وہ ہنسی

کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَسْتَصْرِخُ = وہ فریاد چاہتا ہے۔ وہ فریاد

چاہے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَسْتَضْعِفُ = وہ کمزور کرتا ہے۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

يُسْتَضْعَفُونَ = وہ کمزور شمار کئے جاتے ہیں۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَسْتَطِيعُ = اس نے طاقت نہیں رکھی۔

(مضارع نفی جمد۔ واحد مذکر غائب)

يَسْتَطِيعُ = وہ طاقت رکھتا ہے۔ وہ طاقت

رکھے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب) (ی گرا کر

يَسْتَطِيعُ پڑھتے ہیں۔

يَسْتَطِيعُونَ = وہ طاقت رکھتے ہیں۔ وہ

طاقت رکھیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَسْتَعْتَبُوا = وہ منانے کی خواہش کریں۔

(مضارع مجزوم۔ جمع مذکر غائب)

الْأَسْتَعْتَابُ = صلح چاہنا۔ خوشی کرنا۔ (اسم

مصدر)

يُسْتَعْتَبُونَ = رضامندی دیئے جائیں گے۔ وہ

عذر قبول کئے جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع

مذکر غائب)

يَسْتَعْجِلُ = وہ جلدی کرتا ہے۔ وہ جلدی

چاہتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَسْتَعْجِلُونَ = وہ جلدی کرتے ہیں۔ وہ

جلدی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يَسْتَعْفِفُ = وہ پرہیز کرے۔ وہ بچے۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)

يَسْتَعْفِفْنَ = وہ بچتی رہیں۔ وہ پرہیز کریں۔ (مضارع۔ جمع مؤنث غائب)

يَسْتَعْشِرُونَ = وہ کپڑے لپیٹتے ہیں۔ وہ ڈھانچتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يَسْتَغْفِرُ = وہ معافی چاہے۔ وہ بخشش چاہے۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)

يَسْتَغْفِرُونَ = وہ بخشش چاہتے ہیں یا چاہیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يَسْتَغْفِرُوا = وہ مغفرت چاہیں۔ (مضارع مجزوم۔ جمع مذكر غائب)

يَسْتَعِينَانِ = وہ دونوں فریاد کرتے ہیں۔ وہ فریاد کریں گے۔ (مضارع۔ تثنیہ مذكر غائب)

(أَنْ) يَسْتَعِينُوا = وہ فریاد کریں۔ وہ فریاد چاہیں۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يَسْتَفْتِحُونَ = وہ فتح مانگتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يَسْتَفْتُونَ = وہ دریافت کرتے ہیں۔ وہ فتویٰ چاہتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يَسْتَفِزُّ = وہ نکال دے۔ وہ باہر کر دے۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)

يَسْتَفِزُّونَ = وہ ڈنگا دیں۔ وہ نکال دیں۔ وہ گھبرا دیں۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يَسْتَفِدُّونَ = وہ پیش قدمی کریں گے۔ وہ آگے بڑھیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يَسْتَقِيمُ = وہ سیدھا ہوتا رہے۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)

يَسْتَكْبِرُ = وہ غرور کرتا ہے۔ وہ غرور کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)

يَسْتَكْبِرُونَ = وہ غرور کرتے ہیں۔ وہ غرور کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يَسْتَمِعُ = وہ غور سے سنتا ہے۔ (بات سننے میں کوشش سے کام لینا)۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)

يَسْتَمِعُونَ = وہ غور سے سنتے ہیں۔ وہ غور سے سنیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يَسْتَنْبِئُونَ = وہ ڈھونڈتے ہیں یا ڈھونڈھیں گے۔ آگاہی چاہتے ہیں یا آگاہی چاہیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يَسْتَنْبِطُونَ = وہ دریافت کرتے ہیں۔ وہ تحقیق کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)

(لَا) يَسْتَنْقِدُوا = وہ نہیں چھڑا سکتے۔ (مضارع نہی۔ جمع مذكر غائب)

يَسْتَنْكِحُ = وہ نکاح میں لاتا ہے۔ وہ نکاح میں لائے گا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)

يَسْتَنْكِحَا = وہ دونوں نکاح میں لاتے ہیں۔

وہ دونوں نکاح میں لائیں گے۔ (مضارع۔ تثنیہ مذکر غائب)

(لَنْ) يَسْتَنْكِفُ = ہرگز وہ عار نہیں سمجھتا۔
(مضارع منصوب بال۔ واحد مذکر غائب)

يَسْتَوْفُونَ = وہ پورا لیتے ہیں۔ وہ پورا لیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَسْتَوُونَ = وہ برابر ہوتے ہیں۔ وہ برابر ہوں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَسْتَوِي = وہ برابر ہوتا ہے۔ وہ برابر ہوگا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَسْتَوِيَانِ = وہ دونوں برابر ہیں (مضارع۔ تثنیہ مذکر غائب)

يَسْتَهْزِئُ = وہ ہنسی کرتا ہے۔ وہ ٹھٹھا کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَسْتَهْزِئُا = وہ مذاق کیا جاتا ہے۔ وہ مذاق کیا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يَسْتَهْزِئُونَ = وہ مذاق کرتے ہیں۔ وہ مذاق کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لِ) يَسْتَيَقِنُ = تاکہ وہ یقین کرے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَسْجُدُ = وہ سجدہ کرتا ہے۔ وہ سجدہ کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(أَلَّا) يَسْجُدُوا = کہ وہ نہ سجدہ کریں۔ (نہی)

منصوب۔ جمع مذکر غائب)

يَسْجُدَانِ = وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ (مضارع۔ تثنیہ مذکر غائب)

يَسْجُدُونَ = وہ سجدہ کرتے ہیں۔ وہ سجدہ کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُسْجَرُونَ = وہ گرم کئے جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)

(لِ) يُسْجَنَنَّ = وہ ضرور قید کیا جائے گا۔ (مضارع مجہول لام تاکید و بانون تاکید ثقلید۔ واحد مذکر غائب)

يُسْجَنُ = وہ قید کیا جائے گا۔ (مضارع منصوب۔ واحد مذکر غائب)

يُسْجَبُونَ = وہ گھسیٹے جائیں گے۔ وہ کھینچے جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)

يُسْجَحُ = وہ ہلاک کر دے۔ وہ تباہ کر دے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَا) يُسْخَرُ = وہ نہ مذاق کرے۔ (مضارع نہی۔ واحد مذکر غائب)

يُسْخَرُونَ = وہ ہنسی کرتے ہیں۔ وہ ہنسی کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُسْخَطُونَ = وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ وہ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُسْرًا = آسان ہونا۔ آسانی۔ (مصدر)

يُسْرًا = تو آسان کر۔ (امر۔ واحد مذکر حاضر)

يَسَّرَ = اس نے آسان کیا۔ (ماضی۔ واحد
مذکر غائب)

يَسِّر = وہ رات کو چلے۔ (مضارع۔ واحد
مذکر غائب۔ آخر سے "ی" حذف ہے۔)

يُسْرَى = آسانی۔ بہت آسان۔ (مصدر۔ اسم
تثنیل۔ واحد مونث)

(لَا) يَسْرِفُ = وہ نہ زیادتی کرے۔ (مضارع
نہی۔ واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يُسْرِفُوا = نہیں زیادتی کی انہوں نے۔
انہوں نے فضول خرچی نہ کی۔ (مضارع نفی جحد۔
جمع مذکر غائب)

(إِنْ) يَسْرِقُ = اگر وہ چوری کرتا ہے۔
(مضارع مجزوم۔ واحد مذکر غائب)

(لَا) يَسْرِقُنَّ = نہ وہ چوری کریں گی۔
(مضارع نہی۔ جمع مونث غائب)

يَسْرَنَا = ہم نے آسان کیا۔ (ماضی۔ جمع متکلم)
يُسْرِوْنَ = وہ چھپاتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر
غائب)

يَسْطُرُونَ = وہ لکھتے ہیں۔ وہ لکھیں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَسْطُونَ = وہ حملہ کر ویں۔ (مضارع۔ جمع
مذکر غائب)

أَلْيَسَعُ = ایک پیغمبر کا نام ہے۔ (اسم علم)
يَسْعَى = وہ دوڑتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَسْعَوْنَ = وہ کوشش کرتے ہیں۔ وہ کوشش
کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَسْفِكُ = وہ خون ریزی کرتا ہے۔ وہ خون
ریزی کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُسْفَى = وہ پلایا جاتا ہے۔ وہ پلایا جائے گا۔
(مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يَسْقُونَ = وہ پلاتے ہیں۔ وہ پلائیں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُسْقَوْنَ = وہ پلائے جاتے ہیں۔ وہ پلائے
جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)

يَسْقَى = وہ پلاتا ہے۔ وہ پلائے گا۔ (مضارع۔
واحد مذکر غائب)

يَسْقِينَ = وہ مجھے پلاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد
مذکر غائب۔ آخر سے "ی" متکلم گری ہوئی ہے۔)

يَسْكُنُ = وہ رہتا ہے۔ وہ رہے گا۔ (مضارع۔
واحد مذکر غائب)

يُسْكِنُ = وہ روک دے۔ ساکن کر دے۔
(مضارع مجزوم۔ واحد مذکر غائب)

(أَل) يَسْكُنُوا = تاکہ وہ رہیں۔ (مضارع
مجزوم۔ جمع مذکر غائب)

(إِنْ) يَسْلُبُ = اگر وہ چھین لے۔ (مضارع
مجزوم۔ واحد مذکر غائب)

يُسَلِّطُ = غالب کرتا ہے۔ مسلط کر دیتا ہے۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَسْلُكُ = وہ چلاتا ہے۔ وہ داخل کرتا ہے۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُسَلِّمُ = وہ سوچ دے۔ وہ سپرد کر دے۔

(مضارع مجزوم- واحد مذکر غائب)

يُسَلِّمُوا = وہ قبول کر لیں۔ (مضارع- جمع مذکر

غائب)

يُسَلِّمُونَ = وہ اسلام لاتے ہیں۔ وہ اسلام

لائیں۔ تابعداری کریں گے۔ (مضارع- جمع مذکر

غائب)

(لَمْ) يَسْمَعُ = اس نے نہیں سنا۔ (مضارع

نقی جمد- واحد مذکر غائب)

يَسْمَعُ = وہ سنتا ہے۔ وہ سنے گا۔ (مضارع-

واحد مذکر غائب)

يَسْمَعُونَ = وہ سنتے ہیں۔ وہ سنیں گے۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

يَسْمَعُوا = وہ سنیں۔ (مضارع مجزوم- جمع مذکر

غائب)

يَسْمَعُونَ = وہ خوب سنتے ہیں۔ (مضارع- جمع

مذکر غائب- اصل میں يَسْمَعُونَ تھا "ت" کو

"س" کر کے ادغام کر دیا)

يُسْمُونَ = وہ نام رکھتے ہیں۔ وہ نام رکھیں

گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يُسْمِنُ = وہ موٹا کرتا ہے یا موٹا کرے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

إِسْمَان = موٹا ہونا۔ (صدر)

(ل) يَسُوؤُا = تاکہ وہ بگاڑ دیں۔ تاکہ وہ

برا کر دیں۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَسُوؤُمُ = وہ چکھاتا ہے۔ وہ چکھائے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَسُوؤُونَ = وہ پہنچاتے ہیں۔ وہ پہنچائیں گے۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

يُسَيِّرُ = وہ چلاتا ہے۔ وہ چلائے گا۔ (مضارع-

واحد مذکر غائب)

يَسِيرُ = آسان۔ تھوڑا۔ (صفت مشبہ)

(لَمْ) يَسِيرُوا = وہ نہیں چلے پھرے۔ (مضارع

نقی جمد- جمع مذکر غائب)

يُسَيِّغُ = وہ باآسانی حلق سے اترتا ہے۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

ش - ش

(أَنْ) يَشَأُ = اگر وہ چاہے۔ (مضارع مجزوم-

واحد مذکر غائب)

يَشَأُ = وہ چاہتا ہے۔ وہ چاہے۔ وہ چاہے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَشَاءُ وَنْ = وہ چاہیں گے۔ (مضارع- جمع

مذکر غائب)

(مَنْ) يُشَاقِقُ = وہ مخالفت کرے۔ دشمنی

کے۔ (اس کو یُشَاقِ بادِعام بھی پڑھتے ہیں)۔
(مضارع مجزوم۔ واحد مذکر غائب)

یَشْتَرُونَ = وہ خریدتے ہیں۔ وہ خرید لیتے
ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

یَشْتَرُوا = وہ خریدیں۔ وہ لیں۔ (مضارع۔ جمع
مذکر غائب)

یَشْتَرِي = وہ خریدتا ہے۔ وہ بیچتا ہے۔
(مضارع منصوب۔ واحد مذکر غائب)

يَشْتَهُونَ = وہ خواہش کرتے ہیں۔ وہ خواہش
کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَشْرَبُ = وہ پیتا ہے۔ وہ پئے گا۔ (مضارع۔
واحد مذکر غائب)

يَشْرَبُونَ = وہ پیتے ہیں۔ وہ پیئیں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَشْرُخُ = وہ کشادہ کرتا ہے۔ وہ کھولتا ہے۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُشْرِكُ = وہ شریک کرتا ہے۔ وہ شریک
کے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُشْرِكُ = وہ شریک کیا جاتا ہے۔ (مضارع
مجهول۔ واحد مذکر غائب)

(لَا) يُشْرِكَنَّ = وہ شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔
(مضارع نہی۔ جمع مونث غائب)

يُشْرِكَنَّ = وہ شریک کریں۔ (مضارع۔ جمع
مونث غائب)

يُشْرِكُونَ = وہ شریک کرتے ہیں۔ وہ شرک
کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَشْرُونَ = وہ مول لیتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع
مذکر غائب)

يَشْرِي = وہ بیچتا ہے یا بیچے گا۔ يَشْرِي کا
معنی عموماً ”بیچنا“ کے ہیں ”مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ“
ثلاثی مجزوم میں ”فروخت کرنا“ اور ثلاثی مزید فیہ
میں ”خریدنا“۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَشْعُرُ = وہ خبردار کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد
مذکر غائب)

(لَا) يُشْعِرَنَّ = وہ ہرگز خبردار نہ کرے۔ (نہی
بانون ثقیلہ۔ واحد مذکر غائب)

يَشْعُرُونَ = وہ خبردار ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے
ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَشْفَعُ = وہ سفارش کرے۔ (مضارع۔ واحد
مذکر غائب)

يَشْفَعُونَ = وہ سفارش کرتے ہیں۔ وہ
سفارش کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَشْفَعُوا = وہ سفارش کریں۔ (مضارع
منصوب۔ واحد مذکر غائب)

يَشْفِي = وہ شفا دیتا ہے۔ وہ شفا دے
گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَشْفِي = وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ (مضارع۔
واحد مذکر غائب)

يَشْتَقُّ = وہ پھٹتا ہے۔ وہ پھٹے گا۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب) (اصل میں يَتَشَقَّقُ تھا "ت" کو "ش" کر کے ادغام کروا۔

يَشْكُرُ = وہ شکر کرتا ہے۔ وہ شکر کرے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَشْكُرُونَ = وہ شکر کرتے ہیں۔ وہ شکر کریں

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَشْوِي = وہ جلانے گا۔ وہ بھونے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَشْهَدُ = وہ گواہی دیتا ہے۔ وہ حاضر ہوتا

ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُشْهِدُ = وہ گواہ بناتا ہے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يَشْهَدُونَ = وہ گواہی دیتے ہیں۔ وہ حاضر

ہوتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

ی۔ ص

يُصَبُّ = وہ ڈالا جائے گا۔ وہ اٹھلا جائے گا۔

(مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يُصَبِّ = وہ نہیں پہنچا۔ (مضارع نفی

جمد۔ واحد مذکر غائب)

يُصَبِّ = وہ پہنچے گا۔ (مضارع مجزوم۔ واحد

مذکر غائب)

يُصْبِحُ = وہ ہو جائے گا۔ (مضارع منصوب۔

واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يُصْبِحَنَّ = وہ ضرور ہو جائیں گے۔

(مضارع بالام تاکید و نون ثقیلہ۔ جمع مذکر غائب)

يُصْبِحُونَ = وہ ہو جائیں۔ (مضارع منصوب۔

جمع مذکر غائب)

يُصْبِرُ = وہ صبر کرتا ہے۔ وہ صبر کرے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يُصْبِرُوا = انہوں نے صبر نہیں کیا۔

(مضارع نفی جمد۔ جمع مذکر غائب)

يُصْحَبُونَ = وہ مصاحبت کئے جائیں گے۔

(مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)

يُصَدُّ = وہ روکتا ہے۔ وہ روکے گا۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

يُصَدِّرُ = وہ نکلے گا۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يُصَدِّرُ = وہ لوٹے۔ وہ پھرے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يُصَدِّعُونَ = وہ سر دکھائیں جائیں گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُصَدِّعُونَ = وہ الگ الگ ہوں گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُصَدِّفُونَ = وہ کنارہ کرتے ہیں۔ وہ اعراض

کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُصَدِّونَ = وہ روکتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر

غائب

يُصَدِّقُ = وہ سچا کرتا ہے۔ وہ تصدیق کرے۔

کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

أَنْ يَصَدِّقُوا = وہ خیرات کریں۔ (مضارع

يَصْطَرِحُونَ = وہ فریاد کرتے ہیں۔ وہ فریاد

کریں گے۔ وہ چلائیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر

غائب)

منسوب۔ جمع مذکر غائب)

يُصَدِّقُونَ = وہ سچا کرتے ہیں۔ وہ سچ مانتے

يَصْطَفِي = وہ جن لیتا ہے۔ وہ منتخب کرتا

ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَصِدُّونَ = وہ شور کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع

يَصْعَدُ = وہ چڑھتا ہے۔ وہ چڑھے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

مذکر غائب)

لَا يَصْدُنَّ = وہ ہرگز نہ روکیں۔ (مضارع

يَصْعَدُ = وہ مشکل سے چڑھتا ہے۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

نہی۔ جمع مذکر غائب)

يَصُدُّوا = وہ روکیں۔ باز رکھیں۔ (مضارع

يُصَعِّقُونَ = وہ بے ہوش کئے جائیں گے۔

(مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)

منسوب۔ جمع مذکر غائب)

يُصِرُّ = وہ اصرار کرتا ہے۔ وہ ضد کرتا ہے۔

أَنْ يَصْفَحُوا = وہ درگزر کریں۔ (امر۔ جمع

مذکر غائب)

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَصْرِفُ = وہ پھیرتا ہے۔ وہ پھیرے گا۔

يَصِفُونَ = وہ سراتے ہیں۔ وہ بات بناتے

ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَصْرِفُ = وہ پھیرا جاتا ہے۔ وہ پھیرا جائے

يَصِلُ = وہ پہنچتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر

غائب)

گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُصْرِفُونَ = وہ پھیرے جاتے ہیں۔ (مضارع

يَصْلِي = وہ آگ میں داخل ہوگا۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

مجہول۔ جمع مذکر غائب)

أَنْ يَصْرُمْنَ = وہ ضرور کاٹیں گے۔ (مضارع

يُصَلِّبُ = وہ سولی دیا جائے گا۔ (مضارع

مجہول۔ واحد مذکر غائب)

لام تاکیدیہ بانون ثقیلہ۔ جمع مذکر غائب)

أَلْصُرْمُ = خرے کا درخت کاٹنا۔ (مصدر)

يُصَلِّبُوا = وہ سولی دیئے جائیں۔ (مضارع

مجمول منصوب۔ جمع مذکر غائب

يُصْلِحُ = وہ اصلاح کرتا ہے۔ وہ اصلاح

کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُصْلِحَانِ = وہ دونوں درست کر لیں۔ وہ

دونوں اصلاح کر لیں۔ (مضارع منصوب۔ تشبیہ

مذکر غائب)

يُصْلِحُونَ = وہ اصلاح کرتے ہیں۔ وہ اصلاح

کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُصَلُّونَ = وہ آگ کو پہنچیں گے۔ وہ آگ

میں داخل ہوں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَنْ) يَصِلُوا = وہ ہرگز نہ پہنچیں گے۔ (نفی

موکد معلوم۔ جمع مذکر غائب)

يَصِلُونَ = وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وہ صلہ

رحمی کریں گے۔ وہ جوڑتے ہیں۔ وہ جوڑیں گے۔

وہ ملاتے ہیں۔ وہ ملائیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر

غائب)

يُصَلُّونَ = وہ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ نماز پڑھیں

گے۔ وہ درود بھیجتے ہیں۔ وہ درود بھیجیں گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُصَلِّيَنَّ = وہ نماز پڑھتا ہے یا نماز پڑھے گا۔

درود بھیجتا ہے یا درود بھیجے گا۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

(لَمْ) يَصَلُّوا = انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔

(نفی مجد۔ جمع مذکر غائب)

(فَلَّ) يَضُمُّ = وہ روزہ رکھے۔ (امر۔ واحد مذکر

غائب)

يَضْنَعُ = وہ بناتا ہے۔ وہ بنائے گا۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

يَضْنَعُونَ = وہ بناتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُصَوِّرُ = وہ صورت بناتا ہے۔ وہ تصویر بناتا

ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُضَهِّرُ = وہ پگھلایا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔

واحد مذکر غائب)

يُضَيِّبُ = وہ پہنچتا ہے۔ وہ پہنچائے گا۔ بلا صلہ

معنی ادل با صلہ ”با“ معنی ٹائی۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

(لَنْ) يَضَيِّبُ = وہ ہرگز نہ پہنچے گا۔ (نفی

موکد معلوم۔ واحد مذکر غائب)

ی-ض

(لَا) يُضَارُّ = نہ نقصان پہنچایا جائے۔ (مضارع

مجمول نفی۔ واحد مذکر غائب)

يُضَاعِفُ = وہ دوگنا کرتا ہے۔ وہ دوگنا کرے

گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُضَاعَفُ = وہ دوگنا کیا جاتا ہے۔ وہ دوگنا

کیا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يُضَاهِئُونَ = وہ مشابہت کرتے ہیں۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

يَضْحَكُونَ = وہ ہنستے ہیں۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

(لِ) يَضْحَكُوا = وہ نہیں۔ (امر- جمع مذکر غائب)

يَضُرُّ = وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ نقصان پہنچائے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يَضْرِبُ = وہ مارتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

(لِ) يَضْرِبُنَّ = وہ ڈال لیں۔ (امر- جمع مؤنث غائب)

(لَا) يَضْرِبْنَ = وہ نہ ماریں۔ (مضارع- جمع مؤنث غائب)

يَضْرِبُونَ = وہ مارتے ہیں۔ وہ چلتے ہیں زمین پر۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَضْرَعُونَ = وہ گڑگڑائیں۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَضْرُونَ = وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ نقصان پہنچائیں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَضَعُ = وہ اتارتا ہے۔ وہ اتارے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

(أَنْ) يَضَعْنَ = وہ جنیں گی۔ وہ اتاریں گی۔ (مضارع- جمع مؤنث غائب)

(لَنْ) يُضِلَّ = ہرگز رائیگاں نہیں کرے گا۔

(مضارع منفی موکد بہ لن۔ واحد مذکر غائب)

يُضِلُّ = وہ گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ گمراہ کیا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يُضِلُّ = وہ گمراہ کرتا ہے۔ وہ گمراہ کر دے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

(مَنْ) يُضِلُّ = وہ گمراہ کر دے گا۔ (مضارع مجزوم۔ واحد مذکر غائب)

يُضِلُّ = وہ گمراہ ہوتا ہے۔ وہ بھٹکتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يُضِلُّونَ = وہ گمراہ کئے جاتے ہیں یا کئے جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)

يُضِيئُ = وہ روشنی کر دے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يُضِيغُ = وہ ضائع کرتا ہے۔ وہ ضائع کرے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

(أَنْ) يُضَيِّفُوا = وہ مہمان نوازی کریں۔ (مضارع مجزوم بہ أَنْ۔ جمع مذکر غائب)

يُضَيِّقُ = وہ تنگی کرتا ہے۔ وہ تنگی کرے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

ی - ط

يُطَاعُ = حکم مانا جائے گا۔ اس کی اطاعت کی جائے۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يُطَافُ = وہ پھرایا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔

واحد مذکر غائب)

يَطْتُونُ = وہ روندتے ہیں۔ وہ چلتے ہیں۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَطْبَعُ = وہ مہر کرتا ہے۔ وہ مہر کرے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُطِيعُ = وہ اطاعت کرے۔ (مضارع مجزوم۔

واحد مذکر غائب)

يُظْعَمُ = وہ کھاتا ہے۔ وہ کھائے گا۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

يُظْعَمُ = وہ کھلایا جاتا ہے۔ وہ کھلایا جائے گا۔

(مضارع مجبول۔ واحد مذکر غائب)

يُظْعِمُ = وہ کھلاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

(لَمْ) يَظْعَمُ = اس نے نہیں کھایا۔ (مضارع

نفی جمد۔ واحد مذکر غائب)

يُظْعِمُونَ = وہ کھلاتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب)

يُظْفِغِي = وہ سرکشی کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

(أَنْ) يُظْفِنُوا = کہ وہ آگ بجھادیں۔ (مضارع

منصوب۔ جمع مذکر غائب)

يُظْلَبُ = وہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ پیچھے لگتا ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُظْلِعُ = وہ آگاہ کرے۔ (مضارع منصوب۔

واحد مذکر غائب)

(لِ) يَظْمِنَنَّ = تاکہ تسلی ہو جائے۔ (مضارع

منصوب۔ واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يَظْمِثُ = اس نے صحبت نہیں کی۔

(مضارع نفی جمد۔ واحد مذکر غائب)

يَظْمَعُ = وہ حرص کرتا ہے۔ وہ حرص کرے۔

وہ امید رکھتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَظْمَعُونَ = وہ آرزو رکھتے ہیں۔ وہ امید

رکھتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَظْوِفُ = وہ پھرتا ہے۔ وہ پھرے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَظْوِفُ = وہ طواف کرے۔ (امر۔ واحد مذکر

غائب)

(لِ) يَظْوَفُوا = وہ خوب طواف کریں۔

(مضارع منصوب۔ جمع مذکر غائب)

يَظْوَفُونَ = وہ پھریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر

غائب)

يُظْوَفُونَ = وہ طوق پہنائے جائیں گے۔

(مضارع مجبول۔ جمع مذکر غائب)

يُظَهِّرُ = وہ پاک کرتا ہے۔ وہ پاک کر دے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُظَهِّرُونَ = وہ اچھی طرح پاک کئے جاتے

ہیں۔ (مضارع مجبول۔ جمع مذکر غائب)

(أَنْ) يَظَهِّرُوا = کہ وہ پاک رہیں۔ (مضارع۔

جمع مذکر غائب)

يُظْهِرُونَ = وہ پاک ہو لیں ایام مخصوصہ سے۔

(مضارع منصوب۔ جمع مونث غائب)

يُطَيِّرُ = وہ اڑاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يُطَيِّرُوا = وہ فال بد دیکھتے۔ وہ منحوس سمجھتے۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُطِيعُ = وہ فرمانبرداری کرتا ہے یا فرمانبرداری

کرتے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُطِيعُونَ = وہ پیروی کرتے ہیں۔ وہ اطاعت

کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُطِيقُونَ = وہ طاقت رکھتے ہیں۔ (مضارع۔

جمع مذکر غائب)

ی - ظ

(لَمْ) يُظَاهِرُوا = انہوں نے مدد نہیں کی۔

(مضارع نفی جمد۔ جمع مونث غائب)

يُظَاهِرُونَ = وہ ظہار کرتے ہیں یا کریں گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب) بیوی کو ماں کہہ بیٹھتے

ہیں اور جو مرد اپنی بیوی کو ماں کہہ دے وہ

ایک غلام آزاد کرے تب اس کی بیوی اس کے

لئے حلال ہوگی ورنہ حرام ہوگی۔ (سورہ مجادلہ)

يُظَلِّلْنَ = وہ ہو جائیں۔ وہ سایہ ڈالتے ہیں یا

ڈالیں گے۔ قریب ہوتے ہیں یا ہوں گے۔

(مضارع۔ فعل ناقص۔ جمع مونث غائب)

يُظْلِمُ = وہ ظلم کرتا ہے۔ وہ ظلم کرے۔ وہ

بے انصافی کرتا ہے۔ وہ بے انصافی کرے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُظْلِمُونَ = وہ ظلم کرتے ہیں۔ وہ ظلم کریں

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُظْلَمُونَ = وہ ظلم کئے جائیں گے۔ (مضارع

جمول۔ جمع مذکر غائب)

يُظَنُّ = وہ گمان کرتا ہے۔ وہ یقین کرتا ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُظَنُّونَ = وہ گمان کرتے ہیں۔ وہ یقین کرتے

ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُظَهِّرُ = وہ ظاہر ہو جائے۔ (مضارع۔ واحد مذکر

غائب)

يُظَهِّرُ = وہ ظاہر کرتا ہے۔ وہ ظاہر کرے گا۔

وہ خبردار کرتا ہے۔ وہ خبردار کرے گا۔ وہ غالب

کرے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يُظَهِّرُوا = وہ واقف نہیں ہوئے۔

(مضارع نفی جمد۔ جمع مذکر غائب)

يُظَهِّرُونَ = وہ چڑھیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر

غائب)

ی - ع

يُعْبُوُ = وہ پرواہ کرتا ہے۔ وہ بھاری سمجھتا

ہے۔ وہ بھاری سمجھا جائے گا۔ (مضارع۔ واحد
مذکر غائب)

يَعْبُدُ = وہ عبادت کرتا ہے۔ وہ عبادت کرے
گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَعْبُدُوا = وہ بندگی کریں۔ (مضارع بمعنی امر۔
جمع مذکر غائب)

يَعْبُدُونَ = وہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ عبادت
کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَعْتَدُونَ = وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ وہ
حد سے تجاوز کرتے تھے۔ (مضارع۔ جمع مذکر
غائب)

يَعْتَدِرُونَ = وہ بہانہ کرتے ہیں۔ وہ بہانہ
کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَعْتَزِلُوا = وہ کنارہ کش نہیں ہوئے۔
(مضارع نفی جحد۔ جمع مذکر غائب)

يَعْتَصِمُ = وہ مضبوط تھامے رکھے۔ (مضارع
مجزوم۔ واحد مذکر غائب)

يُعْجِبُ = وہ خوش کرتا ہے۔ وہ تعجب میں
ؤالتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُعْجِزُ = وہ عاجز کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد
مذکر غائب)

يُعْجِزُونَ = وہ عاجز کریں گے۔ وہ بے بس
کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَوْ) يُعْجِلُ = اگر وہ جلدی بھیج دے۔ اگر

وہ جلدی کرے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَعِدُ = وہ وعدہ دیتا ہے یا وعدہ دے گا۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يَعِدْ = اس نے وعدہ نہیں کیا۔ (نفی جحد۔
واحد مذکر غائب)

يَعْدِلُونَ = وہ انصاف کرتے ہیں۔ وہ برابر
کرتے ہیں۔ وہ شرک کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع
مذکر غائب)

يَعْدُونَ = وہ حد سے بڑھتے ہیں۔ (مضارع۔
جمع مذکر غائب)

يُعَذِّبُ = وہ عذاب کرتا ہے۔ وہ عذاب
کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَعْرِجُ = وہ چڑھتا ہے۔ وہ چڑھے گا۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَعْرِجُونَ = وہ چڑھتے ہیں۔ وہ چڑھیں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَعْرِشُونَ = وہ چھت بناتے ہیں۔ وہ چھت
بنائیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُعْرِضُ = وہ روبرو کیا جائے گا۔ (مضارع
مجمول۔ واحد مذکر غائب)

يُعْرِضُ = وہ منہ پھیرتا ہے۔ وہ روگردانی
کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُعْرِضُوا = وہ منہ پھیر لیں۔ (مضارع مجزوم۔
جمع مذکر غائب)

يُعْرَفُ = وہ پہچانا جاتا ہے۔ وہ پہچانا جائے گا۔

(مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يُعْرَفْنَ = وہ پہچانی جائیں۔ (مضارع مجہول۔

جمع مؤنث غائب)

يُعْرَفُونَ = وہ پہچانیں گے۔ وہ پہچانتے ہیں۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

لَمْ يُعْرَفُوا = انہوں نے نہیں پہچانا۔

(مضارع نفی جہد۔ جمع مذکر غائب)

يُعْرَبُ = وہ چھپتا ہے۔ وہ دور ہوتا ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُعْشُ = آنکھ چراتا ہے۔ جان بوجھ کر اندھا

بنتا ہے۔ وہ غافل ہوتا ہے۔ (اصل میں يعشوا

”واؤ“ گر گیا۔ مضارع مجزوم۔ واحد مذکر غائب)

يُعْصِ = وہ نافرمانی کرے۔ (آخر سے ”ی“ گر

گئی) (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُعْصِرُونَ = وہ نچوڑیں گے۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب)

يُعْصِمُ = وہ بچاتا ہے۔ وہ بچائے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُعْضُونَ = وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ (مضارع۔

جمع مذکر غائب)

يُعْصِينَ = وہ نافرمانی کریں۔ (مضارع۔ جمع

مؤنث غائب)

يَعْضُ = وہ کاٹ کھائے گا۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

حَتَّى يُعْطُوا = وہ دیں۔ (مضارع منصوب

بوجہ حَتَّى۔ جمع مذکر غائب)

لَمْ يُعْطُوا = ان کو نہ دیا جائے۔ (مضارع

مجہول۔ جمع مذکر غائب)

يُعْطِي = وہ دیتا ہے۔ وہ دے گا۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

يَعْطُ = وہ نصیحت کرتا ہے۔ وہ نصیحت کرے

گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُعْظِمُ = وہ بڑا بنائے گا۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

مَنْ يُعْظِمُ = وہ تعظیم کرے گا۔ وہ احترام

کرے۔ (مضارع مجزوم۔ واحد مذکر غائب)

يُعْفُو = وہ معاف کرے۔ وہ درگزر کرے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

لِ يَعْفُوا = چاہئے کہ وہ معاف کریں۔ (امر۔

جمع مذکر غائب)

أَنْ يَعْفُونَ = وہ عورتیں معاف کر دیں۔

(مضارع۔ جمع مؤنث غائب)

لَمْ يُعْقِبْ = وہ پیچھے نہیں مڑا۔ (نفی جہد۔

واحد مذکر غائب)

يُعْقِلُ = وہ سمجھتا ہے۔ وہ سمجھے گا۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

يُعْقِلُونَ = وہ عقل رکھتے ہیں۔ وہ عقل

رکھیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَعْتَقِبُ = ایک پیغمبر کا نام ہے جو حضرت

اسحاق عليه السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف عليه السلام کے

باپ تھے ان کا لقب اسرائیل ہے۔ (اسم علم)

يَعْكُفُونَ = وہ دھرنا مار کر بیٹھے رہتے ہیں۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَعْلَمُ = وہ جانتا ہے۔ وہ جانے۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

يَعْلَمُ = وہ سکھاتا ہے۔ وہ سکھائے۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

يَعْلَمَانِ = وہ دونوں سکھاتے ہیں۔ (مضارع۔

تثنیہ مذکر غائب)

يَعْلَمُونَ = وہ سکھاتے ہیں۔ وہ سکھائیں گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَعْلَمُوا = انہوں نے نہیں جانا۔ (لفی

جمع۔ جمع مذکر غائب)

يَعْلَمُونَ = وہ جانتے ہیں۔ وہ جانیں گے۔ وہ

جان لیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَعْلَمُوا = وہ جانیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر

غائب)

يُعْلِنُونَ = وہ ظاہر کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب)

يُعْمُرُ = وہ آباد کرتا ہے۔ وہ زیارت کرتا ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُعْمَرُ = وہ عمر دراز کیا جاتا ہے۔ (مضارع

مجمول۔ واحد مذکر غائب)

(أَنْ) يَعْمُرُوا = کہ وہ آباد کریں۔ (مضارع

منصوب۔ جمع مذکر غائب)

يَعْمَلُ = وہ کام کرتا ہے۔ وہ کام کرے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَعْمَلُونَ = وہ کام کرتے ہیں۔ وہ کام کریں

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَعْمَهُونَ = وہ سرگرداں ہوں۔ وہ سرگرداں

ہوتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَعْوَدُونَ = وہ لوٹتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر

غائب)

يَعْوَدُوا = وہ لوٹیں۔ (مضارع مجزوم و

منصوب۔ جمع مذکر غائب)

يَعْوَدُونَ = وہ پناہ لیتے ہیں۔ وہ پناہ لیں گے۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَعُوقُ = (ایک بت کا نام ہے) جس کو ہندو

شیو کہتے ہیں۔ قوم نوح عليه السلام حضرت ادریس عليه السلام

کے بیٹے کی تصویر بطور بت بنا کر پوجتی تھی بعد

طوفان یہ بت بنو کسلان کے ہاتھ لگا ان سے بنو

ہمدان کو پہنچا۔ (اسم علم۔ مضارع)

يُعِيدُ = وہ لوٹاتا ہے۔ وہ لوٹائے گا۔ وہ لوٹا

دے۔ وہ پھیر کر لا دے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يُعْشَى = وہ ڈھانپتا ہے۔ (مضارع- واحد
مذکر غائب)

يُعْشَى = وہ چھپاتا ہے۔ وہ ڈھانپتا ہے۔
(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُعْشَى = غش ڈالا جاتا ہے۔ (مضارع مجہول-
واحد مذکر غائب)

يُعْشَى = وہ چھپاتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر
غائب)

يُعْضُضْنَ = وہ نیچی رکھیں آنکھوں کو۔
(مضارع- جمع مونث غائب)

يُعْضُوا = وہ نیچی کریں۔ (مضارع مجزوم- جمع
مذکر غائب)

يُعْضُونَ = وہ پست کرتے ہیں۔ (مضارع- جمع
مذکر غائب)

يُعْفِرُ = وہ بخشا ہے۔ وہ بخشے گا۔ وہ بخشے۔
(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُعْفِرُ = وہ بخشا جائے گا۔ وہ بخشا جائے۔
(مضارع مجہول- واحد مذکر غائب)

لَنْ يُعْفِرَ = ہرگز نہ بخشے گا۔ (مستقبل منفی
موکد بہ لن- واحد مذکر غائب)

يُعْفِرُوا = وہ معاف کر دیں۔
يُعْفِرُونَ = وہ معاف کرتے ہیں۔ وہ بخشے ہیں

يا بُخْشِيسْ = (مضارع- جمع مذکر غائب)
يُعْلُ = وہ چھپائے۔ وہ خیانت کرے۔

يُعِيدُوا = وہ لوٹائیں۔ (مضارع منصوب- جمع
مذکر غائب)

لَمْ يَعْى = وہ نہیں تھکا۔ (مضارع نفی جحد-
واحد مذکر غائب)

أَلْعَى = تھک جانا۔ (مصدر)

ی-غ

يُعَاثُ = اس کی فریاد رسی کی جائے۔ وہ
بارش دیا جائے گا۔ (مضارع مجہول- واحد
مذکر غائب)

يُعَاثُوا = وہ فریاد کو پہنچائے جائیں گے۔
(مضارع مجہول مجزوم- جمع مذکر غائب)

يُعَادِرُ = وہ چھوڑتا ہے۔ وہ چھوڑے گا۔
(مضارع- واحد مذکر غائب)

لَا يُعْتَبُ = نہ غیبت کرے۔ (مضارع نہی-
واحد مذکر غائب)

يُعْرِئُ = وہ فریب دیتا ہے۔ وہ فریب دے گا۔
(مضارع- واحد مذکر غائب)

لَا يُعْرُزُ = وہ نہ فریب دے۔ (مضارع-
واحد مذکر غائب)

لَا يُعْرَنُّ = ہرگز دھوکہ میں نہ ڈالے۔
(مضارع نہی باتوں ہتھیہ- واحد مذکر غائب)

يُعْرِقُ = وہ ڈبو تا ہے۔ وہ ڈبوئے گا۔ (مضارع-
واحد مذکر غائب)

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُغْلِبُ = وہ غالب ہوتا ہے یا غالب ہوگا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُغْلِبُونَا = وہ غالب ہوں گے۔ ("ن" گر گیا)

(مضارع مجزوم- جمع مذکر غائب)

يُغْلَبُونَ = وہ مغلوب ہوتے ہیں۔ وہ مغلوب

ہوں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

(هَمٌّ) يُغْلَبُ = وہ خیانت کرے۔ (مضارع-

واحد مذکر غائب)

يُغْلِبُنِي = وہ جوش مارتا ہے۔ وہ جوش مارے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يُغْنُوا = وہ نہیں بے تھے۔ وہ رہتے

ہیں۔ ("ن" گر گیا) (مضارع نفی جحد- جمع مذکر

غائب)

(لَنْ) يُغْنُوا = وہ ہرگز فائدہ نہیں دیں گے۔

("ن" گر گیا) (مضارع موکد- جمع مذکر غائب)

يُغْنِي = وہ بے نیاز کر دے گا۔ وہ مالدار

کر دے گا۔ (مضارع مجزوم- بغیر صلہ کے) کافی

ہوتا ہے۔ (واحد مذکر غائب)

يُغْنِينِي = وہ بے پرواہ کرتا ہے۔ مالدار کر دے۔

وہ فائدہ دے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يُغْنِيَا = وہ کام نہ آئے۔ انہوں نے

فائدہ نہ دیا۔ بصلہ عن فائدہ کے معنی دیتا ہے۔

("ن" گر گیا۔ مضارع نفی جحد- تشبیہ مذکر غائب)

يُغَوِّثُ = وہ فریاد کو پھینکتا ہے یا فریاد کو پھینچے

گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب) ایک بت کا نام

ہے جس کو قوم نوح گھوڑے کی صورت بنا کر

پوجتی تھی۔ ہنود اس کو اندر کہتے ہیں یہ نام

حضرت ادریس عليه السلام کے بیٹے کا بھی ہے۔ ان کی

صورت کا بت بنا کر قوم نوح بعدہ بنی طے پوجتے

تھے ان سے بنو نابیہ چھین کر مدت تک پوجتے

رہے۔

يُغْوِضُونَ = وہ غوطے لگاتے ہیں یا غوطے

لگائیں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يُغْوِي = وہ گمراہ کرے۔ (مضارع- واحد

مذکر غائب)

(لَا) يُغْوِيْزُ = وہ نہیں بدلتا۔ (مضارع منفی- واحد

مذکر غائب)

(لَنْ) يُغْوِيْزَنَّ = وہ ضرور بدل ڈالیں گے۔ (بلاام

تاکید نون ثقلید- جمع مذکر غائب)

يُغْوِيْزُوا = وہ بدل ڈالیں۔ (مضارع مجزوم- جمع

مذکر غائب)

يُغَيِّظُ = خفا کرتا ہے۔ ناراض کرتا ہے۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

ی-ف

يَفْتَحُ = وہ کھولتا ہے۔ وہ کھولے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

(اَل) يَفْتَدُوا - تاکہ وہ فدیہ دیں۔ (مضارع

مجمول۔ جمع مذکر غائب)

(لَوْ) يَفْتَدِي = اگر وہ بدلہ دے۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

(لَا) يَفْتَرُ = وہ نہ ہلکا کیا جائے گا۔ (مضارع

مجمول نہی۔ واحد مذکر غائب)

(أَنْ) يَفْتَرِي = وہ جھوٹ باندھا جائے۔

(مضارع مجبول۔ واحد مذکر غائب)

يَفْتَرُونَ = وہ بہتان باندھتے ہیں۔ وہ بہتان

کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَفْتَرِي = وہ افترا کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يَفْتَرِينَ = وہ جھوٹ باندھیں۔ (مضارع۔ جمع

مؤنث غائب)

يَفْتِنُ = وہ آزماتا ہے۔ وہ آزمائے۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

يَفْتِنُوا = وہ بہکائیں۔ وہ آزماتے ہیں۔ وہ

آزمائیں گے۔ (مضارع منصوب۔ جمع مذکر غائب)

يُفْتَنُونَ = وہ جانچے جائیں گے۔ وہ جلائے

جائیں گے۔ عذاب کئے جائیں گے۔ (مضارع

مجمول۔ جمع مذکر غائب)

يُفْتِي = وہ فتویٰ دیتا ہے۔ وہ فتویٰ دے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُفْجِرُ = وہ نافرمانی کرتا ہے۔ وہ نافرمانی کرے

گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُفْجِرُونَ = وہ بہاتے ہیں۔ وہ بہائیں گے۔ وہ

پھاڑتے ہیں یا پھاڑیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر

غائب)

يَفْرِغُ = وہ بھاگے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَفْرَحُ = وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ خوش ہوگا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لِ) يَفْرَحُوا = وہ خوش ہوں۔ (امر۔ جمع مذکر

غائب)

يَفْرَحُونَ = وہ خوش ہوتے ہیں۔ وہ خوش

ہوں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَفْرُطُ = وہ سرکشی کرتا ہے۔ وہ حد سے

بڑھے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَفْرَطُونَ = وہ قصور کرتے ہیں۔ وہ قصور

کریں گے۔ وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب)

يَفْرُقُ = طے کیا جاتا ہے۔ فیصلہ کیا جاتا ہے۔

(مضارع مجبول۔ واحد مذکر غائب)

(أَلَمْ) يَفْرَقُوا = انہوں نے فرق نہیں کیا۔

(مضارع نفی جمد۔ جمع مذکر غائب)

يَفْرَقُوا = وہ تفریق کریں۔ وہ پھوٹ ڈالتے

ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَفْرَقُونَ = وہ تفریق کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب)

يَفْقَهُونَ = وہ ڈرتے ہیں۔ جدائی ڈالیں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَفْسُخُ = وہ کشادہ کرتا ہے۔ وہ کشادہ کرے گا۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُفْسِدُ = وہ بگاڑتا ہے۔ وہ بگاڑے گا۔ وہ خراب کرتا ہے۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُفْصِلُ = وہ کھول کر بیان کرتا ہے۔ وہ کھول کر بیان کرے گا۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَفْعَلُ = وہ کرتا ہے۔ وہ کرے گا۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُفْعَلُ = وہ کیا جاتا ہے۔ وہ کیا جائے گا۔
(مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يَفْعَلُونَ = وہ کرتے ہیں۔ وہ کریں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَفْعَلُوا = انہوں نے نہیں کیا۔
(مضارع نفی جہد۔ جمع مذکر غائب)

(لِ) يَفْسِدُوا = وہ فساد کریں۔ وہ بگاڑ پیدا کریں۔
(مضارع منصوب۔ جمع مذکر غائب)

يُفْسِدُونَ = وہ خرابی کرتے ہیں یا خرابی کریں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَفْسُقُونَ = وہ نافرمانی کرتے ہیں یا نافرمانی کریں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَفْصِلُ = وہ فیصلہ کرے گا۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُقَالُ = کہا جاتا ہے۔ کہا جائے گا۔
(مضارع)

ی - ق

يُقَاتِلُ = وہ لڑائی کرتا ہے۔ وہ لڑائی کرے۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لِ) يُقَاتِلُ = چاہئے کہ وہ لڑائی کرے۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُقَاتِلُونَ = وہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں یا لڑائی کریں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُقَاتِلُوا = وہ جنگ کریں۔
(مضارع منصوب و مجزوم۔ جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يُقَاتِلُوا = انہوں نے جنگ نہیں کی۔
(مضارع نفی جہد۔ جمع مذکر غائب)

يُقَالُ = کہا جاتا ہے۔ کہا جائے گا۔
(مضارع)

مجمول۔ واحد مذکر غائب)

يَقْبِضُ = وہ تنگ کرتا ہے۔ وہ چھین لیتا ہے۔

مارتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَقْبِضْنَ = وہ بند کرتی ہیں۔ وہ سکیڑتی ہیں۔

تنگ کرتی ہیں۔ (مضارع۔ جمع مؤنث غائب)

يَقْبِضُونَ = وہ تنگ کرتے ہیں۔ وہ بند کرتے

ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَقْبَلُ = وہ قبول کرتا ہے۔ وہ قبول کرے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَنْ) يَقْبَلُ = وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے

گا۔ (مضارع نفی موکد بالبن۔ واحد مذکر غائب)

يَقْتَتِلَانِ = وہ دونوں لڑائی کرتے ہیں۔

(مضارع۔ تشبیہیہ مذکر غائب)

يَقْتَرِفُ = وہ کماتا ہے۔ وہ کمائے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَقْتَرِفُونَ = وہ کماتے ہیں۔ وہ ارتکاب کرتے

ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَقْتَرُوا = تنگی نہیں کی انہوں نے۔

(مضارع نفی جحد۔ جمع مذکر غائب)

يَقْتُلُ = وہ قتل کرتا ہے۔ وہ قتل کرے گا۔

وہ قتل کرے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُقْتَلُ = وہ قتل کیا جائے۔ وہ قتل کروایا جائے۔

(مضارع مجمل۔ واحد مذکر غائب)

(لَا) يَقْتُلَنَّ = وہ نہ قتل کریں۔ وہ نہ ماریں۔

(مضارع نفی۔ جمع مؤنث غائب)

(أَنْ) يَقْتُلُوا = وہ نکلے نکلے کئے جائیں۔

(مضارع مجمل منصوب۔ جمع مذکر غائب)

يَقْتَلُونَ = وہ نکلے نکلے کرتے ہیں۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَقْتُلُونَ = وہ جان سے مارتے ہیں۔ وہ قتل

کر ڈالیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَقْتُلُونَ = وہ مارے جاتے ہیں۔ وہ مارے

جائیں گے۔ (مضارع مجمل۔ جمع مذکر غائب)

يَقْدِرُ = وہ اندازہ کرتا ہے۔ وہ اندازہ کرے

گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَقْدِرُ = وہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ قدرت رکھے

گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَقْدِرُونَ = وہ قدرت رکھتے ہیں۔ (مضارع۔

جمع مذکر غائب)

يَقْدُمُ = وہ آگے چلے گا۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يَقْدِفُ = وہ پھینکتا ہے۔ وہ مارتا ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَقْدِفُونَ = وہ پھینکتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر

غائب)

يُقَدِّفُونَ = وہ پھینکے جاتے ہیں۔ (مضارع

مجمول۔ جمع مذکر غائب)

يَقْرَأُونَ = وہ پڑھتے ہیں۔ وہ پڑھیں گے۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

(لَا) يَقْرَبُوا = وہ نہ نزدیک ہوں۔ (مضارع
نہی- جمع مذکر غائب)

يُقْرَبُوا = وہ نزدیک کر دیں۔ (مضارع- جمع
مذکر غائب)

يُقْرِضُ = وہ ادھار دیتا ہے۔ وہ ادھار دے
گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يُقْسِمُ = وہ قسم کھائے۔ وہ بانٹتا ہے۔ (اقسام
سے) (مضارع- واحد مذکر غائب)

يُقْسِمَانِ = دونوں قسم کھائیں۔ (مضارع-
تثنیہ مذکر غائب)

يُقْسِمُونَ = وہ حصہ کرتے ہیں۔ وہ بانٹتے
ہیں۔ (قسم سے) (مضارع- جمع مذکر غائب)

يُقْضَى = وہ بیان کرتا ہے۔ (مضارع- واحد
مذکر غائب)

يُقْضَوْنَ = وہ کم کرتے ہیں۔ وہ کوتاہی
کرتے ہیں۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يُقْضَوْنَ = وہ بیان کرتے ہیں۔ (مضارع- جمع
مذکر غائب)

يُقْضَى = وہ پورا کیا جائے۔ موت کا فیصلہ کیا
جائے۔ (مضارع مجہول- واحد مذکر غائب)

(لِ) يَقْضُوا = وہ دور کریں۔ (مضارع مجزوم
بوجہ لام امر- جمع مذکر غائب)

يَقْضُونَ = وہ حکم کرتے ہیں۔ وہ حکم کریں

گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَقْضِي = وہ فیصلہ کرتا ہے۔ وہ پورا کرتا
ہے۔ (کبھی ”سی“ گر جاتی ہے) (مضارع- واحد
مذکر غائب)

(لَمَّا) يَقْضِ = اس نے ابھی تک پورا نہیں
کیا۔ (مضارع نفی جمد- واحد مذکر غائب)

(لِ) يَقْطَعُ = وہ کاٹ ڈالے۔ (مضارع
منسوب- واحد مذکر غائب)

يَقْطَعُونَ = وہ کاٹتے ہیں۔ وہ کاٹیں گے۔
(مضارع- جمع مذکر غائب)

يَقْطِئِنِ = کدو کا درخت۔ ہر بیلدار درخت۔
يَقْلَبُ = وہ پلٹتا ہے یا پلٹے گا۔ وہ پھیرتا ہے یا
پھیرے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يُقَلِّدُ = وہ کم کرتا ہے۔ (مضارع- واحد
مذکر غائب)

(هَنْ) يَقْلُ = وہ کمے۔ (مضارع مجزوم- واحد
مذکر غائب)

يَقْنُتُ = وہ فرمانبرداری کرتا ہے۔ وہ کرے گا۔
(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَقْنُظُ = وہ ناامید ہوتا ہے۔ وہ ناامید ہو گا۔
(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَقْنُطُونَ = وہ ناامید ہوتے ہیں۔ وہ ناامید
ہوں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَقُولُ = وہ کہتا ہے۔ وہ کہے گا۔ (مضارع-

واحد مذکر غائب)

(حَتَّى) يَقُولَا = وہ دونوں کہتے ہیں۔ (مضارع منصوب۔ تشنیہ مذکر غائب)

يَكُ - وہ ہے۔ وہ ہوگا۔ وہ ہوتا ہے۔ اصل میں يَكُونُ تھا۔ بحالت جزم ”نون“ گرا دینا بھی جائز ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَقُولُونَ = وہ کہتے ہیں یا کہیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَا) يَقُولَنَّ = وہ ضرور کہے گا۔ (مضارع بلاام تاکید و نون ثقیلہ۔ واحد مذکر غائب)

(لَا) يَقُولَنَّ = وہ ضرور کہیں گے۔ (مضارع بلاام تاکید و نون ثقیلہ۔ جمع مذکر غائب)

يَقُولُوا = وہ کہیں۔ وہ کہیں گے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَقُومَانِ = وہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کھڑا ہوگا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَقُومَانِ = وہ دونوں کھڑے ہوں گے۔ (مضارع۔ تشنیہ مذکر غائب)

يَقُومُونَ = وہ کھڑے ہوں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(أَنْ) يُقِيمَا = وہ دونوں قائم کریں۔ (مضارع۔ تشنیہ مذکر غائب۔ ”نون“ اُن کی وجہ سے گرا ہوا ہے۔)

يُقِيمُوا = وہ قائم کریں۔ وہ ادا کریں۔ (مضارع مجزوم۔ جمع مذکر غائب)

يَقِينَنَّ = یقین۔ بے شک۔ موت۔ (اسم صفت)

يَكُ - وہ ہے۔ وہ ہوگا۔ وہ ہوتا ہے۔ اصل میں يَكُونُ تھا۔ بحالت جزم ”نون“ گرا دینا بھی جائز ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(أَنْ) يَكْتُمَنَّ = وہ چھپائیں۔ وہ چھپائیں گی۔

ہے یا ظاہر کیا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد	(مضارع۔ جمع مؤنث غائب)
مذکر غائب)	يَكْتُمُونَ = وہ چھپاتے ہیں۔ وہ چھپائیں گے۔
يَكْفُفُ = وہ باز رکھے۔ (مضارع۔ واحد	(مضارع۔ جمع مذکر غائب)
مذکر غائب)	(لَمْ) يَكْدُ = وہ نزدیک نہیں ہے یکاد تھا
(لَمْ) يَكْفِ = وہ کافی نہیں ہے۔ (مضارع نفی	(مضارع نفی جحد۔ واحد مذکر غائب)
جحد۔ واحد مذکر غائب)	يُكَذِّبُ = وہ جھٹلاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد
يَكْفُرُ = وہ منکر ہوتا ہے۔ وہ منکر ہوگا۔	مذکر غائب)
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يُكَذِّبُونَ = وہ جھٹلاتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع
يَكْفُرُوا = وہ انکار کریں۔ وہ کفر کریں۔	مذکر غائب)
(مضارع منصوب۔ جمع مذکر غائب)	(أَنْ) يُكَذِّبُوا = وہ جھٹلائیں۔ (مضارع مجزوم۔
يُكْفِرُ = وہ دور کرتا ہے۔ وہ دور کرے گا۔ وہ	جمع مذکر غائب)
دور کرے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يُكَذِّبُونَ = وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ (مضارع۔
يُكْفُرُوا = ان کا انکار کیا جائے۔ (مضارع	جمع مذکر غائب)
مجہول منصوب۔ جمع مذکر غائب)	يُكْرَهُ = وہ زبردستی کرے۔ وہ مجبور کرے۔
يُكْفُرُونَ = وہ منکر ہوتے ہیں۔ وہ کفر کرتے	(مضارع۔ واحد مذکر غائب)
ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	يُكْرَهُونَ = وہ ناخوش ہوتے ہیں۔ وہ ناپسند
(لَمْ) يَكْفُرُوا = انہوں نے کفر نہیں کیا۔	کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
(مضارع نفی جحد۔ جمع مذکر غائب)	يُكْسِبُ = وہ کماتا ہے۔ وہ ارتکاب کرتا
يَكْفُلُ = وہ ضامن ہوتا ہے۔ وہ ذمہ دار ہو۔	ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)	يُكْسِبُونَ = وہ کماتے ہیں۔ وہ ارتکاب کرتے
يَكْفُلُونَ = وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ضامن	ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)
ہوں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)	يَكْشِفُ = وہ کھولتا ہے۔ وہ دور کرتا ہے۔
يَكْفُونَ = وہ باز رکھیں گے۔ (مضارع۔ جمع	(مضارع۔ واحد مذکر غائب)
مذکر غائب)	يَكْشِفُ = وہ کھولا جائے گا۔ ظاہر کیا جاتا

يَكْفِي - وہ کافی ہو گا۔ وہ کفایت کرے گا۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَنْ) يَكْفِي - ہرگز کافی نہ ہوگا۔ (مضارع
نقی مؤکد بہ لن۔ واحد مذکر غائب)

يَكْلُو - وہ حفاظت کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد
مذکر غائب)

يُكَلِّف - وہ تکلیف دیتا ہے۔ وہ مشقت ڈالتا
ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُكَلِّم - وہ بات کرتا ہے۔ وہ بات کرے گا۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَكُن - وہ ہوتا ہے۔ وہ ہوگا۔ وہ ہو۔ کبھی
”ن“ گر جاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَكُنَّ - وہ ہوں۔ (مضارع۔ جمع مونث غائب)
(لَمْ) يَكُنْ - نہ تھا۔ نہ ہے۔ نہ ہو۔ (مضارع
نقی بلم۔ واحد مذکر غائب)

يَكْنِزُونَ - وہ مال ذخیرہ کرتے ہیں۔ وہ مال
اکٹھا کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُكْوِزُ - وہ لپیٹتا ہے۔ وہ لپیٹے گا۔ (مضارع۔
واحد مذکر غائب)

يَكُونُ - وہ ہوتا ہے۔ وہ ہو گا۔ وہ ہو۔ کبھی
”و“ گر جاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَنْ) يَكُونَنَّ - وہ ضرور ہوں گے۔ (مضارع
لام تاکید بانون ثقیلہ۔ جمع مذکر غائب)

يَكُونُوا - وہ دونوں ہوں۔ (مضارع منصوب
مجزوم۔ تشبیہ مذکر غائب)

يَكُونُوا = وہ ہو جائیں گے۔ وہ ہوں۔ وہ
ہوں گے۔

يَكُونُونَ - وہ ہوں گے۔ وہ ہو جائیں۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَكُونُوا - وہ نہیں تھے۔ وہ نہیں ہیں۔
(نقی جمد۔ جمع مذکر غائب)

يَكِينُدُوا = وہ فریب کریں۔
يَكِينُدُونَ = وہ فریب کرتے ہیں۔ وہ خفیہ
تدبیر کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

ی-ل

يَلَاقُوا - وہ ملیں۔ وہ دیکھ لیں یا ملاقات
کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب۔ ”نون“ گرا
ہوا ہے۔)

يَلْبِثُونَ - وہ تاخیر کرتے ہیں۔ وہ ٹھہرتے ہیں۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَلْبِثُوا - وہ نہیں ٹھہرے۔ (نقی جمد۔ جمع
مذکر غائب)

يَلْبِثُ - وہ پنتا ہے یا پنے گا۔ (مضارع۔
واحد مذکر غائب)

يَلْبِثُ - وہ خلط طم کرتا ہے۔ وہ شبہ ڈال
دے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يَلْبِثُوا - انہوں نے نہیں ملایا۔

(مضارع نفی جمد- جمع مذکر غائب)

يَلْبَسُونَ = وہ خلط لٹھ کر دیں۔

يَلْبَسُونَ = وہ شبہ میں ڈالتے ہیں یا ڈالیں

گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَلْبَسُونَ = وہ پہنتے ہیں۔ وہ پہنیں گے۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

(لَا) يَلْت = وہ کم نہیں کرے گا۔ (مضارع

منفی- واحد مذکر غائب)

(لَا) يَلْتَفِتُ = وہ مڑ کر نہ دیکھے۔ وہ متوجہ

نہ ہو۔ (مضارع نفی- واحد مذکر غائب)

يَلْتَقِطُ = وہ اٹھا لے گا۔ (مضارع مجزوم-

واحد مذکر غائب)

يَلْتَقِيَانِ = وہ دونوں ملتے ہیں۔ اکٹھے ہوتے

ہیں۔ (مضارع- تشبیہ مذکر غائب)

يَلْبَحُ = وہ داخل ہوتا ہے۔ وہ داخل ہو

جائے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يُلْحِدُونَ = وہ حق سے پھرتے ہیں۔ وہ کج

روی کرتے ہیں۔ وہ الحاد کرتے ہیں۔ (مضارع-

جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَلْحَقُوا = وہ نہیں ملے۔ آخر سے

”ن“ گر گیا۔ (نفی جمد- جمع مذکر غائب)

(لَمَّا) يَلْحَقُوا = ابھی تک نہیں ملے۔

(مضارع نفی جمد- جمع مذکر غائب)

يَلِدُ = وہ بنتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يَلِدُ = کسی کو نہ بنتا۔ (مضارع نفی جمد-

واحد مذکر غائب)

(لَا) يَلِدُوا = وہ نہ جنمیں گے۔ آخر سے

”ن“ گر گیا۔ (مضارع منفی مجزوم- جمع مذکر

غائب)

يَلْعَبُ = وہ کھیلتے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يَلْعَبُونَ = وہ کھیلیں۔ (مضارع مجزوم- جمع مذکر

غائب)

يَلْعَبُونَ = وہ کھیلتے ہیں۔ وہ کھیلیں گے۔ وہ

کھیلیں۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَلْعَنُ = وہ لعنت کرتا ہے۔ وہ لعنت کرے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَلْفِظُ = وہ بولتا ہے۔ وہ بات کرتا ہے۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَلْقَى = وہ ملاقات کرے گا۔ (مضارع مجزوم-

واحد مذکر غائب)

يُلْقِي = وہ ڈال دے۔ آخر سے ”ی“ گر گئی۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُلْقَى = وہ اتارا جائے۔ وہ ڈالا جائے گا۔

(مضارع مجہول- واحد مذکر غائب)

يُلْقَى = وہ ڈالا جاتا ہے۔ توفیق دی جاتی ہے۔

(مضارع مجہول- واحد مذکر غائب)

يُلْقُوا = وہ ڈالیں۔ وہ ڈالیں گے۔ وہ ڈالتے

ہیں۔ (مضارع- جمع مذکر غائب- نائب مجازم کی

وجہ سے ”نون“ گر گیا ہے)

يَلْقَوْنَ = وہ پہنچیں گے۔ وہ ملیں گے۔
(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَلْقَوْنَ = وہ ڈالتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَلْقَوْنَ = وہ ملاقات کئے جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)

يَلْقِيْ = وہ ڈالتا ہے۔ وہ اتارتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَلْمِزُ = وہ انگلیوں سے بتاتا ہے۔ وہ عیب جوئی کرتا ہے۔ وہ طعنہ کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَلْمِزُونَ = وہ عیب کرتے ہیں۔ وہ طعنہ دیتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَلُونُ = وہ نزدیک ہوتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَلُوْنَ = وہ پیچ دیتے ہیں۔ وہ پھیرتے ہیں۔ وہ بل دیتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَلِيْهِ = وہ غافل کر دے۔ آخر سے ”ی“ گر گئی۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَلْهَتْ = وہ زبان نکالتا ہے۔ وہ زبان نکالے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَلْمِزُ = وہ دراز کرے۔ وہ کھینچے۔ وہ ڈھیل

يَم = دریا۔ سمندر۔ گہرا پانی۔

يُمَارُونَ = وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَمُوتُ = وہ مرتا ہے۔ وہ مرے گا۔ اصل میں يموت تھا (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَمْتَرُونَ = وہ شک کرتے ہیں۔ وہ شک کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَمْتَعُ = وہ فائدہ مند کرتا ہے۔ وہ فائدہ مند کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَمْتَعُونَ = وہ بہرہ مند کئے جاتے ہیں۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)

يَمْحُ = وہ مٹائے گا۔ اصل میں يمحو تھا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَمْحِصُ = وہ خالص کرتا ہے۔ وہ آزما رہا ہے۔ (مضارع منسوب۔ واحد مذکر غائب)

يَمْحُقُ = وہ ناچیز کرتا ہے۔ وہ مٹاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَمْحُوا = وہ مٹاتا ہے۔ وہ مٹائے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَمْدُ = وہ کھینچتا ہے۔ وہ دراز کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَمْدُ = وہ بدو کرتا ہے۔ وہ بدو کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَمْدُ = وہ دراز کرے۔ وہ کھینچے۔ وہ ڈھیل

وے۔ (مضارع مجزوم۔ واحد مذکر غائب)

يُضَدُّ = وہ مد کرے گا۔ وہ اضافہ کرے گا۔

(مضارع مجزوم۔ واحد مذکر غائب)

يُضَدُّونَ = وہ کھینچتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر

غائب)

يُضَوُّونَ = وہ گزرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر

غائب)

يَمْسُ = وہ چھوتا ہے۔ وہ چھوئے گا۔ پہنچتا

ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(أَنْ) يَمْسَسُ = وہ چھوئے۔ پہنچے۔ (مضارع

مجزوم۔ واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يَمْسَسْ = نہیں چھوا۔ (مضارع نفی

مجد۔ واحد مذکر غائب)

(أَل) يَمْسَسَنَّ = ضرور پہنچے گا۔ (بلام تاکید نون

ثقیلہ۔ واحد مذکر غائب)

يُمْسِكُ = وہ نگاہ رکھتا ہے۔ وہ نگاہ رکھے گا۔

تھام رکھا ہے۔ روک لے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يُمْسِكُونَ = وہ مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ وہ

چنگل مارتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَمْشُونَ = وہ چلتے ہیں۔ وہ چلتے پھرتے ہیں۔

(مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَمْشِي = وہ چلتا ہے یا چلے گا۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

يَمْكُثُ = وہ قرار پکڑتا ہے۔ وہ ٹھہرتا ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَمْكُزُ = وہ فریب کرتا ہے۔ وہ مکر کرتا ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَمْكُرُوا = وہ مکر کریں۔ (مضارع منصوب۔

جمع مذکر غائب)

يَمْكُرُونَ = وہ فریب کرتے ہیں۔ وہ مکر

کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(أَل) يَمْكِنَنَّ = وہ ضرور قدرت دے گا۔

(مضارع بلام تاکید و نون ثقیلہ۔ واحد مذکر غائب)

(أَنْ) يُمَلَّ = وہ لکھائے۔ وہ یاد سے لکھاتا

ہے یا لکھائے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب۔

منصوب بوجہ أَنْ)

(أَل) يُمَلِّلُ = چاہئے کہ وہ لکھائے۔

يَمْلِكُ = وہ مالک ہوتا ہے۔ وہ مالک ہے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَمْلِكُونَ = وہ مالک ہوتے ہیں۔ وہ قدرت

رکھتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَمُنُّ = وہ احسان رکھتا ہے۔ وہ احسان جتاتا

ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَمْتُونُ = وہ احسان جتاتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب)

يُمْنِي = وہ نکلیا جاتا ہے۔ وہ ڈالا جاتا ہے۔

(مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

جنتیوں کا نام ہے۔ ازل کے دن حضرت آدم ﷺ کی داہنی طرف سے نکلے تھے اور دنیا میں بھی راستی شعار تھے اور قیامت کے دن عرش کے داہنی طرف کھڑے ہوں گے اور نامہ اعمال بھی داہنے ہاتھ دیئے جائیں گے اور جنت میں جو عرش کی داہنی طرف ہے۔ روانہ ہوں گے۔
أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ بھی جنتیوں کا نام ہے داہنی طرف والے۔ أَصْحَابُ الشِّمَالِ بائیں طرف والے۔ یہ جہنمیوں کا نام ہے۔ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ بھی جہنمیوں کا نام ہے۔ یعنی بائیں طرف والے۔ (مکرب اضافی)

ی - ن

يَنْبِيعُ = چشمے۔ (واحد يُنْبِيعُ ہے)
يَنَادُونَ = وہ پکارتے ہیں۔ وہ پکاریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)
يَنَادُونَ = وہ پکارے جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذكر غائب)
يُنَادِي - يُنَادِي = وہ پکارے گا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)
(لَا) يَنْتَازِعُونَ = وہ ہرگز جھگڑا نہ کریں۔ (مضارع بانون ثقیلہ۔ جمع مذكر غائب)
يَنْتَازِعُ = وہ جھگڑا کرتا ہے یا جھگڑا کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)

يَمْنَعُونَ = وہ باز رکھتے ہیں۔ وہ روکتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)
يُمَتِّعِي = وہ آرزوئیں ڈالتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)
يَمُوتُ = وہ مرتا ہے۔ وہ مرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)
يَمُوتُوا = وہ مرجائیں۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)
يَمُوتُونَ = وہ مرتے ہیں یا مرے گئے۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)
يَمُوجُ = وہ دھنتا ہے یا دھننے گا۔ وہ حرکت کرتا ہے یا حرکت کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)
يَمْهَدُونَ = وہ تیار کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)
يُمِيتُ = وہ مارتا ہے۔ وہ مارے گا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)
(لِ) يَمِيئُ = تاکہ وہ جدا کر دے۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب۔ منصوب بوجہ لام "کنی")
يَمِيلُونَ = وہ خواہش کرتے ہیں یا خواہش کریں گے۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)
يَمِينُ = سمت۔ داہنی طرف۔ داہنا ہاتھ۔ قوت۔ (جمع أَيْمَانُ ہے)
أَصْحَابُ الْيَمِينِ = داہنی طرف والے۔

یَنْتَظِرُونَ = وہ پہنچتا ہے۔ وہ ملتا ہے۔ (مضارع - جمع واحد مذكر غائب)	یَنْتَظِرُونَ = وہ بدلتے لیتے ہیں۔ (مضارع - جمع مذكر غائب)
(لَنْ) يَنْتَظِرَ = ہرگز نہ پہنچے گا۔ (مضارع منفی موکد بہ لن - واحد مذكر غائب)	یَنْتَظِرُونَ = وہ انتظار کرتا ہے۔ وہ امید رکھتا ہے۔ (مضارع - واحد مذكر غائب)
يَنْتَالُونَ = وہ پہنچتے ہیں۔ وہ پاتے ہیں۔ (مضارع - جمع مذكر غائب)	یَنْتَظِرُونَ = وہ امید رکھتے ہیں۔ وہ انتظار کرتے ہیں۔ (مضارع - جمع مذكر غائب)
(لَمْ) يَنْتَالُوا = وہ نہیں پہنچے۔ (مضارع نفی حجد - جمع مذكر غائب)	يَنْتَقِمُ = وہ بدلہ لے گا۔ (مضارع نفی حجد - واحد مذكر غائب)
يَنْتَوُونَ = وہ دور ہوتے ہیں۔ (مضارع - جمع مذكر غائب)	(لَمْ) يَنْتَه = وہ باز نہ آیا۔ (مضارع - واحد مذكر غائب)
يَنْتَبِيْ = وہ آگاہ کرتا ہے۔ وہ خبردار کرتا ہے۔ (مضارع - واحد مذكر غائب)	(لَمْ) يَنْتَهُوا = وہ باز نہ آئے۔ (مضارع نفی حجد - جمع مذكر غائب)
يَنْتَبَأُ = وہ خبردار کیا جائے گا۔ (مضارع مجہول - واحد مذكر غائب)	يَنْتَهُوا = وہ باز آجائیں۔ (مضارع مجزوم - جمع مذكر غائب)
(لَمْ) يَنْتَبَأْ = وہ خبردار نہیں کیا گیا۔ (نفی حجد مجہول - واحد مذكر غائب)	يَنْتَهُونَ = وہ باز رہیں۔ (مضارع - جمع مذكر غائب)
يَنْتَبِئُ = وہ آگاتا ہے۔ (مضارع - واحد مذكر غائب)	يُنَجِّجِي = وہ نجات دیتا ہے۔ (مضارع - واحد مذكر غائب)
(لِ) يُنْبِئَنَّ = وہ ضرور پھیکا جائے گا۔ (مضارع مجہول بلام تاکید و نون ثقیلہ - واحد مذكر غائب)	يُنَجِّجِي = وہ نجات دیتا ہے۔ (مضارع - واحد مذكر غائب)
يَنْبَغِيْ = وہ لائق ہے۔ وہ حق دار ہے۔ (مضارع - واحد مذكر غائب)	يُنَجِّتُونَ = وہ تراشتے ہیں۔ (مضارع - جمع مذكر غائب)
يَنْبُوعٌ = چشمہ۔ (جمع يتابع ہے)	(لِ) يُنْذِرُوا = چاہئے کہ وہ ڈرائیں۔ (مضارع منصوب - جمع مذكر غائب)

يُنْدِرُ = وہ ڈرائے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يُنْدِرُونَ = وہ ڈراتے ہیں۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

غائب

يُنْدَرُونَ = وہ ڈراتے جاتے ہیں یا ڈرائے

جائیں گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَنْزِعُ = وہ کھینچتا ہے۔ وہ کھینچے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

واحد مذکر غائب

يَنْزِعُ = وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ فساد ڈالتا

ہے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يَنْزَعَنَّكَ = تجھ کو فتنہ میں ڈالے۔ ورغلائے۔

(”ک“ ضمیر حاضر کی ہے) (مضارع موکد بانون

ثقلیدہ- واحد مذکر غائب)

يَنْزِفُونَ = وہ بکیں گے۔ (مضارع مجہول- جمع

مذکر غائب)

يَنْزِلُ = وہ اترتا ہے۔ وہ اترے گا۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

واحد مذکر غائب)

يَنْزِلُ = وہ امارتا ہے۔ وہ امارے۔ وہ آہستہ

آہستہ امارتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يَنْزِلُ = وہ امارا جاتا ہے۔ وہ امارا جائے۔

(مضارع مجہول- واحد مذکر غائب)

يَنْسِي = وہ بھولتا ہے۔ وہ بھولے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يَنْسَخُ = وہ مٹاتا ہے۔ وہ محو کردیتا ہے۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُنْسِفُ = وہ بکھیر ڈالے گا۔ (مضارع- واحد

مذکر غائب)

(أَهًا) يُنْسِينُ = وہ بھلا وے۔ (مضارع بانون

ثقلیدہ- واحد مذکر غائب)

يُنْسِلُونَ = وہ نکل بھاگتے ہیں یا نکل بھاگیں

گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يُنْسِي = وہ بھلاتا ہے۔ وہ بھلا دے۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُنْشَأُ = وہ پالا جاتا ہے۔ (مضارع مجہول- واحد

مذکر غائب)

يُنْشِئُ = وہ پیدا کرتا ہے۔ وہ پیدا کرے گا۔

وہ اٹھائے گا۔ وہ اٹھاتا ہے۔ (مضارع- واحد

مذکر غائب)

يُنْشُرُ = وہ پراگندہ کرتا ہے۔ وہ پھیلانے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

يُنْشِرُونَ = وہ اٹھائیں گے۔ (مضارع- جمع

مذکر غائب)

يَنْصُرُ = وہ مدد کرتا ہے۔ وہ مدد کرے گا۔ وہ

مدد کرے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

(لَ) يَنْصُرُونَ = وہ ضرور مدد کرے گا۔

(مضارع لام تاکید نون ثقلیدہ- واحد مذکر غائب)

يَنْصُرُونَ = وہ مدد کرتے ہیں۔ وہ مدد کریں

گے۔ وہ مدد کریں۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يَنْصُرُونَ = وہ مدد کئے جائیں گے۔ (مضارع

مجمول - جمع مذکر غائب

يَنْطِقُ = وہ کہتا ہے۔ وہ بولتا ہے۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

يَنْطِقُونَ = وہ بولتے ہیں۔ وہ بولیں گے۔ وہ

بات کرتے ہیں۔ وہ بات کریں گے۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب)

يَنْطَلِقُ = وہ چلتا ہے۔ وہ چلے گا۔ (مضارع۔

واحد مذکر غائب)

(إِل) يَنْظُرُ = چاہئے کہ دیکھے۔ اسے دیکھنا

چاہئے۔ (امر۔ واحد مذکر غائب)

يَنْظُرُ = وہ دیکھتا ہے۔ وہ دیکھے گا۔ وہ انتظار

کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَنْظُرُونَ = وہ دیکھیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر

غائب۔ "نون" ساقط ہو گیا ہے۔)

(لَمْ) يَنْظُرُوا = انہوں نے نہیں دیکھا۔ (نقی

مجد۔ جمع مذکر غائب)

يَنْظُرُونَ = وہ دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھیں گے۔ وہ

مہلت دیتے ہیں۔ وہ مہلت دیں گے۔ (مضارع۔

جمع مذکر غائب)

يَنْظُرُونَ = وہ مہلت دیئے جاتے ہیں۔ وہ

مہلت دیئے جائیں گے۔ (مضارع مجمول۔ جمع مذکر

غائب)

يَنْع = میوہ پکنا۔ مراد کو پہنچنا۔ (مصدر)

يَنْعِقُ = وہ چلاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يُنْغِضُونَ = وہ منکاتے ہیں۔ وہ منکائیں گے۔

وہ سر ہلائیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُنْفِخُ = وہ پھونکا جاتا ہے۔ وہ پھونکا جائے گا۔

(مضارع مجمول۔ واحد مذکر غائب)

يُنْفِذُ = وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ختم ہوگا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(إِل) يَنْفِرُونَ = تاکہ وہ نکلیں۔ کوچ کریں۔

(مضارع منصوب۔ جمع مذکر غائب)

يَنْفَضُّوا = وہ پراگندہ ہوتے ہیں۔ وہ پراگندہ

ہو جائیں۔ وہ بھاگ کھڑے ہوں۔ (مضارع

منصوب۔ جمع مذکر غائب۔ "نون" گر گیا ہے۔)

يَنْفَعُ = وہ فائدہ کرتا ہے۔ وہ فائدہ کرے گا۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَنْ) يَنْفَعَ = ہرگز فائدہ نہ دے گا۔ (مستقبل

منفی موکد بہ لن۔ واحد مذکر غائب)

يَنْفَعُونَ = وہ فائدہ دیتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب)

يُنْفِقُ = وہ خرچ کرتا ہے۔ وہ خرچ کرے۔

(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(إِل) يُنْفِقُ = چاہئے کہ خرچ کرے۔ (امر۔ واحد

مذکر غائب)

يُنْفِقُونَ = وہ خرچ کریں۔ وہ خرچ کریں

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُنْفِقُوا = وہ خرچ کریں۔ (مضارع منصوب۔
جمع مذكر غائب)

يُنْفُوا = وہ نکال دیئے جائیں۔ وہ جلا وطن
کئے جائیں۔ (مضارع منصوب۔ جمع مذكر غائب)

يُنْقِدُونَ = وہ چھڑائیں گے۔ (مضارع۔ جمع
مذكر غائب)

يُنْقَدُونَ = وہ چھڑائے جائیں گے۔ (مضارع
مجمول۔ جمع مذكر غائب)

يُنْقُصُ = وہ کم کیا جاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد
مذكر غائب)

(لَمْ) يَنْقُضُوا = انہوں نے کم نہیں کیا۔
(مضارع نفی جمد۔ جمع مذكر غائب)

(أَنْ) يَنْقُصَ = وہ گر جائے۔ (مضارع
منصوب۔ واحد مذكر غائب)

يَنْقُضُونَ = وہ توڑتے ہیں۔ وہ توڑیں گے۔
(مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يَنْقَلِبُ = وہ اُلٹ پٹتا ہے۔ وہ لوٹے گا۔
(مضارع۔ واحد مذكر غائب)

(لَنْ) يَنْقَلِبَ = وہ ہرگز نہیں لوٹے گا۔
(مضارع منصوب بالن۔ واحد مذكر غائب)

يَنْقَلِبُونَ = وہ پھرس گے۔ وہ اٹھیں گے۔
(مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يَنْكُثُ = وہ توڑتا ہے۔ (مضارع۔ واحد
مذكر غائب)

يَنْكُثُونَ = وہ توڑتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذكر
غائب)

يَنْكُحُ = وہ نکاح کرتا ہے۔ وہ نکاح کرے۔
(مضارع۔ واحد مذكر غائب)

يَنْكِحُنَّ = وہ نکاح کر لیں۔ (مضارع۔ جمع
مونث غائب)

يُنْكِرُ = وہ انکار کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد
مذكر غائب)

يُنْكِرُونَ = وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ انکار کریں
گے۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يَنْهَى = وہ منع کرتا ہے۔ وہ روکتا ہے۔ وہ
روکے گا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)

يَنْهَوْنَ = وہ منع کرتے ہیں۔ وہ منع کریں
گے۔ (مضارع۔ جمع مذكر غائب)

يُنْبِئُ = وہ رجوع کرتا ہے۔ وہ رجوع کرے
گا۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)

ی - و

يُؤَاخِذُ = وہ گرفت کرتا ہے۔ وہ گرفت
کرے۔ (مضارع۔ واحد مذكر غائب)

يُؤَادُّونَ = وہ باہم دوستی کرتے ہیں۔ (مضارع۔
جمع مذكر غائب)

يُؤَارِي = وہ چھپاتا ہے۔ وہ چھپائے۔ (مضارع۔
واحد مذكر غائب)

(لِ) يُوَاطِئُوا = تاکہ وہ موافقت کریں۔

(مضارع- جمع مذکر غائب) (آخر سے ”ن“ گر گیا)

يُؤْبِقُ = وہ ہلاک کرتا ہے۔ وہ ہلاک کرے گا۔

وہ تباہ کرتا ہے۔ وہ تباہ کرے گا۔ (مضارع- واحد

مذکر غائب)

يُؤْتِ = وہ دیتا ہے۔ وہ دے گا۔ وہ دے۔

(اصل میں يُؤْتِي تھا) (مضارع- واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يُؤْتِ = اس نے نہیں دیا۔ (مضارع نفی

جحد معلوم- واحد مذکر غائب)

يُؤْتِي = اس کو عطا کیا جائے۔ وہ دیا جائے۔

(مضارع مجہول- واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يُؤْتِ = اس کو نہیں دیا گیا۔ (مضارع

مجہول نفی جحد- واحد مذکر غائب)

يُؤْتُونَ = وہ دیتے ہیں۔ وہ دیں گے۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

يُؤْتُونَ = وہ دیئے جائیں گے۔ وہ دیئے جاتے

ہیں۔ (مضارع مجہول- جمع مذکر غائب)

(أَنْ) يُؤْتُوا = وہ عطا کریں۔ (مضارع منصوب

بہ أَنْ- جمع مذکر غائب)

يُؤْتِي = وہ دیتا ہے۔ وہ دے گا۔ (مضارع-

واحد مذکر غائب)

يُؤْتُو = وہ نقل کیا جاتا ہے۔ وہ ترجیح دیا جاتا

ہے۔ (مضارع مجہول- واحد مذکر غائب)

يُؤْتُونَ = وہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ ترجیح دیتے

ہیں۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

يُؤْتِقُ = وہ باندھے گا۔ وہ مضبوط کرے گا۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

(أَيْتَمًا) يُؤَجِّهُ = جدھر وہ متوجہ ہو۔ وہ متوجہ

کرے۔ روانہ کرے۔ (مضارع مجزوم- واحد

مذکر غائب)

(لَمْ) يُؤْحَ = وحی نہیں بھیجی گئی۔ (مضارع

مجہول نفی جحد- واحد مذکر غائب) (آخر سے ”ی“

گر گئی)

يُؤْحِي = وہ وحی کیا جاتا ہے۔ وہ وحی بھیجا

جاتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يُؤْحُونَ = وہ پیغام بھیجتے ہیں۔ وہ پہنچاتے ہیں۔

(مضارع- جمع مذکر غائب)

يُؤْحِي = وہ پیغام بھیجتا ہے۔ وہ وحی بھیجتا

ہے۔ وہ بتاتا ہے۔ (مضارع- واحد مذکر غائب)

يُؤْحِدُ = وہ لیا جاتا ہے۔ وہ لیا جائے گا۔ وہ

پکڑا جائے گا۔ (مضارع مجہول- واحد مذکر غائب)

(لَمْ) يُؤْحِدُ = نہیں لیا گیا۔ (نفی جحد مجہول-

واحد مذکر غائب)

يُؤْحِرُ = وہ ویر کرتا ہے۔ وہ موخر کرتا ہے۔

(مضارع- واحد مذکر غائب)

(لَنْ) يُؤْحِرُ = ہرگز نہیں مہلت دے گا۔ ہر

گز موخر نہ کرے گا۔ (مضارع منصوب پالن-

واحد مذکر غائب)

يُوْخِرُ = وہ مہلت دیا جاتا ہے۔ وہ تاخیر کیا جاتا ہے۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يُوْدُّوْا = وہ چاہیں گے۔ (مضارع مجزوم۔ جمع مذکر غائب)

يُوْدِّيْ = وہ ادا کر دے۔ (آخر سے "ی" مگر گئی) (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُوْدُّوْا = وہ دوست رکھتا ہے۔ وہ دوست رکھے گا۔ وہ آرزو کرتا ہے۔ وہ آرزو کرے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُوْدُّوْنَ = وہ چاہتے ہیں۔ وہ چاہیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُوْدِّنُ = اجازت دی جائے۔ وہ اجازت دیا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يُوْدِّوْنَ = وہ تکلیف دیتے ہیں۔ وہ تکلیف دیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُوْدِّوْا = وہ تکلیف دیتا ہے۔ اذیت دیتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(لَا) يُوْدِّوْنَ = وہ نہ ستائی جائیں گی۔ (مضارع مجہول۔ جمع مونث غائب)

يُوْرِثُ = وہ وارث کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُوْرِثُ = وہ میراث دیا جاتا ہے۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يُوْرِثُوْنَ = وہ ٹولیوں میں کھڑے کئے جائیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُوْسُفُ = ایک پیغمبر کا نام ہے جو حضرت

يعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ کے بیٹے تھے۔ کنعان میں پیدا ہوئے مصر میں بادشاہ ہوئے وہیں انتقال فرمایا۔ (اسم علم)۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُوْسُوْسُ = وہ دوسرے ڈالتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُوْصِيْ = وصیت کی جائے۔ وصیت کی گئی۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(أَنْ) يُوْصَلَ = یہ کہ ملایا جائے۔ (مضارع منصوب۔ واحد مذکر غائب)

يُوْصِيْ = وہ وصیت کرتا ہے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُوْصِيْنَ = وہ وصیت کر جائیں۔ (مضارع۔ جمع مونث غائب)

يُوْعَدُوْنَ = وہ وعدہ دیئے جاتے ہیں۔ وہ ڈرائے جاتے ہیں۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)

يُوْعَظُ = وہ نصیحت دیا جاتا ہے۔ وہ سمجھایا جاتا ہے۔ (مضارع مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يُوْعَظُوْنَ = وہ نصیحت دیئے جاتے ہیں۔ وہ نصیحت دیئے جائیں گے۔ (مضارع مجہول۔ جمع مذکر غائب)

يُوْعُوْنَ = وہ نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ دل میں رکھتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُوفِّ - پورا پورا دیا جائے گا۔ (مضارع)

بجزوم۔ واحد مذکر غائب)

يُوقَدُ = وہ جلایا جاتا ہے۔ وہ روشن کیا جاتا

بجزوم۔ واحد مذکر غائب)

ہے۔ وہ سلگایا جائے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُوقَى - وہ پورا دیا جائے گا۔ (مضارع مجہول۔

واحد مذکر غائب)

يُوقَدُونَ = وہ آگ دھونکتے ہیں۔ وہ سلگاتے

ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُوفَضُونَ - وہ دوڑتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع

مذکر غائب)

(أَنْ) يُوقَعُ = یہ کہ وہ ڈالے۔ وہ واقع

کرتے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُوقَفُ = وہ توفیق دے گا۔ وہ موافقت کرے

گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُوقِنُونَ = وہ یقین کرتے ہیں۔ وہ یقین کریں

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُؤْفَكُ - وہ پھیرا جاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يُؤَلَّ - وہ پیٹھ پھیرے گا۔ وہ موڑے گا۔

(”ی“ گر گئی۔ مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُؤْفَكُونَ - وہ پھیرے جاتے ہیں۔ (مضارع۔

جمع مذکر غائب)

يُؤَلِّجُ = وہ داخل کرتا ہے۔ وہ داخل کرے

گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

(وَل) يُؤْفَوُا - چاہئے کہ پورا کریں۔ (مضارع

بجزوم۔ جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يُؤَلِّدْ = وہ نہیں جتا گیا۔ (مضارع۔ نفی

بلم مجہول۔ واحد مذکر غائب)

يُؤْفُونَ = وہ پورا کرتے ہیں۔ وہ وفا کرتے

ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُؤَلِّفُ = وہ ملاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد

مذکر غائب)

يُؤْفُونَ = وہ پورا دیئے جاتے ہیں۔ وہ پورا

دیئے جائیں گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يُؤَلُّونَ = وہ پیٹھ پھیرتے ہیں۔ وہ پیٹھ پھیریں

گے۔ وہ بھاگتے ہیں۔ وہ بھاگیں گے۔ (مضارع۔

جمع مذکر غائب)

يُوقَى = وہ پورا پورا اجر دے۔ وہ پورا پورا

اجر دے گا۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُؤَلُّوا = وہ پھر جائیں گے۔ (مضارع بجزوم۔ جمع

مذکر غائب)

(أَل) يُؤْفَيْنَ = وہ ضرور ضرور پورا پورا دے

گا۔ (مضارع لام تاکید نون ثقیلہ۔ واحد مذکر

غائب)

يُؤَلُّونَ = ایلاء کرتے ہیں۔ یعنی قسم کھاتے

ہیں کہ اپنی عورت کے پاس نہ جائیں گے۔

(مَنْ) يُؤُقْ - وہ بچایا گیا۔ (مضارع مجہول

(مضارع- جمع مذکر غائب)

(لِ) يُؤْمِنُ = چاہئے کہ وہ ایمان لائے۔ (امر-

واحد مذکر غائب)

مسئلہ - مذہب خفی میں جو مرد ایلاء کرنے

(لِ) يُؤْمِنُ = وہ ایمان لاتا ہے۔ وہ ایمان لائے گا۔

والا چار مہینے کے اندر رجوع کر کے عورت کے

(مضارع- واحد مذکر غائب)

پاس گیا عورت حلال ہوگئی اسے کفارہ دینا ہوگا۔

(لَمْ) يُؤْمِنُ = وہ ایمان نہیں لایا۔ (مضارع نفی

اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اور جس نے باوجود

جدد- جمع مذکر غائب)

قدرت کے چار مہینے کے عرصہ میں رجوع نہ کیا

(لَمْ) يُؤْمِنُوا = وہ ایمان نہیں لائے۔ (نفی

عورت سے ہم صحبت نہ ہوا طلاق بائن ہو جائے

جدد- جمع مذکر غائب)

گی عورت نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ مگر شافی-

(لَمْ) يُؤْمِنُونَ = وہ ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں

مالکی اور حنبلی کے نزدیک چار مہینے گزرتے ہی

گے۔ (مضارع- جمع مذکر غائب)

طلاق نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے بعد بھی کفارہ

(لِ) يُؤْمِنَنَّ = وہ ضرور ایمان لائے گا۔

وے کر رجوع کر سکتا ہے اگر پھر بھی رجوع نہ

(مضارع لام تاکید بانون ثقیلہ- واحد مذکر غائب)

کرے تو عورت تاقضی کے یہاں دعویٰ کرے کہ

(لَنْ) يُؤْمِنُ = وہ ہرگز ایمان نہیں لائے

شوہر رجوع کرے یا طلاق دے۔

گا۔ (مضارع موکد- واحد مذکر غائب)

يَوْمٌ = دن- روز- وقت- (جمع ایام ہے)

(لِ) يُؤْمِنَنَّ = وہ ضرور ایمان لائیں گے۔

يَوْمُ التَّلَاقِ = ملاقات کا دن- (مركب اضافی)

(مضارع- با لام تاکید و نون ثقیلہ- جمع مذکر

”ی“ گرجی)

غائب)

يَوْمُ الْفَصْلِ = فیصلے کا دن- قیامت- (مركب

يَوْمَيْنِ = دو دن- (اسم تشبیہ) (واحد يَوْمٌ اور

اضافی)

جمع آیات ہے)

يَوْمِيذٍ = آج کا دن- اس دن- (مركب اضافی-

يُونُسُ = ایک پیغمبر کا نام ہے جو مچھلی کے


اصل يَوْمٌ- اِذٌ- كَانَ- كَذَا ہے)

پیٹ میں چالیس روز رہ کر زندہ نکلے۔ (اسم علم)

يَوْمَرُونَ = وہ حکم کئے جاتے ہیں۔ (مضارع

مجمول- جمع مذکر غائب)

يُؤْمِنُ = وہ ایمان لاتی ہیں۔ وہ ایمان لائیں-



(مَنْ) يُهَاجِرُ = وہ وطن چھوڑے۔ (مضارع

(مضارع- جمع مؤنث غائب)

مجزوم۔ واحد مذکر غائب)

يُهَاجِرُونَ = وہ ہجرت کریں۔ (مضارع۔ جمع
مذکر غائب)

يَهْبُ = وہ بخفا ہے۔ وہ بخشے گا۔ (مضارع۔
واحد مذکر غائب)

يَهْبِطُ = وہ گرتا ہے۔ وہ اترتا ہے۔ (مضارع۔
واحد مذکر غائب)

يَهْتَدُونَ = وہ راہ پاتے ہیں۔ وہ ہدایت پاتے
ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

(لَمْ) يَهْتَدُوا = انہوں نے ہدایت نہ پائی۔
(مضارع نفی جحد۔ جمع مذکر غائب)

(لَنْ) يَهْتَدُوا = وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں
گے۔ (مضارع بالن نامب۔ جمع مذکر غائب)

يَهْتَدِي = وہ ہدایت پاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد
مذکر غائب)

(لَمْ) يَهْتَدِ = اس نے نہیں راہ دکھائی۔
(مضارع نفی جحد۔ واحد مذکر غائب)

يَهْجَعُونَ = وہ سوتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع
مذکر غائب)

يَهْدِ = وہ راہ بتاتا ہے۔ وہ راہ بتلائے۔ (”ی“
گر گئی) (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُهْدِي = وہ راہ بتایا جاتا ہے۔ (مضارع
مجمول۔ واحد مذکر غائب)

يَهْدُونَ = وہ راہ بتاتے ہیں۔ وہ راہ بتائیں

گے۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)

يَهْدِي = وہ راہ بتاتا ہے۔ وہ راہ بتائے گا۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يَهْدِي = وہ صحیح راہ پاتا ہے۔ (مضارع۔ واحد
مذکر غائب) (اصل میں بہتدی تھا ”ت“ کو ”د“
سے بدل کر ادغام کیا اور ”ہ“ کو کسرو دے دیا۔

يُهْرَعُونَ = وہ دوڑائے جاتے ہیں۔ (مضارع۔
جمع مذکر غائب)

يُهْرَمُ = وہ شکست دیا جاتا ہے۔ وہ شکست دیا
جائے گا۔ (مضارع مجمول۔ واحد مذکر غائب)

(لِ) يَهْلِكُ = وہ تباہ ہو جائے۔ وہ مرے۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُهْلِكُ = وہ ہلاک کیا جائے گا۔ وہ تباہ کیا
جائے گا۔ (مضارع مجمول۔ واحد مذکر غائب)

(لِ) يُهْلِكُ = وہ ہلاک کر دے۔ وہ مارے۔
وہ تباہ کرے۔ (مضارع۔ واحد مذکر غائب)

يُهْلِكُونَ = وہ ہلاک کرتے ہیں۔ وہ خراب
کرتے ہیں۔ (مضارع۔ جمع مذکر غائب)


(مَنْ) يُهِنُّ = جس کو وہ ذلیل کر دے۔
(مضارع۔ واحد مذکر غائب) (اصل میں يُهِنُّ تھا)

يَهُودٌ = یہودی۔ (جمع۔ واحد يَهُودِي ہے)

يَهُودِيٌّ = یہودی۔ یعنی حضرت موسیٰ ﷺ کا
امتی (اسم واحد) (جمع يَهُودٌ ہے)

يُهَيِّئُ = وہ تیار کرتا ہے یا تیار کرے گا۔

جمع مذکر غائب



(لَا) يَيْتَسُّسُ = ناامید نہیں ہوتا ہے۔ (مضارع منفی - واحد مذکر غائب)

(مضارع - واحد مذکر غائب)

يَهْبِطُ = وہ خشک ہوتا ہے۔ وہ زور پر آتا ہے۔ (مضارع - واحد مذکر غائب)
يَهْمُمُونَ = وہ سرگشتہ ہوتے ہیں۔ وہ حیران و پریشان پھرتے ہیں۔ بے راہ چلتے ہیں۔ (مضارع -

اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کے لئے یہ اللہ کی کتاب کی اپنے بچوں اور دیگر طلبہ کے لئے سنائی گئی طلبہ دعا
سید نذر عباس رضوی
16.8.2008